

اظہارِ احقٰت کا اردو ترجمہ اور شرح و تحقیق

مہکتبہ عربی ارالعجمیہ مرکز لیجن

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَيْنَا كَلِمَاتُ رَبِّنَا وَلَا يُنَزَّلُ^{کتبہ}

بابل ح سے قرآن تک

حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیروں
بانی دارالعلوم خرم مدرسہ صولتیہ مکہ معظمه

کی شہرہ آفاق نالیف
اطھار المحقق

کارڈ ترجمہ اور شرح و تحقیق

جلد دوم

شرح و تحقیق

ترجمہ

مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ محمد تقی عثمانی

سابق استاذ حدیث دارالعلوم کراچی استاذ حدیث دارالعلوم کراچی

فایشی

مکتبہ دارالعلوم کراچی

باہتمام : محمد قاسم گلگتی
طبع جدید : شعبان المعنیم ۱۴۳۲ھ ... جولائی ۲۰۱۰ء
فون : 5042280 - 5049455
ایمیل : mdukhi@cyber.net.pk : mdukhi@gmail.com " "

ملفی کے پڑھنے

مکتبہ دارالعلوم احاطہ جامعہ دارالعلوم کراچی (ناشر ہے)

- ادارۃ المعارف احاطہ جامعہ دارالعلوم کراچی
- مکتبہ معارف القرآن احاطہ جامعہ دارالعلوم کراچی
- ادارہ اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لاہور
- دارالاشاعت اردو بازار کراچی
- بیت الکتب گلش اقبال نزد اشرف المدارس کراچی

فہرست مضمون "اہم احادیث" جلد دوم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳	اسرائیل یا یہوداہ ؟ شاهد پوکس کے خط میں تحریف، شاهد	۱۱	دوسرا باب بائب میں تحریف کے دلائل
"	"	۱۲	تحریف کی قسمیں
۲۵	ذبور میں تحریف، شاهد	"	"
۲۶	مردم شماری میں اختلاف اور آدم کلارک کا اعتراف تحریف، شاهد ہارسٹے کا کھلا اعتراف، شاهد	۱۳	پہلا مقصد
"	"	"	الفاظ کی تبدیلی
۲۷	ارام یا آدم ؟ شاهد	۱۵	حضرت آدم سے طوفان نوح تک کی مدت، شاهد،
"	چار یا چالینیں ؟ شاهد	۱۶	طوفان نوح سے حضرت ابراہیم تک، شاهد
"	کتنی کاش کا اعتراف، شاهد	۱۷	کوہ جریزم یا کوہ عیبال؛ شاهد
۲۸	شاصد اور آدم کلارک کا اعتراف	۱۸	ریوڑ یا چردہ ہے ؟ شاهد
۲۹	اس اعتراف کے عظیم تراج، شاہد	۱۹	سات سال یا تین سال ؟ شاهد
۳۰	ابیاہ اور زیریعامہ کے شکر، شاهد	۲۰	ہن یا بیوی ؟ شاهد
۳۱	یہویا کیں کی عمر، شاهد	۲۱	بیٹا باپ کے دو سال بڑا تھا، شاہد
"	دوسرا مقصد	۲۲	"
"	الفاظ کی زیادتی	۲۳	"

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۹۲	انجیلِ مسیح کی نہیں ہی، شاہزاد	۳۷	یا پیر کی بستیاں، شاہزاد
۱۰۱	مُغَالِطَة اور آن کا جواب	۳۸	خداوند کا پہاڑ، شاہزاد
"	پہلا مغالطہ، غیر مسلموں کی شہادتیں	۴۰	خداوند کا جنگ نامہ، شاہزاد
۱۰۲	پہلی ہدایت، سلسیں کی رائے،	۵۲	جنروں اور رآن، شاہزاد
۱۰۳	آن کتابوں کی فہرست جو حضرت مسیح یا حواریوں کی طرف منسوب ہیں،	"	استشنا کا باب ۲۳ الحاقی ہی، شاہزاد
۱۰۶	دوسرا ہدایت، مختلف عیسائی فرقوں کی شہادت،	۵۳	کیا حضرت داؤد خداوند کی جماعت میں سے ہیں؟ شاہزاد
۱۰۹	تیسرا ہدایت، عیسائی علماء و مورخین کی شہادتیں،	۶۱	ہیرودیاں کا شہر، شاہزاد
"	پوس کا قول	۶۲	کتاب پیر میاہ کا غلط حوالہ، شاہزاد (رنائس کا اعتزاز بحریت)
۱۱۰	انجیل مسیح	۶۴	یوحنائے کے خط میں کھلی سحریت جس سے عقیدہ تشییث پر زدہ ہی، شاہزاد
۱۱۱	یوحنائے کا قول	۷۱	تو سحر کے ترجمہ میں سحریت تیسرا مقصد
۱۱۳	موشیم مورخ کا اعتزاز	"	
"	یوسی میں اور واٹسن	۷۹	
۱۲۱	ایک نو مسلم یہودی عالم کی شہادت	"	
۱۲۶	ہورن کی نظر میں سحریت کے اسباب	۸۰	مرمن قیام کی مدت، شاہزاد
۱۳۱	دوسرامغالطہ، حضرت مسیح نے ان کتب کی سچی گواہی دی ہے،	۸۲ بالائے عنہماً دگر ہائیل قابل کاواقع، شاہزاد
۱۳۲	گمشدہ کتابوں کی تفصیل،	"	زبور میں کھلی سحریت، شاہزاد
"	کتابِ ایوب کی اصلیت،	۸۹	

حذف الفاظ

صفحہ	مفہیم	صفحہ	مفہیم
۱۷۴	حیوانات کی حلت، مثال نمبر	۱۳۵	قمر معاطہ؛ اہل کتاب دیانتدار نہیں،
۱۷۸	ایک اور سحریف	۱۳۶	چوتھا معاطہ؛ یہ کتاب پس پشت باہل تھیں،
"	دُو بہنوں سے شادی، مثال نمبر	۱۳۷	ایک عجیب راقعہ،
۱۷۹	چھوڑھی سے نکاح، مثال نمبر	۱۳۸	بائیں میں امداد سحریف کے تاریخی دلائل،
۱۸۰	طلاق کی حلت، مثال نمبر	"	تورات یوسیاہ کے ذریعہ حکومت تک،
۱۸۲	عید اور بست کے احکام، مثال نمبر	۱۵۱	یوسیاہ کے ذریعہ قوریت کی دریافت،
	(رہبودیوں کے ہوار)	۱۵۲	یوسیاہ سے بخت نصر تک،
۱۸۶	اختہ کا حکم، مثال نمبر	۱۵۳	بخت نصر کا دوسرا حلہ،
۱۸۷	ذبح کے احکام، مثال نمبر	"	انیتوکس کا حادثہ (مکاپیونکی کتاب کی ہتمار)
"	سردار کا ہن کے احکام، مثال نمبر	۱۵۵	طیطوس کا حملہ،
"	توریت کے سب احکام مسوخ، مثال نمبر	"	عبرانی نسخہ کی حیثیت،
۱۸۸	توریت سے بخات، مثال نمبر	"	خدیودیوں نے نسخے ناپیر کئے
۱۸۹	توریت پر عمل کرنیوال لعنتی، مثال نمبر	۱۵۶	عیسائیوں پر ٹوٹنے والے مصائب
۱۹۰	نورت ایمان کے زندگی تاریخی، مثال نمبر	۱۵۹	ڈیکلیشن کا حادثہ
"	شرایط کا برنسائزوری، مثال نمبر	۱۶۲	پاپخواں معاطہ؛ ہمدربوگی سے قبل کے نسخے
۱۹۱	تورات: انس اور فرسیہ، تحقیقی، مثال نمبر		تیسرا باب۔
۱۹۲	نتاج	۱۶۹	نسخہ کا ثبوت
۱۹۳	ذہن کی دوسری تھیں		نسخہ کے معنی
۱۹۵	کہانیت: دو حصہ میں، مثال نمبر	۱۷۱	بائیں کے جھروٹے واقعات
۱۹۶	بائیں کی آڑ سے خدا پہنچتا تھا ہے	۱۷۳	ذہن کی پہلی قسم
۱۹۸	انسان کی بخاستگی مدد میں پکالنے کا حکم، مثال نمبر	۱۷۹	بہن بھائی میں شادی، مثال نمبر

صفحہ	مصنون	صفحہ	مصنون
۲۳۳	مشیع علیہ السلام کے کلام میں احوال اس احوال کی وجہ سے کئی چیزیں مشتبہ رہ گئیں،	۱۹۸	مزاج کے خاص مقام کی تعین، مثال نمبر شیخ اجتماع کے خدام کی تعداد، مثال نمبر
۲۳۴	عقلی حالات واقعی ناممکن ہیں، دیلوں میں تعارض ہو تو کیا کرنا چاہتے؟ یعنی کبھی ایک نہیں ہو سکتے،	۲۰۰	اجتماعی خطایا کافارہ، مثال نمبر حرّیقہ کی بیماری کا واقعہ، مثال نمبر
۲۳۵	عیسائیوں کے نزدیک توحید بھی حقیقی ہر اور شیعیت بھی، عقیدہ شیعیت کی تشریع میں عیسائیوں کا اختلاف، چھپلی امتوں میں کوئی شیعیت کا قائل نہ تھا	۲۰۱	حواریوں کو تبلیغ کا حکم، مثال نمبر تو ریت پر عمل کا حکم، مثال نمبر
۲۳۶	کتاب پیرائش اور اس کا جواب پہلی فصل	۲۰۲	حضرت شیع کے قول سے استدلال غلط ہے،
۲۳۷	عقیدہ شیعیت عقل کی کسوی طبر	۲۰۳	چوتھا باب
۲۳۸	پہلی دلیل	۲۰۴	خدا میں نہیں،
۲۳۹	دوسرا دلیل	۲۰۵	مَارِيَة مُتَدَمَّدَة
۲۴۰	تیسرا دلیل	۲۰۶	خدا کون ہے؟
۲۴۱	چوتھی دلیل	۲۰۷	معبور دہی ہے
۲۴۲	پانچویں دلیل	۲۰۸	عبد عتیق میں خدا کے لئے اعشار کا ذکر
۲۴۳	چھٹی دلیل اور فرقہ یعقوبیہ کا مذہب	۲۰۹	بعض اوقات الفاظ کے مجازی معنی
۲۴۴	شاؤس دلیل	۲۱۰	مراد ہوتے ہیں،
۲۴۵		۲۱۱	باشبل میں غیر انش پر لفظ خدا کا اطلاق
۲۴۶		۲۱۲	خدا کے ساتھ گشتی
۲۴۷		۲۱۳	تمام انسانوں اور شیطانوں کے لئے
۲۴۸		۲۱۴	لفظ "خدا" کا استعمال،
۲۴۹		۲۱۵	باشبل میں مجاز اور مبالغہ کا استعمال
۲۵۰		۲۱۶	عشاہ ربانی کے محال ہونے کے دلائل
۲۵۱		۲۱۷	
۲۵۲		۲۱۸	
۲۵۳		۲۱۹	
۲۵۴		۲۲۰	
۲۵۵		۲۲۱	
۲۵۶		۲۲۲	
۲۵۷		۲۲۳	
۲۵۸		۲۲۴	
۲۵۹		۲۲۵	

مضمون	نمبر	مضمون	نمبر
تین عیسائی ہنوں کو مجھے اقحر عقل دلائل کی بناء پر یا بدل کی تاویل ضروری مستشرق شیل کا اعزاز و صیت دوسری فصل	۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۱	دسوان ارشاد، "تحارا باب ایک ہی ہے۔ گیارہوا ارشاد" اے میرے باب " باہر ہوان ارشاد" ابن آدم" تیسرا فصل	۲۸۸ " ۲۸۹
عقیدہ تسلیث اقوال مسح کی دشمنی میں	۲۶۳	نصاریٰ کے دلائل پر ایک نظر، پہلا ارشاد، "خدا کا بیٹا" با بدل میں انسانوں کے لئے اس لفظ کا استعمال، دوسراء استدلال" میں اور پر کا ہوں "	۲۸۱ ۲۸۲ " ۲۸۸
پہلی دلیل، "کسی کو بخانا میرا کام نہیں" پاچخوان ارشاد، نیک تو ایک ہی ہے " چھٹی دلیل، "میں باب میں ہوں" پاچخونی دلیل بغیر باپ کے پیدا ہونا چھٹی دلیل، معجزات	۲۶۴ " ۲۶۸ " ۲۹۱ ۲۹۳ ۲۹۵	دوسری دلیل، "ایک بھی خداوند" تیسرا ارشاد "آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باب" (عیسائیوں کی تاویل کا جواب) چوتھا ارشاد "کسی کو بخانا میرا کام نہیں" پاچخوان ارشاد، نیک تو ایک ہی ہے " (جدید متزحموں کی سحر لیف) چھٹا ارشاد "ایلی ایلی لما بدقتنی" کتب مقدسہ کی رو سے معبود کو موت نہیں آسکتی،	۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۷ " ۲۹۴ " ۲۹۵ ۲۹۶
عیسائیوں کے نزدیک مسیح جہنم میں اخراج ہوئے (عقیدہ اہمیتی شیں)	۲۸۱	قرآن کریم اللہ کا کلام ہے پہلی فصل	۳۰۳
عقیدہ کفارہ عقل کے خلاف ہے، ساتواں ارشاد "پسے خدا اور تمھارے خدا لخ آٹھواں ارشاد "باب مجھ سے بڑا ہے " نواں ارشاد، "میرا نہیں بلکہ باب کا ہے "	۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸	احجاز قرآن پہلی خصوصیت، بلاغت	۳۰۴ ۳۰۵


صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳۰	مسجد حرام میں داخلہ، پہلی پیشگوئی	۳۰۶	بلاغت کی پہلی دلیل
"	خلافت فی الارض، دوسرا پیشگوئی	۳۰۷	دوسرا دلیل
۳۳۲	تیسرا پیشگوئی، مسیلمہ کا واقعہ		(فساحت اور بلاغت کا ذائق)
"	جو تھی پیشگوئی، دین کا غلبہ و ظہور	۳۰۸	تیسرا دلیل
"	پانچویں پیشگوئی، فتح خبر	"	جو تھی دلیل
۳۳۳	چھٹی پیشگوئی، فتح مکہ	"	پانچویں دلیل
۳۳۴	ساتویں پیشگوئی، سلام کی اشاعت	۳۰۹	چھٹی دلیل
"	آٹھویں پیشگوئی، کفار کا مغلوب ہونا	"	قرآن کریم کی بلاغت کے نمونے
"	نویں پیشگوئی، غزوہ بدر	۳۱۱	ساتویں دلیل
۳۳۵	دوسریں پیشگوئی، کفار سے حفاظت	۳۱۲	آٹھویں دلیل
"	گیارہویں پیشگوئی، ایضا	۳۱۳	اعجاز قرآن کا ایک حریرت انگریز نمونہ
"	بازہویں پیشگوئی، روایوں کی فتح	۳۱۶	نویں دلیل
۳۳۶	مصنفوں میزان الحق کا اعتراض	۳۱۴	دوسریں دلیل
"	اس کا جواب	۳۱۵	حضرت عمر بن ادریس طرقی روم کا واقعہ
۳۳۸	تیرھویں پیشگوئی، کفار کی شکست	"	علی بن حسین و اقدار ایک طبیب
۳۳۹	چودھویں پیشگوئی، کفار پر عذاب	۳۱۸	قرآن کریم کی دوسرا نصیحت۔ اسلوب
"	پندرہویں پیشگوئی، یہودیوں کے نناخت	"	کوئی ادیب غلطیوں کے خالی نہیں رہا
۳۴۰	سو طھویں پیشگوئی، یہودیوں کی ذات	۳۲۱	قرآن کی اثر انگریزی کے راقعات
۳۴۱	سترهویں پیشگوئی، احمد کے دین مسلمانوں کا عرب	۳۲۸	اعجاز قرآن کے باسے میں معزالہ کی راستے،
۳۴۲	امشارہویں پیشگوئی، قرآن کی حفاظت	۳۲۹	معزالہ کا نظریہ غلط ہر اس کے دلائل
۳۴۳	اُنسریں پیشگوئی، تحریف سے حفاظت	"	اعجاز قرآن پر ایک شبہ اور اس کا جواب
"	بیسویں پیشگوئی، مکہ مکرمہ کو والپی	۳۳۰	قرآن کریم کی تیسرا خصوصیت، پیشگوئیاں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۸۰	قرآن کریم کے مضمون	۳۳۴	ایکسوں پیشگوئی، یہ لوں کی تمناء موت
۳۸۲	بائبل کے قبح مضمون	۳۳۶	بائسوں پیشگوئی، قرآن کا اعجاز
	(یہوا اسکریپت کے عمل کی تاویل)	۳۳۸	قرآن کی چوتھی خصوصیت؛ ماضی کی خبریں
۳۸۸	رومن کیتوں کے غیر معقول نظریات		بیکار را ہبے ملاقات کا قضیہ
۳۸۰	مغفرت ناموں کی فروخت	۳۵۰	پانچویں خصوصیت، دلوں کے بھید
"	پوپ حرام کو حلال کر سکتا ہے۔	"	چھٹی خصوصیت، جامعیت علوم
۳۸۱	مردین کی مغفرت بیسوں سے	۳۵۲	ساتویں خصوصیت، اختلاف تضاد حفاظت
۳۸۳	سینٹ کرٹافر	۳۵۳	آٹھویں خصوصیت، بقا در دام
	(سینٹ کرٹافر کے بارگیں عیسائی رہاست)	۳۵۴	نویں خصوصیت، ہر مرتبہ نیا کیفت
۳۸۴	صلیب کی تعظیم کیوں؟	"	دسویں خصوصیت، دعویٰ مع دلیل
۳۸۷	تفییر کا حق صرف پوپ کرہے	۳۵۵	گیارہویں خصوصیت، حفظ قرآن
۳۹۰	دوسری اعتراض، بائبل کے مخالفت	"	بارہویں خصوصیت، خیانت انگری
"	پہلا جواب	۳۵۸	خاتمه
"	دوسرہ جواب		
۳۹۲	عہدِ جدید کے دہ راتعات جن کا ذکر عہدِ قدیم میں نہیں ہے،	"	تین مفید باتیں
۳۹۹	بائبل کے نخوں کے مزید اخلافات	۳۶۰	اعجازِ دن؛ رآن کی جماعت
۴۰۰	بائبل اور مورخین	۳۶۲	قرآن کریم ایک دم کیوں نازل نہ ہوا؟
۴۱۲	اختلافات مذکورہ کی تفصیل بصورت		قرآن کریم مضمون میں تکرار کیوں ہے؟
	جدول		دوسری فصل
۴۱۵	تیسرا اعتراض بگراہی کی نسبت اللہ کی جزا جواب،	۳۶۵	قرآن پر عیسیٰ ایتوں کے اعتراضات
		"	پہلا اعتراض، اعجاز سے انکار

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲۱	احادیث کی صحّت	۳۱۹	مسئلہ تقدیر پر باسل اور عیسائی علماء کے اقوال،
"	زبانی روایات بھی قابل اعتماد ہیں، فائدہ نمبر سر	۳۲۲	عقیدۃ جبر کے بالے میں لوگھر کی راستے
۳۵۳	بعض علماء پر رٹسٹنٹ کا اعتراض	"	طاامس انگلیس کی راستے
۳۵۴	نخاں انگلیس کی یہوک کا فیصلہ		طاامس ایکوانس کی راستے)
۳۵۵	اہم بائیں یاد رہتی ہیں، فائدہ نمبر سر	۳۲۳	جنت کی لذتیں
۳۵۸	تدریج حدیث کی مختصر تابع، فائدہ نمبر سر	۳۲۵	جنت کے بارے میں عیسائی نظریات
۳۶۰	حدیث کی تین قسمیں		رجنت کی جسمانی لذتوں پر بائبل آئسٹل (الل)
"	حدیث صیحہ اور قرآن میں فرق	۳۲۸	چوتھا اعراض قرآن کے معنای میں پڑھنا
		۳۳۱	اعراض۔ تیسرا فصل

جلد سوم کی ابتداء

احادیث پر پادریوں کے اعتراضات



باب ۲ دم


بائبل کی تحریفیں

• تبدیلیاں

• حرفِ الفاظ

• اضافے

بھرپوں لکھ عین مواضعہ



یہ لوگ

کام کوانے کی جگہوں سے
بگاڑ دلائے ہیں

باب دوم

بابل میں تحریف کے دلائل تحریف کی قسمیں

تحریف کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی،

دوسری قسم کی نسبت ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان کوئی جگہ را نہیں ہے، کیونکہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ عہدِ حق کی وہ آیات جن میں عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کی جانب اشارہ کھا، اور وہ احکام جو یہودیوں کے نزدیک دائمی اور ابدی ہیں، ان کی تفسیر میں یہودیوں کی جانب سے تحریف معنوی کا صدر ہوا ہے، اور علماء پر وسیطت یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ پاپا کے معتقدین کی طرف سے دنوں ہزاروں میں اس قسم کی تحریف کی گئی ہے، بالکل اسی طرح پاپا کے معتقدین ہی الزام بڑی شدت سے پہلے فرقی پر لگاتے ہیں، اس لئے ہم کو اس کے ثابت کرنے کی چند اس ضرورت نہیں،

لہ تحریف لفظی کا مطلب یہ ہے کہ اصل الفاظ میں تبدیلی کر دی جائے، خواہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا کہ کسی لفظ کو حذف کر کے یا کوئی لفظ بڑھا کر، اور تحریف معنوی کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ میں تو کوئی تبدیلی نہ کی جائے، مگر عبارت کل کوئی من مانی تفسیر کی جائے، جو اصل معنی کے خلاف ہو۔

اب تحریف لفظی باقی رہ جاتی ہے، جس کا علماء پر ڈستنٹ بظاہر عام مسلمانوں کو دھوکہ میں ڈالنے کے لئے سختی سے انحصار کرتے ہیں، اور جھوٹے من گھڑت دلائل اپنے رسالوں میں پیش کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو شک میں بدل کر سکیں، اس لئے اس کے ثابت کرنے کی ضرورت ہے، اندھکی مرد کے بھروسہ پر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ تحریف لفظی اپنی تمام قسموں سیمیت خواہ الفاظ کی تبدیلی ہو یا کمی پیشی، ان کتابوں میں موجود ہے، اب ہم ان یعنیوں قسموں کی ترتیب و تین مقاصد میں بیان کرتے ہیں:-

مقصدِ اول

تحریف لفظی کا ثبوت، الفاظ کی تبدیلی کی شکل میں،

پہلے یہ سمجھئے کہ اہل سنّت کے نزدیک ہمدرعین کے مشہور نسخے یعنی ہیں:-

عمرانی نسخہ جو یہودیوں کے نزدیک بھی محترم ہے اور علماء پر ڈستنٹ کے نزدیک بھی، ①

یونانی نسخہ جو عیسائیوں کے نزدیک پندرہ صدیوں میں سے ساتویں صدی تک معتبر تھا، اس وقت تک عیسائی حضرات عمرانی نسخہ کو تحریف مانتے تھے، یونانی نسخہ آج تک یونانی گرجوں اور مشرقی گرجوں میں معتبر مانا جاتا ہے، یہ دونوں نسخے ہمدرعین کی تمام کتابوں پر مشتمل ہیں، ②

سامری نسخہ، جو سامریوں کے نزدیک معتبر ہے، یہ نسخہ درحقیقت عربانی نسخہ ہے، مگر یہ ہمدرعین کی صرف ثانیات کتابوں پر مشتمل ہے، ③

یعنی پاریخ کتابیں جو موسیٰ علیہ السلام کی جانب نسبوں ہیں، اور کتاب یوشع اور کتاب القضاۃ، اس لئے کہ سامری لوگ ہمدرعین کی بقیہ کتابوں کو تسلیم نہیں کرتے دوسرافرق یہ ہے کہ اس میں عربانی نسخہ کی نسبت بہت سے الفاظ اور فقرے زائد

یہ، جو آج کل اس میں موجود نہیں ہیں، اور اکثر محققین ملما پر دلستہ مثلاً کی کاٹ، ہیلز، ہیلوی کینٹ وغیرہ اس کو معتری مانتے ہیں، عبرانی نسخہ کو تسلیم نہیں کرتے، اُن کا یہ اعتقاد ہے کہ یہودیوں نے عبرانی نسخہ میں تحریف کر دی تھی، اور تقریباً اس سے ہی علماء پر دلستہ بعض موقعوں پر اس کے مانند پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور عبرانی نسخہ پر اس کو ترجیح دیتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہو سکے گا،

اس کے بعد مندرجہ ذیل شواہد پر غور فرمائیے جو کھلی تحریف پر دلالت کرتے ہیں :-

حضرت آدم سے طوفانِ نوح نک پہلا شاہد

آدم سے لے کر طوفانِ نوح تک کا زمانہ عبرانی نسخہ کے مطابق ۱۵۶ سال ہے، یونانی نسخہ کے مطابق ۲۲۷۲ سال بنتا ہے، اور سامری نسخہ کے موافق ۱۳۰ سال ہے، ہنزی و اسکاٹ کی تفسیر میں ایک جدول دی گئی ہے، جس میں نوح کے سوا ہر شخص کے سامنے اس کی دہ عمر لکھی گئی ہے جو اس کے لڑکے کی پیدائش کے وقت تھی، اور حضرت نوح کے سامنے اُن کی دہ عمر درج کی گئی ہے جو طوفان کے وقت تھی، نقشہ درج ذیل ہے :-

نام	عبرانی نسخہ	سامری نسخہ	یونانی نسخہ
آدم علیہ السلام	۱۳۰	۱۳۰	۲۳۰
شیث علیہ السلام	۱۰۵	۱۰۵	۲۰۵
آنوش	۹۰	۹۰	۱۹۰
قیستان	۷۰	۷۰	۱۴۰

لہ تمام نہیں میں یہ عدد اسی طرح مذکور ہی، لیکن آنے والے جدول کے مطابق حاصل جمع ۲۳۶۲ بتا ہے، اس لئے یا تو اس عدد میں غلطی ہوتی ہے یا نقشہ کے کسی درمیانی صدر میں داشد اعلم ۱۰ تھی

نام	عربی نسخہ	سامری نسخہ	یونانی نسخہ
چملاسیل	٦٥	٦٥	۱۶۵
بارد	٦٢	٦٢	۲۶۲
حونک	٦٥	٦٥	۱۶۵
متواسع	١٨٢	٦٤	۱۸۷
لامک	۱۸۲	۵۳	۱۸۸
نوح علیہ السلام	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
سکل میزان	۱۶۵۶	۱۳۰۴	۲۳۶۲

ان مذکورہ نسخوں میں مذکورہ مدت کے بیان میں بے شمار فرق موجود ہے، اور اتنا شدّت اختلاف ہے کہ اس میں تطبیق حکم نہیں ہے، اور چونکہ تمینوں نسخوں کے مطابق نوح علیہ السلام کی عمر طوفان کے وقت ۶۰۰ سال کی متعین ہی، اور آدم علیہ السلام کی عمر ۹۳ سال کی ہوئی ہے، اس لئے سامری نسخہ کے مطابق لازم آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت نوح علیہ السلام کی عمر ۲۱۳ سال کی تھی، اور یہ بات بااتفاق موخرین غلط ہے، اور عربی دی یونانی نسخے بھی اس کی تکذیب کرتے ہیں، کیونکہ پہلے نسخہ کے بیان کے مطابق نوح علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی وفات کے ۱۲۶ سال بعد اور دوسرے نسخہ کے مطابق ۳۲ سال بعد ہوئی ہے، اور اسی خش اخلاف کی بناء پر مشہور یہودی مؤرخ یوسفیس نے جو عیسائیوں کے نزدیک بھی معتبر ہے، ان میں سے کسی نسخہ پر اعتماد نہیں کیا، اور فیصلہ کیا کہ صحیح مدت ۲۲۵۶ ہے،

طوفان نوح سے حضرت ابراہیم تک — شاہد نمبر ۳

طوفان نوح سے رکرا بر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش تک کا زمانہ عربی نسخہ کے مطابق لئے اگر جو ۱۲۶ سال کے درمیان اعداد درست ہیں تو یہاں ۲۳۶۲ ہونا چاہیے کیونکہ حاصل جمع یہی نکلتا ہے اس ت

۲۹۲ سال ہے، یونانی نسخہ کے مطابق ۲۰۰ اسال ہے، اور سامری نسخہ کے مطابق ... ۹۲۲ سال ہے، تفسیر ہنزی و اسکاٹ میں گزشتہ نقشہ کی طرح ایک نقشہ دیا گیا ہے مگر اس نقشہ میں سام کے سوا ہر شخص کے نام کے مقابل اس کے بچپن کا سال پیدائش ہے لکھا ہوا ہے، اور سام کے نام کے مقابل اس بچپن کا سال پیدائش لکھا ہوا ہے جو طوفان کے بعد پیدا ہوا، نقشہ درج ذیل ہے:-

نام	نسخہ عبرانیہ	نسخہ سامریہ	نسخہ یونانیہ
سام	۲	۲	۲
ارخشہ	۳۵	۱۳۵	۱۳۵
قینان	+	+	۱۳۰
شاخ	۳۰	۱۳۰	۱۳۰
عسار	۲۲	۱۳۲	۱۳۲
فالغ	۳۰	۱۳۰	۱۳۰
روحو	۳۲	۱۳۲	۱۳۲
سروغ	۳۰	۱۳۰	۱۳۰
ناحور	۲۹	۲۹	۲۹
تارع	۴۰	۴۰	۴۰
کل میزان	۲۹۲	۹۲۲	۱۰۴۲

لہ شاہ حضرت ابراہیمؑ کے والد کا نام ہے، آذراں کا لقب تھا، اور بعض مفسرین و مؤرخین کا کہنا کہ آذر در حقیقت حضرت ابراہیمؑ کا چھا تھا، اور قرآن کریم میں مجاز اس پر رب (باپ) کے لفظ کا احراق کر دیا گیا ہے (دیکھئے تفسیر کبیر، تدقیق)

یہ اختلاف بھی اس قدر شدید اور فحش ہے کہ ان نسخوں میں کسی طرح تطبیق ممکن نہیں ہے، اور جو نکہ عربی نسخہ کے مطابق ابراہیم کی پیدائش طوفان کے ۲۹۲ سال بعد معلوم ہوتی ہے، اور نوح علیہ السلام طوفان کے بعد ۳۵ سال زندگی ہے، جس کی تصریح کتاب پیدائش باب آیت ۲۸ میں موجود ہے اس لئے لازم آتا ہے کہ ابراہیمؑ کی عمر نوح علیہ السلام کی وفات کے وقت ۸۵ سال کی ہو، جو بالاتفاق مورخین بھی غلط ہے، اور یونانی و سامری نسخے بھی اس کی تکذیب کرتے ہیں، کیونکہ پہلے نسخہ کے مطابق ابراہیمؑ کی پیدائش نوح کی وفات کے ۲۲ سال بعد ہوتی، اور دوسرے نسخہ کے مطابق ۹۲ سال بعد، دوسرے کریونانی نسخہ میں ارجمند اور شائخ کے درمیان ایک پشت کا اضافہ ہے جو دوسرے دنوں نسخوں میں موجود ہیں، تو قاتلی نے یونانی نسخہ پر اعتماد کرتے ہوئے مسیحؐ کے نسبے کے بیان میں قینان کا بھی اضافہ کیا ہے، اس فحش اختلاف کے نتیجہ میں عیسائیوں میں باہمی اختلاف پیدا ہو گیا، پھر مورخین نے تو یعنی نسخوں کو کا عدم سھٹرا یا اور کہا کہ صحیح مرت ۳۵۲ سال ہے، اسی طرح مشہور یہودی مؤرخ یوسفیس نے بھی ان نسخوں پر اعتماد نہیں کیا، اور یہ کہا کہ صحیح مرت ۹۹۳ سال ہے، جیسا کہ ہنری داسکات کی تفسیر میں موجود ہے، اور آگستائن کی جو چوتھی صدی مسیحی کا سب سے بڑا عالم ہے اسی طرح دوسرے متقدمین کی رائے بھی ہے کہ یونانی نسخہ ہی درست ہے، مفسر ہارسل نے کتاب پیدائش باب آیت ۱۱ کی تفسیر کے ذیل میں اسی کو ترجیح دی ہے، ہیلز کا نظریہ یہ ہے کہ سامری نسخہ ہی درست ہے، مشہور محقق ہورن کا رجحان بھی اسی جانب معلوم ہوتا ہے، ہنری داسکات کی تفسیر جلد اول میں یوں لکھا ہے کہ:-

”آگستائن کہا کرتا تھا کہ یہودیوں نے ان اکابر کے حالات کے بیان میں جو طوفان سے قبل گزرے تھے یا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ہند تک ہوئے ہیں عربی نسخہ میں

۱۷ ”اوْرَطْفَانَ كَيْمَنَ سَاطَعَ تِينَ سُوبَرَسْ اوْرَجِيتَارَهَا“ (پید، ۲۸۱۹)

تحريف کر دیا، اور یہ حرکت اس لئے کی کہ یونانی نسخہ کا اعتبار جاتا ہے، اور اس لئے بھی کہ مذہب عیسیٰ سے اُن کو سخت دشمنی تھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ مقتدر میں عیسائی بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے، اور اُن کا خیال یہ تھا کہ یہودیوں نے یہ تحريف تورتیت میں منسلکہ میں کی ہے ॥

ہورن اپنی تفسیر کی جلد اول میں لکھتا ہے کہ:-

”محقق ہیتلر نے مصبوط دلائل سے سامری نسخہ کی صحت ثابت کی ہی، اس جگہ اُس کے دلائل کا خلاصہ بیان کرنا ممکن نہیں، جو صاحب چاہیں اس کی کتاب صفحہ ۸ سے آخر تک ملاحظہ فرما لیں، اور کافی کاٹ کرتا ہے کہ اگر ہم تورتیت کی نسبت سامروں کے طور و طرف کو اور اُن کی عادات کو نگاہ میں رکھیں، اور مسیحؐ کی اُس وقت کی خاموشی کو پیش نظر رکھیں، جبکہ اُن کی گفتگو سامری عورت سے ہوتی تھی، اور اگر در درمی با تو کو بھی سامنے رکھیں تو اُن سب کا تقاضا ہے کہ یہودیوں نے جان بوجھ کر تورتیت میں تحريف کی، اور عہد عتیق اور جدید کے محققین کا یہ کہنا کہ سامروں نے قصدًاً تحريف

کی ہے بے بنیاد ہے ॥

سامری عورت سے حضرت مسیحؐ کی جس گفتگو کی طرف کافی کاٹ نے اشارہ کیا ہے... وہ انجیل یوحنا کے باب میں اس طرح مذکور ہے کہ:-

”عورت نے اس سے کہا اے خداوند؛ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے، ہمارے باپ دادا

اے پورا واقعہ یہ کہ حضرت مسیحؐ علیہ السلام جب سامرہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک کنویں پر ایک سامری عورت کے آپنے پانی مانگا، سامری فرقہ کے بارے میں ہم پچھے میں ۱۲ کے حاشیہ پر ذکر کرچکے ہیں کہ وہ بر دشمن کے بجائے کو وجہ جزیرہ زم پر عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ فرقہ یہودیوں کے نزدیک اچھوت کی حیثیت رکھتا تھا، اس لئے عورت کو تعجب ہوا کہ ایک یہودی مجھ سے پانی کیوں مانگ رہا ہے؟ اس پر دنوں میں گفتگو ہوئی، اور بعض غیر معمولی چیزیں دیکھ کر عورت کو لقین ہو گیا کہ حضرت مسیحؐ نبی ہیں اس لئے اس نے فوراً کوہ جزیرہ زم کے بارے میں سوال کیا، ۱۲ نقی

نے اس پھاڑ پر (یعنی کوہ جبریزم) پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ دہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہئے یہ دشمن ہے» (آیات ۱۹ و ۲۰)

یعنی جب اس خورت کو یہ پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو ان سے اس نے اس اہم مسئلہ کی تحقیق کی جو یہودیوں اور سامریوں کے درمیان سب سے بڑا اختلاف مسئلہ تھا، اور ہر فرقے اس میں دوسرے پر تحریف کا الزام لگاتا تھا، تاکہ اپنا اہل حق ہونا ظاہر کر سکے، اب اگر اس موقع پر سامری تحریف کے مجرم ہوتے تو مسیح علیہ السلام کا فرض تھا کہ وہ اس سوال کے جواب میں اس معاملہ کی اصل حقیقت کو واضح کرتے، لیکن انہوں نے اس کے بجاتے سکوت ختیار فرمایا، آپ کی یہ خاموشی سامری مسلم کے درست ہونے کی دلیل ہی، خور فرمائیں کہ عیسائی حضرات کی صاف بیانی کے ساتھ تحریف کا اعتراف کر رہی ہیں اور سواتے اقرار کے ان کو کوئی چارہ کا نظر نہیں آتا،

کوہ جبریزم یا کوہ عیبال؟

کتاب الاستثناء باب ۲ آیت ۳ نسخہ عربانی میں یوں کہا گیا ہے کہ:-
”سو تم برَّ دُن کے پار ہو کر ان پتھروں کو جن کی بابت میں تم کو آج کے دن حکم دیتا ہوں اکوہ عیبال پر نصب کر کے اُن پر مچونے کی استرکاری کرنا“
اور یہ عبارت سامری نسخہ میں اس طرح ہے کہ:-

”اُن پتھروں کو جن کی بابت میں تم کو آج کے دن حکم دیتا ہوں کوہ جبریزم پر نصب کرو“
اور عیبال و جبریزم ایک دوسرے کے مقابل دو پھاڑ ہیں، جیسا کہ اسی باب کی آیت ۱۲ و ۱۳ اور اس کتاب کے باب ۲۹ سے معلوم ہوتا ہے،

غرض عربانی نسخے سے یہ بات سمجھدیں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ عیبال پر ہیکل یعنی مسجد کی تعمیر کا حکم دیا تھا، اور سامری نسخہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوہ جبریزم پر بننے کا حکم دیا تھا، یہودیوں اور سامریوں کے درمیان اگلوں میں بھی اور رچلوں میں بھی یہ جھگڑا منہ شہو چلا آرہا ہے، ہر ایک فرقہ دوسرے پر توریت کی تحریف کا الزام عائد کرتا ہے، ایسا ہی خلاف

اس موقع پر علماء پرتوٹنٹ کے درمیان بھی موجود ہے، ان کا مشہور مفسر آدم سکلار ک اپنی تفسیر کی جلد اول، ص ۱۸ میں کہتا ہے کہ:-

”محقق کنی کاٹ سامری نسخہ کی صحت کا مدعی ہے، اور محقق پارٹی اور محقق درشیور دونوں عبرانی نسخہ کی صحت کے دعویدار ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ کنی کاٹ کے دلائل لا جواب ہیں، اور لوگوں کو یقین ہے کہ یہودیوں نے سامریوں کی عداوت میں محریع کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ بات بھی سب کو تسلیم ہے کہ جریزہ میں بیشمار حصے، باغات اور نباتات ہیں، اور کوہ عیبال ایک خلک پہاڑ ہے، جس میں ایک بھی مذکورہ خوبی موجود نہیں ہے، ایسی شکل میں پہلا پہاڑ برکتوں کے سنانے کے لئے اور دوسرا العنت کے لئے مناسب ہے“

اس سے معلوم ہوا کہ کتنی کاٹ اور دوسرے لوگوں نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ سحریت عبارتی نہ میں واقع ہوتی ہے، اور یہ کہ کتنی کاٹ کے دلائل بہت وزنی ہیں،

ریوٹریاچر پروالہ سے؟

کتاب پیدائش باب ۲۹ کی آئیت میں ہے کہ :-

”اور اس نے دیکھا کہ (کھیت) میں ایک کنواں ہے، اور کنوں کے نزدیک بھیر بکریوں کے تین روڑ بیٹھے ہیں، کیونکہ اسی کنوں سے بکریاں پانی میتی تھیں، اور کنوں کے مٹنے پر ایک بڑا پتھر دھرارہتا تھا۔“

۱۵ چنانچہ آسٹن نا ر ۱۱:۲۹ میں تصریح ہے کہ ”تو کوہ گریزم پر سے برکت اور کوہ عیبال پر سے لعنت سنانا“ ظاہر ہے کہ مسجد برکت سنانے کی جگہ پر بنائ جانی چاہئے، لعنت کی جگہ پر نہیں ۱۶ گھر یہ اصل عربی سے ترجیح ہے، انگریزی ترجیح کے الفاظ بھی یہی ہیں، مگر اردو ترجیح میں تکمیلت کے بعد سے ”میدان“ کا لفظ ہے،

۳۵ یہ بھی عرب سے ترجمہ کیا گیا ہے، اردو ترجمہ میں الفاظ یہ ہیں "کیونکہ چرد اہے اسی کنوں سے کریوڑ دل کو پانی پلاتے تھے، انگریزی میں "چرد اہے" کی بجائے (دہ سب) کے الفاظ یہ ہیں ۱۲ ترقی

اور آیت ۸ میں ہے کہ:-

”آنکھوں نے کہا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، جب تک کہ سب روڑ جمع نہ ہو جائیں“
اس میں آیت ۲ کے اندر ”بکریوں کے تین روڑ“ اور آیت ۸ میں ”سب روڑ“ کے الفاظ غلط ہیں، اُن کی جگہ ”چرداہے“ ہونا چاہئے، جیسا کہ سامری اور یوتانی نسخوں میں اور واللہن کے عربی ترجمہ میں موجود ہے،

مفسر ہارسل اپنی تفسیر کی جلد اول ص ۲۷، میں آیت ۲ کے ذیل میں کہتا ہے کہ:-

”غالباً اس جگہ تین چرداہے کا لفظ تھا، دیکھئے گئی کاٹ کو“

پھر آیت ۸ کے ذیل میں کہتا ہے کہ:-

”اگر اس جگہ یہ الفاظ ہوتے کہ ”یہاں تک کہ چرداہے“ کشیدے ہو جائیں“ تو بہتر ہوتا، دیکھئے

سامری نسخہ اور یوتانی نسخہ اور گئی کاٹ اور ہیتوپی کینٹ کا عربی ترجمہ“

آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد اول میں کہتا ہے کہ:-

”ہیتوپی کینٹ کو اس بات پر زبردست اصرار ہے کہ نسخہ سامری صحیح ہے“

ہورن اپنی تفسیر کی جلد اول میں گئی کاٹ اور ہیتوپی کینٹ کے قول کی تائید کرتے ہوتے کہ:-

”کتاب کی غلطی سے بجائے لفظ ”چرداہے“ کے ”بکریوں کے در روڑ“ لکھا گیا ہے“

سات سال یا تین سال — شاہد نمبر ۵

کتاب سموتیل ثانی باب ۲۷ آیت ۱۳ میں لفظ ”سات سال“ لکھا ہے، اور کتاب تو ایک اول باب ۱۲ آیت ۱۲ میں لفظ ”تین سال“ لکھا ہوا ہے، یقینی طور پر آن میں سے ایک غلط ہے، آدم کلارک سموتیل کی عبارت کے ذیل میں کہتا ہے کہ:-

”کتاب تو ایک میں تین سال کا لفظ آیا ہے نہ کہ سات سال، اور یوتانی نسخہ میں بھی تو ایک کی طرح تین سال لکھا ہے، یہی عبارت بلاشبہ درست و صحیح ہے“

انہ اس اختلاف کی تفصیل چھپے صفحہ ۵، سلیمان ملاحظہ ملا حظہ فرمائیے، ۱۲

شاد بُنبرہ بہن یا پیروی؟

کتاب تواریخ ادل باب ۹ آیت ۳ کے عربانی نسخہ میں یوں لکھا ہے کہ :-
 جس کی بیوی کا نام ملکہ سخا، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ لفظ "بہن" کی جگہ بیوی "سخا" آدم کلارک کہتا ہے کہ :-

عربانی نسخہ میں لفظ "بہن" آیا ہے، اور سریانی، یونانی اور لاطینی نسخوں میں لفظ بیوی
 لکھا ہے، مترجموں نے اپنی ترجموں کا اتباع کیا ہے۔

اس موقع پر تمام پر دشمن طبق علماء نے عربانی نسخہ کو چھوڑ کر مذکورہ ترجموں کی پیروی کی
 لہذا عربانی نسخوں تحریف واقع ہونا ان کے نزدیک بھی منعین ہے،

بیٹا باپ کے دوسال ٹرا تھا شاد بُنبرہ

کتاب تواریخ ثانی باب ۲۲، آیت ۲ کے عربانی نسخہ میں یوں لکھا ہے کہ :-
 اخْزَيَا هَبِيلَيْسَ بَرْسَ كَا تَحْاجِبَ وَهَ سَلْطَنَتَ كَرَنَے لَگَا

یقینی طور پر یہ غلط ہے، اس لئے کہ اس کا باپ یہورام اپنی وفات کے وقت چھی سال
 کا تھا، اور وہ اپنے باپ کی وفات کے بعد بلا تاخیر تخت نشین ہو گیا تھا، اب اگر اس قول کو
 درست مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ وہ اپنے باپ سے دوسال ٹرا ہو،
 کتاب سلاطین ثانی باب آیت ۲۶ میں یوں ہے کہ:-

اَخْزَيَا هَبِيلَيْسَ بَرْسَ كَا تَحْاجِبَ وَهَ سَلْطَنَتَ كَرَنَے لَگَا

آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد ۲ میں کتاب تواریخ کی عبارت کے ذیل میں یوں کہتا ہے کہ :-
 "سریانی اور یونانی ترجموں میں بائیس سال کا لفظ ہے، اور بعض یونانی نسخوں میں بین
 سال واقع ہوا ہے، غالب یہی ہے کہ عربانی نسخہ اصل میں اسی طرح تھا، مگر وہ لوگ
 لہ جیسا کہ ۲۰۰:۲۰۰ میں ہر کوئی وہ بتیس برس کا تھا، جب سلطنت کرنے لگا، اور اس نے آٹھ
 برس یا وسلم میں سلطنت کی، اور وہ بغیر اعتماد کے رخصت ہوا، ۱۲ تھی

اعداد کو حروف کی شکل میں لکھنے کے عادی تھے، اس لئے کاتب کی غلطی سے کاتب
کی جگہ میم لکھا گیا۔

پھر کہتا ہے کہ :-

کتاب سلاطین ثانی کی عبارت صحیح ہے، دونوں عبارتوں میں مطابقت ممکن نہیں ہے
ظاہر ہے کہ وہ عبارت کیونکہ صحیح ہو سکتی ہے، جس سے بیچ کا باپکے دو سال عمر میں ڈرامہ
ظاہر ہوتا ہو۔

ہورن کی تفییک ہلدا میں اور ہنری داسکات کی تفسیر میں بھی اس امر کا اعتراف پایا جاتا
ہے کہ یہ کاتبوں کی غلطی ہے،

اسراہیل یا یہوداہ — شاہد نمبر ۸

کتاب توایخ ثانی باب ۲۸ آیت ۱۹ عبرانی سخن میں یوں کہا گیا ہے کہ :-

خداوند نے شاہ اسراہیل آخر کے سبب سے یہوداہ کو پست کیا۔
یقینی طور پر لفظ "اسراہیل" غلط ہے، کیونکہ یہ شخص یہوداہ کا پارشاہ تھا نہ کہ اسراہیل کا ہے،
یونانی اور لاطینی نسخوں میں لفظ یہودا موجود ہے، اس لئے عبرانی نسخہ میں تحریف ثابت ہے،

پوس کے خط میں تحریف — شاہد نمبر ۹

زبور ۲۰ آیت ۶ میں ہے کہ :-

"تونے میرے کان کھول دیئے ہیں"

پوس نے عبرانیوں کے نام خط کے بات آیت ۵ میں زبور کا یہ جملہ نقل کیا ہے، مگر
اس میں اس کی جگہ یوں ہے کہ :-

"بلکہ میرے لئے ایک بد ن تیار کیا"

اس لئے یقیناً ایک عبارت غلط اور محرفت ہے، مسیحی علماء حیران ہیں، ہنری داسکات
کی تفسیر کے جامعین کہتے ہیں:-

یہ فرق کا تب کی غلطی سے ہوا، اور ایک ہی مطلب صحیح ہے۔
غرض ان جامعین نے سحریف کا اعتراف کر لیا، لیکن وہ کسی ایک عبارت کی جانب
سحریف کی نسبت کرنے میں توقف کرتے ہیں،

آدم کلارک اپنی تفسیر کی جستلہ زبور کی عبارت کے ذیل میں کہتا ہے کہ:-
”شتن عبرانی جو مردوج ہے وہ محرفت ہے“

غرض سحریف کی نسبت زبور کی عبارت کی جانب کرتا ہے،
ڈی آئلی اور رچرڈ منٹ کی تفسیر میں یوں ہے کہ:-

”ہنایت عجیب بات ہے کہ یونانی ترجمہ میں اور عبرانیوں کے نام خط کے باਬ
آیت ۵ میں اُس فقرہ کی جگہ یہ فقرہ ہے: ”بیرے لئے ایک بدن تیار کیا“
یہ درنوں مفسر سحریف کی نسبت انجیل کی جانب کر رہے ہیں،

زبور میں سحریف کی ایک اور مثال — شاہد نمبر ۱۰

زبور نمبر ۱۰ اور مثال کی آیت ۲۸ میں یوں ہے کہ:-
”انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہیں کی۔“

اور یونانی نسخہ میں بھی یوں ہے کہ:-

”انہوں نے اس کے قول کے خلاف کیا۔“

پہلے نسخہ میں نفی ہے، اور دوسرا میں اثبات ہے، اس لئے یقیناً ایک غلط ہے،
یعنی علماء اس جگہ متاخر ہیں، چنانچہ ہزاری واسکاٹ کی تفسیر میں ہے کہ:-

”اس فرق کی وجہ سے بحث طویل ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ اس کا سبب کسی
حروف کی زیادتی ہے یا کمی“

بہرحال اس تفسیر کے جامعین نے سحریف کا اقرار کر لیا، مگر اس کی تعیین پر وہ
 قادر نہیں ہیں،

لہ یعنی عبرانیوں کے نام خط کی جانب ۱۲ ترقی

مردم شماری میں اختلاف اور آدم کھاکر کا عمومی اعتراف تحریف

شاہد نمبر ۱۱

کتاب سموئیل ثانی باب ۲۳ آیت ۹ میں یوں کہا گیا ہے کہ:-

”اسراٹیل میں آٹھ لاکھ بہادر مرد تھے، جو شمشیر زدن تھے اور یہودا کے مرد پانچ لاکھ تھے“
اور کتاب سلاطین اول باب ۲۱ آیت ۵ میں یوں ہے کہ:-

”سب اسراٹیل گیارہ لاکھ شمشیر زدن مرد تھے، اور یہودا کے چار لاکھ ستر ہزار
شمشیر زدن مرد تھے“

یقیناً ان میں سے ایک آیت تحریف شدہ ہے، آدم کھاک اپنی تفسیر کی جلد ۲ سموئیل
کی عبارت کے ذمیں میں کہتا ہے کہ:-

”دونوں عبارتوں کا صحیح ہونانا ممکن ہے، اغلب یہی ہے کہ پہلی صحیح ہے، نیز محمد عین
کی تاریخی کتابوں میں دوسرے مقامات کے لحاظ سے بکثرت تحریفات پائی جاتی ہے
اور ان میں تطبیق کی کوشش کرنا محض بے سود ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اس بات کو
شدید ہی میں مان لیا جاتے، جس کے انکار کی گنجائش نہ ہو، محمد عین کے مصنفوں میں اگرچہ
صاحب الہم تھے مگر ان سے نقل کرنے والے لوگ ایسے نہ تھے“

ملاحظہ کیجئے! یہ مفسر صاف تحریف کا اعتراف کر رہا ہے، لیکن وہ مجرمت عبارات کی تعین
تعین پر قادر نہیں ہے، اور یہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ تاریخی کتابوں میں بڑی کثرت سے
تحریفات پائی جاتی ہیں، اور انصاف پسندی سے کام لے کر کہتا ہے کہ سلامتی کی راہ یہی ہے
کہ شروع ہی میں تحریف کو تسلیم کر لیا جاتے،

ہارستے کا کھلا اعتراف ————— شاہد نمبر ۱۲

مفسر ہارستے اپنی تفسیر کی جلد اول صفحہ ۲۹۱ پر کتابِ القضاۃ کے باب ۱۳ آیت ۲۳ کے

لئے سبخوں میں کتاب سلاطین ہی کا حوالہ مذکور ہے مگر یہ درست نہیں، صحیح کتاب تو ایک ہی کوئی کہی یہ عبارتیں ہیں ہے

ذیل میں یوں کہتا ہے کہ:-

”اُس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ آیت محرف ہے“^{۱۰}

آرام یا ادوم؟ شاہد نمبر ۱۳

کتاب تہویں ثانی باب ۵ آیت ۸ میں لفظ آرام ”استعمال ہوا ہے جو یقیناً غلط ہے، صحیح لفظ ادوم“ ہے، مفسر آدم کلارک نے پہلے تو یہ فیصلہ کیا کہ یہ یقیناً غلط ہے، پھر کہتا ہے کہ ”اغلب یہ ہر کہیے کاتب کی غلطی ہے“

چار یا چالیس؟ شاہد نمبر ۱۴

اسی باب کی آیت میں ہے کہ:-

”اور چالیس بر س کے بعد یوں ہوا کہ ابی سلمون نے بادشاہ سے کہا“

اس میں لفظ ”چالیس“ یقیناً غلط ہو، صحیح لفظ ”چار“ ہے، آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد ۲ میں کہتا ہے کہ

”اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عبارت محرف ہے“

پھر کہتا ہے کہ:-

”اگر علماء کی رائے یہی ہو کہ کاتب کی غلطی سے بجائے چار کے چالیس لکھا گیا ہے“

گنی کاٹ کا اعتراف شاہد نمبر ۱۵

آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد ۲ میں کتاب تہویں ثانی باب ۲۳ آیت ۸ کے ذیل میں

یوں کہتا ہے کہ:-

”گنی کاٹ کے نزدیک متین عبرانی کی اس آیت میں تین زبردست تحریفات کی گئی ہیں ۱۱“

۱۱ قضاۃ، ۲:۱۲ یہ ہے ”تب افتتاح سب جلعادیوں کو جمع کر کے افراتیمیوں سے لڑا اور جلعادیوں نے افراتیمیوں کو مار لیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم جلعادی افراتیم ہی کے بھگوڑ میں جو افراتیمیوں اور مسیوں کی دریگاہ ہوتی ہوئی“

لکھ اس کی عبارت پچھے حاشیہ صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں ۱۲ ات

ملاحظہ فرمائیے، اس موقع پر تین عظیم اشان تحریفات کا اقرار کیا جا رہا ہے۔
کتاب تواریخ اول باب آیت ۶ میں یوں کہا گیا ہے کہ:-

شاہد نمبر ۱۷ — ”بنی نہیں یہ ہیں: باائع اور سُبْر اور سُلَعْلِیٰ یہ تینوں“

اور باب ۸ میں ہے کہ:-

”اور نہیں سے اس کا پہلو سٹھا بالع پیدا ہوا، دوسرا شبیل، تیسرا خرج چڑھانا وحہ،
پانچواں رفَا،“

اور کتاب پیدائش باب ۳۶ آیت ۲۱ میں ہے کہ:-
”بنی نہیں یہ ہیں باائع اور سُبْر، اور شبیل اور سُبْر، اور نعماں اخی، اور رَوْس، اور
مفہیم اور حفیم اور ارد“

دیکھئے ان تینوں عبارتوں میں دو طرح کا اختلاف ہے، اول ناموں میں، دوسرے تعداد
میں، کیونکہ پہلی عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی ایمن کے تین بیٹے ہیں، اور دوسری
کہتی ہے کہ پانچ بیٹے ہیں، اور تیسرا سے معلوم ہوتا ہے کہ دش ہیں، اور جو نکہ پہلی اور
دوسری عبارت ایک ہی کتاب کی ہے تو ایک ہی مصنف یعنی عزرا پیغمبر کے کلام میں قصہ
لازم آرہا ہے، بلاشبہ عیسائیوں کے نزدیک اُن میں سے ایک ہی عبارت صحیح ہو گی، اور
دوسری دونوں غلط اور جھوٹی، علاراہمی کتاب اس سلسلہ میں سخت جیران ہیں، اور محبوہ کو
انھوں نے عزرا پیغمبر کی طرف اس غلطی کی نسبت کر دیا، چنانچہ آدم کلارک پہلی عبارت
کے ذیل میں کہتا ہے کہ:-

”اس جگہ اس طرح اس لئے لکھا گیا کہ مصنف نو بیٹے کی جگہ بچتے اور پوتے کی جگہ بیٹے میں تباہ
نہ ہو سکا، سچی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے اختلافات میں تطبیق دینا بیکار محسن ہے، علاراہم
یہود کہتے ہیں کہ عزرا پیغمبر جو اس کتاب کے کاتب ہیں اُن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اُن میں
بحص بیٹے ہیں اور بھن پوتے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ فسکے اور اق جن سے عزرا ہے نے نقل
کیا ہے اُن میں سے اکثر ناقص تھے، اور ہمارے لئے ضروری ہے کہ اس قسم کے معاملات
کو نظر انداز کریں“

ملاحظہ فرمائیے کہ تمام اہل کتاب خواہ ہر دوی پھول یا عسائق، کس طرح افتخار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، ان کو یہ کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ عزرا ر سپیر نے جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے، اور انھوں نے بیشون اور پوتون میں سمجھنے کی وجہ سے جو چاہا الکوہ والا اور مفسر جب تبیق سے نامید ہو گیا تو پہلے تو کہتا ہے کہ:-

”اس قسم کے اختلافات میں تطبیق دینے کا کوئی قائد نہیں ہے وہ پھر دوبارہ کہتا ہے کہ:-

”ہمارے لئے ضروری ہے کہ اس قسم کے معاملات کو نظر انداز کر دیں“

آدم کلارک کے عہد اف سے حصل ہو نیوالے الحظی یہم نتائج ہیں

تمام اہل کتاب کا دعویٰ ہے کہ کتاب تواریخ اول قبان کو عزرا ر سپیر نے حجی اور رکڑا سپیر دوں کی اعانت سے تصنیف کیا ہے، تو گویا ان دونوں کتابوں پر تینوں سپیر متفق ہیں، دوسری جانب تاریخی کتب اس امر کی شہادت دے رہی ہیں کہ عہد عتیق کی کتابوں کا حال سخت نصر کے حادثہ سے پہلے بدتر ساختا، اور اس حادثہ کے بعد تو ان کا نام ہی نام رہ گیا ساختا، اور اگر عزرا ر دوبارہ ان کتابوں کی تدوین نہ کرتے تو ان کے زمانہ میں یہ کتاب میں موجود نہ ہوتیں، دوسرے زمانوں کا تو ذکر ہی کیا ہے،

اور یہ بات اہل کتاب کی اس کتاب میں تسلیم کی گئی ہے جو حضرت عزرا ر کی طرف مسوٹ ہے، اگرچہ فرقہ پر دشمنت اس کو آسمانی کتاب نہیں مانتا، مگر اس اعتقاد کے باوجود اس کا رتبہ ان کے نزدیک موئیین کی کتابوں سے بہر حال کم نہیں ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ:-
توريت جلا دی گئی تھی، اور کوئی شخص بھی اس کا علم نہیں رکھتا ساختا، اور کہا گیا ہو کہ عزرا ر نے روح القدس کی مرد سے اس کو دوبارہ جمع کیا یہ

لئے غائب اس کتاب سے مراد ہے۔ آئیڈر لیں ۱۳، ۱۹، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۴۱۰، ۴۴۱۱، ۴۴۱۲، ۴۴۱۳، ۴۴۱۴، ۴۴۱۵، ۴۴۱۶، ۴۴۱۷، ۴۴۱۸، ۴۴۱۹، ۴۴۱۰۰، ۴۴۱۰۱، ۴۴۱۰۲، ۴۴۱۰۳، ۴۴۱۰۴، ۴۴۱۰۵، ۴۴۱۰۶، ۴۴۱۰۷، ۴۴۱۰۸، ۴۴۱۰۹، ۴۴۱۰۱۰، ۴۴۱۰۱۱، ۴۴۱۰۱۲، ۴۴۱۰۱۳، ۴۴۱۰۱۴، ۴۴۱۰۱۵، ۴۴۱۰۱۶، ۴۴۱۰۱۷، ۴۴۱۰۱۸، ۴۴۱۰۱۹، ۴۴۱۰۱۰۰، ۴۴۱۰۱۰۱، ۴۴۱۰۱۰۲، ۴۴۱۰۱۰۳، ۴۴۱۰۱۰۴، ۴۴۱۰۱۰۵، ۴۴۱۰۱۰۶، ۴۴۱۰۱۰۷، ۴۴۱۰۱۰۸، ۴۴۱۰۱۰۹، ۴۴۱۰۱۰۱۰، ۴۴۱۰۱۰۱۱، ۴۴۱۰۱۰۱۲، ۴۴۱۰۱۰۱۳، ۴۴۱۰۱۰۱۴، ۴۴۱۰۱۰۱۵، ۴۴۱۰۱۰۱۶، ۴۴۱۰۱۰۱۷، ۴۴۱۰۱۰۱۸، ۴۴۱۰۱۰۱۹، ۴۴۱۰۱۰۱۰۰، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱، ۴۴۱۰۱۰۱۰۲، ۴۴۱۰۱۰۱۰۳، ۴۴۱۰۱۰۱۰۴، ۴۴۱۰۱۰۱۰۵، ۴۴۱۰۱۰۱۰۶، ۴۴۱۰۱۰۱۰۷، ۴۴۱۰۱۰۱۰۸، ۴۴۱۰۱۰۱۰۹، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۱، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۲، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۳، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۴، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۵، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۶، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۷، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۸، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۹، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۰، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۲، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۳، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۴، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۵، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۶، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۷، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۸، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۹، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۱، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۲، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۳، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۴، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۵، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۶، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۷، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۸، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۹، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۳، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۴، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۵، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۶، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۷، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۸، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۱، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۲، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۳، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۴، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۵، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۶، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۷، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۸، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۹، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۳، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۴، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۵، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۶، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۷، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۸، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۱، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۲، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۳، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۴، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۵، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۶، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۷، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۸، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۹، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۳، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۴، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۵، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۶، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۷، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۸، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۳، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۴، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۵، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۶، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۷، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۸، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۳، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۴، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۵، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۶، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۷، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۸، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۳، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۴، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۵، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۶، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۷، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۸، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۳، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۴، ۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۵،

اور حکیمیں سکندر یا نوس کہتا ہے کہ:-

آسمان کتا پس سب صالح ہو گئی تھیں، پھر عزرا کو الہام ہوا کہ وہ ان کو دوبارہ لکھے ۔
ٹرٹولین کہتا ہے کہ:-

مشہور سبی ہو کہ عزرا نے بال دلوں کی تردیم پر غارتگری کے بعد تمام کتا پس لکھیں ۔
لکھیو فلیکٹ کہتا ہے کہ:-

گتھ مدرسہ بالکل ناپید ہو چکی تھیں، عزرا نے الہام کے ذریعہ ان کو دوبارہ حجم دیا ۔
جان ملز کی تھوڑک اپنی کتاب مطبوعہ ڈربی سلسلہ^{۱۲۳} کے صفحہ ۱۱۵ میں یوں کہتا ہے کہ:-

ایں علم اس امر پر متفق ہیں کہ اصل توریت کا نسخہ اور اسی طرح عہد غیش کی کتابوں کے میں
نسخہ بخت نصر کے فوجیوں کے ہاتھوں صالح ہو گئے، اور جب ان کی صحیح نقلیں عزرا پیغمبر
کے ذریعہ شائع ہوئیں وہ بھی نیتوکس کے حادثہ میں صالح ہو گئیں ۔

ان اقوال کے معلوم ہو جانے کے بعد اب ہم دوبارہ مفسر مذکور کے کلام کی طرف رجوع
کرتے ہیں، کہ ایسے سے ساث کھلے تابع سامنے آتے ہیں:-

پہلا نتیجہ :-

یہ مرد جو توریت ہرگز دہ توریت نہیں ہو سکتی جس کا الہام اولاً موسیٰ علیہ السلام کو ہوا
کھتا، پھر اس کے صالح ہونے کے بعد جس کو دوبارہ عزرا نے الہام سے لکھا تھا، درد نہ
عزرا نے پھر اس کی جانب رجوع کرتے، اور اس کی مخالفت نہ کرتے، اور اس کے مطابق اس
کی نقل کرتے، اور ان ناقص اور اق پر ہرگز بھروسہ نہ کرتے، جن میں غلط اور صحیح کے درمیان
وہ تمیز بھی نہ کر سکتے تھے، اگر عیسائی یہ کہیں کہ یہ دہی توریت ہے میکن، ان ناقص نسخوں سے
منقول ہے جو ان کو ستیاب ہو سکتے تھے مگر لکھتے وقت وہ ان کے درمیان اس طرح امتیاز
نہ کر سکے جس طرح ناقص اور اق میں ان کو امتیاز نہ ہو سکا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی

لہ ان حادثات کے تعارف کے لئے دیکھئے صفحو ۳۲۶ کا حاشیہ ۱۲ ۳۵ یعنی آرم کلارک،
۳۵ حالانکہ کتاب تواریخ میں کتاب پیدائش کی مخالفت کی گئی ہی، جو تواریخ کا ایک حصہ ہے ۱۲ ت

شکل میں تورتیت ہرگز اعتماد کے لائق نہیں رہتی، خواہ اس کے نقل کرنے والے حضرت عزرا بن
علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں،

دوسرائی تجھے

جب عزرا ہئے اس کتاب میں دو سینه بروں کی شرکت و معاونت کے باوجود غلطی کی تو
دوسری کتابوں میں بھی ان سے غلطی واقع ہونا ممکن ہے تو پھر کوئی مضائقہ نہ ہونا چاہئے
اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کتاب کا انکار کر دے، بالخصوص جیکہ وہ دلائل قطعیہ کے خلاف
ہوں، یا بدایت سے مکراتی ہوں، مثلًا اس واقعہ کا انکار کر دیا جائے جو کتاب پیدائش کے
باب ۱۹ میں منقول ہے، کہ لوٹ علیہ السلام نے نعوذ باشد اپنی دوستیوں کے ساتھ زنا کیا تھا
اور دونوں کو اپنے باپ کا حمل رہ گیا، اور ان سے دو بیٹے پیدا ہوتے، جو موآبیوں اور
عمانیوں کے جد امجد ہیں،

یا اس واقعہ کا انکار کر دیا جائے جو سفر سمرتیل اول کے باب ۲۱ میں پایا جاتا ہی،
کہ داؤد علیہ السلام نے اور یا کی بیوی سے زنا کیا تھا، اور وہ زنا سے حاملہ ہو گئی، پھر
اس کے شوہر کو حیلہ سے قتل کر ڈالا، اور اس میں تصریف کیا،

یا اس واقعہ کا انکار کرے جو کتاب سلاطین اول باب میں منقول ہے، کہ سلیمان
علیہ السلام اپنی آخری عمر میں اپنی بیویوں کی ترغیب سے مرتد ہو گئے تھے، اور بت پرستی
کرنے لگے تھے، اور اس کام کے لئے بہت خلنے بھی تعمیر کرائے اور خدا کی نظر سے گرفتے
ادھر اس قسم کے دوسرے شرمناک اور دلدوڑ قصے جن سے انسان رو نگھٹ کھڑے
ہو جاتے ہیں، اور سلیمان دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہی اور دلائل جن کی تردید کرتے ہیں،
تیسرا نتیجہ :-

یہ کہ جب کسی چیز میں تحریف واقع ہو گئی تو یہ ضروری ہے کہ وہ تحریف بعد میں
آنے والے بغیر کی کوشش سے جاتی رہے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت مقامات
کی ضرورتی اعلان کریں، نہ عادت الہیہ اس طرح جاری ہے،

۱۵ لہذا عیسائی حضرات کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہودیوں نے تورتیت میں جہاں تحریف کی تھی اس پر

الله تعالیٰ نے دوسرے سینہ بروں کو مطلع فرمادیا اور ان کی کوششوں سے وہ درست ہو گئی، اس لئے کہیاں تو تحریف اب تک مبتک ہے۔

چھوٹھا نتیجہ :-

علماء پر دلشنٹ کا دعویٰ ہے کہ حواری اور سپغیر اگرچہ گناہوں اور خطاوں بھول چوک۔ سے معصوم نہیں ہیں، لیکن باس ہمہ وہ تبلیغ و تحریر میں معصوم ہیں، اس لئے جب وہ کسی حکم کی تبلیغ کریں یا لمحیں تو ایسی صورت میں وہ غلطی اور بھول چوک سے پاک ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس دعویٰ کی کوتی اصل و بنیاد ان کی کتابوں میں نہیں ہے، ورنہ بتایا جاتے کہ پھر عزراہ کی سحر و غلطی اور خطاوں سے کیوں نہ پچ سکی؟ حالانکہ دو سپغیر ان کے مذکوٰ بھی تھے،

پانچواں نتیجہ :-

بعض اوقات بعض معاملات میں بھی کو الہام نہیں ہوتا، حالانکہ اس وقت الہام کی سخت ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ عزراہ کو الہام نہ ہو سکا، حالانکہ اس سلسلہ میں ان کو الہام کی سخت ضرورت تھی،

چھٹا نتیجہ :-

مسلمانوں کا یہ دعویٰ صحیح ثابت ہو گیا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ جو کچھ ان کتابوں میں درج ہے وہ سب الہامی اور خدا کی طرف سے ہے لیکن کوئی خطاب اہمی نہیں ہو سکتی نہ وہ خدا کی جگہ ہے ہو سکتی ہے اور یہ چیزیں ان کتابوں میں موجود ہیں جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے، اور گذشتہ شواہد میں بھی، اور اشارات آئندہ شہادتوں سے مزید معلوم ہو گا،
ساتواں نتیجہ :-

جب عزراہ علیہ السلام سحر میں غلطی کرنے سے پاک نہیں ہیں تو پھر مرقس اور لوقا صاحب انجیل جو حواری نہیں ہیں وہ سحر میں غلطی کرنے سے کیسے معصوم ہو سکتے ہیں؟ لیکن کہ عزراہ اہل کتاب کے نزدیک صاحب الہام سپغیر ہیں، اور دو صاحب الہام سپغیر سحر میں ان کے مددگار بھی تھے۔

اس کے بر عکس مرقس و لوقا دونوں صاحب الہام سپغیر نہیں ہیں، بلکہ ہمارے نزدیک تو میتی اور یوحنا کی پوزیشن بھی ایسی ہی ہے، راگرچہ فرقہ پر دلشنٹ کے نزدیک نہ رسول

ہیں) اور ان چاروں کا کلام اغلاط و اختلافات سے بربزی ہے،

ستھروں شاہد ^{۲۹} آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد ۲ کتاب توایخ اول کے باہم آیت کے ذیل میں یوں کہتا ہے کہ :-

"اس باب میں اس آیت سے آیت ۲۳ تک اور باب ۹ میں آیت ۵۳ سے آیت ۲۴ تک مختلف نام موجود ہیں، اور علماء پریبور کا بیان یہ ہے کہ عزراع کو ایسی دو کتابیں دستیاب ہوئی تھیں جن میں یہ چند فقرے مع چند مختلف ناموں کے موجود تھے، لیکن عزراع اس میں مہتیاز نہ کر سکے کہ ان ناموں میں کون سا ٹھیک اور بہتر ہے، اس لئے انہوں نے دونوں نقل کر دیئے" ۔

اس معاملہ میں وہی بات کہی جاسکتی ہے جو گذشتہ شاہد میں عمر من کی گئی ہے،

ابیاہ اور پریتعام کے شکروں کی تعداد — شاہد نمبر ۸۱

کتاب توایخ ثانی باب ۱۳ آیت ۳ میں ابیاہ کے شکروں کی تعداد کے ذیل میں لفظ چار لاکھ اور پریتعام کے شکر کی تعداد میں لفظ آٹھ لاکھ واقع ہوا ہے، اور آیت ۷ میں پریتعام کے شکر کے مقتولین کی تعداد پانچ لاکھ بیان کی گئی ہے، اور چونکہ ان بادشاہوں کی افواج کی یہ تعداد قیاس کے خلاف ہے، اس لئے اکثر لاطینی ترجموں میں پہلے مقام پر تعداد گھٹا کر جا لیں ہزار اور دوسری جگہ اسی ہزار، اور تیسرا جگہ پچاس ہزار کر دی گئی ہے، اور مفسرین حضرات اس تغیر پر راضی ہو گئے، چنانچہ ہورن اپنی تفسیر کی جلد اول میں یوں کہتا ہے کہ :-

اغلب یہ ہر کہ ان نسخوں (یعنی لاطینی ترجموں) میں بیان کردہ تعداد صحیح ہے"

اسی طرح آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد ۲ میں کہتا ہے کہ :-

۱۷ یہ نام پچھے گزر چکے ہیں، ملاحظہ صفحہ ۲۳۷ کا حامشہ،

کہ پوری عبارت کے لئے دیکھئے صفحہ ۲۵۳ جلد اول۔

معلوم اس ساختہ تا ہے کہ چھوٹا عدد (بعنی جرلاطینی نسخوں میں پایا جاتا ہے) بہت ہی سیچھ ہے، اور ہم کو ان تاریخی کتابوں کے اعداد میں بکثرت سخریت واقع ہونے پر زبردست فریاد کا موقع پا تھا آگیا۔

دیکھئے یہ مفسر اس بگہ سخریت کا اقرار کرنے کے بعد اعداد میں کثرت سے سخریفات واقع ہونے کی تصریح کر رہا ہے۔

سلطنت کے وقت یہودیاکین کی عمر — شاہد نمبر ۱۹

کتاب تواریخ ثانی باب ۳۶ آیت ۹ میں یوں کہا گیا ہے کہ :-

”یہو یاکین آٹھ برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا“

اس میں لفظ ”آٹھ برس“ غلط ہے، اور کتاب سلاطین ثانی باب ۲۲ کی آیت ۸ کے خلاف ہے
”اور یہو یاکین جب سلطنت کرنے لگا تو وہ آٹھارہ برس کا تھا“

آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد ۲ کتاب سلاطین کی آیت کے ذیل میں کہتا ہے کہ :-

”درست کتاب تواریخ ثانی کے باب ۲۶ آیت ۹ میں لفظ آٹھ ستمحان جو رہے، جو یقیناً“

غلط ہے، اس لئے کہ اس کی حکومت صرف تین ماہ رہی، پھر قید ہو کر باطل چلا گیا۔ اور قید خانہ میں اس کے ساتھ اس کی یہو یاں بھی سختیں، اب غالب یہی ہو کہ آٹھ یا نو برس کے بچہ کی یہو یاں نہیں ہو سکتیں، اس قدر کم عمر بچہ کی نسبت یہ کہنا بھی دشوار ہے

کہ اس نے وہ فعل کیا ہے جو خدا کے نزدیک قبیح ہو، لہذا کتاب کا یہ مقام سخریت شدہ“

شاہد نمبر ۲۰

بعض نسخوں کے مطابق زبور ۲ آیت ۷ میں اور بعض کے مطابق

زبور ۲۲ کی آیت ۱۶ میں یہ جملہ عبرانی نسخہ میں استعمال ہوا ہے :-

”اوہ میرے درنوں با تھے شیر کی طرح ہیں“

مگر کیتھوں اور پر سلطنت کے عیسائی اپنے ترجموں میں اس کو یوں نقل کرتے ہیں کہ :-

”اوہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چیز تھیں“

اس موقع پر پھر سب لوگ عبرانی نسخہ میں سخریت واقع ہونے کا اعتراف کرتے ہیں :-

شانہ دنہ نمبر ۲۱ | آیت ۲ کی تفسیر کے ذیل میں یوں لکھتا ہے کہ،
آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد ۲ میں کتاب اشعياء کے باب ۲۲

”اس جگہ عبرانی متن میں بے شمار تحریف کی گئی ہے، اور صحیح یوں ہونا چاہئے ”جس طرح موم آگ میں پچھل جاتا ہے“

جنت یا خدا؟ ————— شانہ دنہ نمبر ۲۲

اس باب کی آیت ۲ میں ہے کہ:-

”کیونکہ ابتداء ہی سے نہ کسی نے صنانہ کسی کے کان تک پہنچا اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرتے والے کے لئے پچھے کر رکھا ہے،“

یعنی پرس نے کرناکہوں کے نام پہلے خط کے بابل آیت ۹ میں اس آیت کو اس طرح نقل کیا ہے:-
”بلکہ جیسا انھا ہر دریا، ہی جو اک جو چیز میں نہ آنکھوں نے دیکھیں اور نہ کافنوں نے سُنیں نہ آدمی کے دل میں آئیں وہ سب خدا نے اپنی محبت کھنے والوں کے لئے تیار کر دیں“
غور کیجئے کہ دونوں میں کس قدر فرق ہے؟ اس لئے یقیناً ایک میں صدور تحریف ہوئی ہے،
ہنری داسکات کی تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ:-

”بہترین رائے ہی ہے کہ عبرانی نعت میں تحریف کی گئی ہے،“

آدم کلارک نے اشعياء علیہ السلام کی عبارت کے ذیل میں بہت سے اقوال نقل کئے ہیں
اور ان پر بحث و تردید کی ہے، پھر کہا ہے کہ:-

”میں جراث ہوں کہ ان مشکلات میں سوائے اس کے اور کیا کروں کہ ناظرین کو در باقتوں
میں سے ایک کا اختیار دوں کہ خواہ یہ مان لیں کہ اس موقع پر ہیوں دیوں نے عبرانی متن

لئے جس طرح آگ سوکھی ٹایوں کو جلاتی ہے اور بانی آگ سے جوش مارتا ہے تاکہ تیرانام تیرے مخالفوں میں
مشہور ہوادر قومیں تیرے حضور میں لرزائیں ہوں“ (لیعیاہ، ۲: ۶۳)

لئے پہلی عبارت میں اللہ تعالیٰ کو خطاب ہے اور ان کے حق میں یہ کہا گیا ہے کہ انھیں نہ تو کسی نے دیکھا اور
نہ سنا اور دوسرا عبارت میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ انھیں آجتک حصہ تصور بھی نہ دیکھ سکی“ ۲۴

اور یونانی ترجمہ میں آراء تحریف کی ہے، جیسے کہ عہدِ حقیق سے عہدِ جدید میں نظر کئے جائے والے دوسرے مقامات میں تحریف کا قوس احتمال ہے راؤن کی کتاب کو فصل نمبر ۲ سے فصل نمبر ۹ تک یونانی ترجمہ کی نسبت ملاحظہ کیجئے)۔

یا یہ مان لیا جائے کہ پولس نے اس کتاب سے نقل نہیں کیا ہے، بلکہ کسی ایک یا کئی جعل کتابوں سے مثلاً کتاب معراج اشعيار علیہ السلام اور مشاہدات ایلیا سے ہے جس میں یہ فقرہ موجود ہے نقل کیا ہوا، کیونکہ کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ حواری نے جعل کتابوں سے نقل کیا ہے، غالباً عام لوگ پہلے احتمال کو آسانی سے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے، اس لئے ہم ناظرین کی اطلاع کے لئے ہوشیار کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جریدم نے دوسرے احتمال کو الحاد اور بد دینی سے زیادہ بدتر قرار دیا ہے،

شاہد نمبر ۳۸ تا ۳۹ ہورن اپنی تفسیر کی جلد ۲ میں کہتا ہے کہ :-

”معلوم ہوتا ہے کہ عبرانی متن میں مفصلہ ذیل فقرہ میں تحریف کی گئی ہے:-

- ۱- ملاکی کے باب آیت ۱،
- ۲- کتاب میکاہ کے باب ۵ آیت ۲،
- ۳- کتاب عاموص باب ۹ آیت ۱۲ اور ۱۳،
- ۴- زبور نمبر ۱۰ آیت ۶ تا ۸،
- ۵- زبور نمبر ۱۱ آیت ۷،

دیکھئے عیسائی محققین ان مقامات پر ان آیات میں تحریف کا اقرار کر رہے ہیں، پہلی جگہ میں استرار کی صورت یہ ہے کہ اس کو مٹی نے اپنی انجیل کے باب ۱۱ آیت ۱ میں نقل کیا ہے، اور اس کی نقل ملاکی کے کلام کے مخالف ہے، جو عبرانی متن میں اور دوسرے ترجموں میں منقول ہے، دو وجہ سے، اول اس لئے کہ مٹی کی عبارت یہ ہے:-

لہ موجودہ اور دو ترجمہ میں یہ عبارت ۱:۲ کے بجائے ۲:۱ کے موجود ہی: ہم عرض کر جسی ہیں کہ زبور دل کی ترتیب میں کافی گزبرہ داقع ہوئی ہے ۲:۱ کتاب ملاکی کی عبارت یہ ہی: ”دیکھو میں لپٹے رسول کو بھجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا“ (۳:۲)، اور مٹی میں اُسے یوں نقل کیا ہے: ”دیکھو میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا“ (۱۰:۱۱)،

"دیکھو! میں اپنے پیغمبر... تیرے آگے بھیجی ہوں .."

جس میں لفظ "تیرے آگے" زائد ہے جو ملاگی کے کلام میں موجود نہیں ہے، دوسرے اس لئے کہ اس کی منقولہ عبارت میں تو یہ ہے کہ: "تو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا" اس سبک سے ملاگی کے کلام میں یوں ہے کہ: "دہ میر، آگے راہ درست کرے گا" ہوران حاشیہ میں کہتا ہے کہ:-

"اس اختلاف کی وجہ آسانی سے نہیں بتائی جا سکتی، سو اسے اس سکھ پڑانے نہیں
میں کچھ تحریف واقع ہو گئی۔ ہے"

دوسرے مقام کو بھی مشیٰ نے اپنی انجیل کے باب ۲ آیت ۶ میں نقل کیا ہے، حالانکہ دونوں میں اختلاف موجود ہے،

تیسرا مقام کو لوگانے کتاب اعمال الحواریین کے باب ۲۵ آیت ۲۸ تا ۲۹ میں نقل کیا ہے، اور دونوں میں سخت اختلاف ہے،
چوتھے مقام کو لوگانے کتاب اعمال الحواریین کے باب ۱۵ آیت ۱۶ اور ۱۷ میں نقل کیا ہے، حالانکہ دونوں میں اختلاف ہے،

پانچویں مقام کو پوس نے عبرانیوں کے نام آیت ۵ تا ۷ میں نقل کیا ہے، حالانکہ دونوں مختلف ہیں،

اور چھٹے مقام کا حال ہم پر پوس کے طور پر واضح نہیں ہو سکا، بلکہ چونکہ ہوران عیسیٰ یتیوں

لئے ان دونوں عبارتوں اور ان کے درمیان اختلاف دیکھنے کے لئے ملاحظہ فرمائی ص ۲۵ اور اس کا حاشیہ،

۳۷ یہ اختلاف پچھے ص ۲۰۹ پر گذر چکا ہے ۱۲ ۳۷ اس کی تفصیل ص ۲۰۹ پر دیکھنے ۱۲

۳۷ یہ بھی ص ۲۰۹ پر گذر چکا ہے ۱۲ ۴۵ یہ زبور ۱۱:۲ کی عبارت ہے جس میں یہوداہ کے ملک کو خطاب ہے: "خواہ نہیں قسم کھانی جو کہ تو ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے" یہ عبارت عبرانیوں ۱۱:۲، ۱۰:۲۱ پر نقل کی گئی ہے، بلکہ دونوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں، اس لئے ہمیں ہوران کے کہتے

کی بنیاد معلوم نہیں ہو سکی ۱۲

کے نزدیک معتبر اور محقق عالم شمار ہوتا ہے، اس لئے اس کا افتراء عیسائیوں کے خلاف پولے طور پر صحیح ہو گا،

شانہ دہ نمبر ۲۹ | کتاب المخذل اصل عبرانی متن کے باب ۲۱ آیت ۸ میں بانگی کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے نفی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور حاشیہ کی عبارت میں اثبات کا لفظ ہے،

شانہ دہ نمبر ۳۰ | کتاب الاجبار کے باب ۱۱ آیت ۱۷ میں ان پرندوں کے حکم کے بیان میں جو کہ زمین پر چلتے ہیں عبرانی متن میں نفی پائی جاتی ہے، اور حاشیہ کی عبارت میں اثبات ہے،

شانہ دہ نمبر ۳۱ | کتاب الاجبار کے باب ۲۵ آیت ۳ میں متن کے اندر مکان کے حکم میں نفی موجود ہے، اور حاشیہ کی عبارت میں اثبات ہے، علماء پرنسپنٹ نے ان تینوں مقامات میں اپنے ترجموں میں اثبات ہی کو اختیار کیا ہے، اور حاشیہ ہی کی عبارت کو ترجیح دی ہے، اصل متن کو بالکل چھوڑ دیا ہے، گویا ان کے نزدیک صل متن میں ان تین مقامات پر تحریف کی گئی ہے،

نیزان عبارتوں میں تحریف واقع ہو جانے کی وجہ سے وہ تین احکام جواس میں درج ہیں ان میں شتبیہ پیدا ہو گیا، اور یقینی طور پر یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ وہ حکم جونفی سے حاصل ہو رہا ہے وہ صحیح ہر یادہ حکم درست ہو جو اثبات سے حاصل ہوا، اور یہ امر بھی متحقیق ہو گیا کہ عیسائیوں کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ کتب سماویہ میں اگر کہیں تحریف ہوتی ہے تو اس لئے اگر اس کا آقا جس سے اس سے نسبت کی ہے اس سے خوش نہ ہو تو وہ اس کا فدیہ منظور کرے، پھر اُسے اختیار نہ ہو گا کہ اس کو کسی اجنبی قوم کے ہاتھ بیچے پڑے،

لہ گر پردار بیگنے والے جنوروں میں سے جو جاریاوں کے بل چلتے ہیں تم ان جانوروں کو کھاسکتے ہو جو کے زمین کے اور کونڈے بچاندے کو پاؤں کے اور پٹانگیں ہوتی ہیں، (۲۱، ۱۱)

"اگر وہ یعنی مکان پولے ایک سال کی میعاد کے اندر چھڑ آیا نہ جائے تو اس فسیل دار شہر کے مکان پر خریدار کا نسل درسل دامنی قبضہ ہو جائے اور وہ سال یو میں بھی نہ چھوٹے،" (۲۰: ۲۵)

سے احکام پر اثر نہیں پڑتا،

شاہد نمبر ۳۲ [کتاب الاعمال کے باب آیت ۳۸ میں یوں کہا گیا ہے کہ:-

”تَكَدُّعُ خَدَا كَلِيلٌ كَمَلَ بَانِي كَرَ وَجْهَهُ اسْنَادٍ خَاصٍ أَپْنَى خُونَ مَوْلَيَا“
کرتیا خ ہے کہتا ہے کہ لفظ ”خدا“ غلط ہے، صحیح لفظ ”رب“ ہے، یعنی اس کے تزدیک اس لفظ میں تحریف کی گئی ہے، تحریف کے نام پہلے خط کے باب آیت ۱۶ میں یوں کہا گیا ہے کہ:-

”خدا جسم میں ظاہر نہوا“ کرتیا خ ہے کہ لفظ اللہ غلط ہے، صحیح لفظ ضمیر غائب یعنی ”وہ“ ہے،

شاہد نمبر ۳۳ [کتاب مکافہ باب آیت ۳۱ میں یوں کہا گیا ہے کہ:-

”بچریں نے ایک فرشتہ اٹڑتا ہوا دیکھا۔ کرتیا خ ہے کہ ”فرشتہ“

غلط ہے، صحیح لفظ ”عقاب“ ہے،

شاہد نمبر ۳۴ [افسیون کے نام خط کے باب آیت ۲۱ میں یوں ہے کہ:-

”خدا کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو“ کرتیا خ اور شولز... کہتے ہیں کہ لفظ ”اللہ“ غلط ہے، صحیح لفظ ”مسیح“ ہے،

طوالت کے انڈیشہ سے ”مقصد اقبال“ کے شواہد کے بیان میں اس مفتدار پر سہم
اکتفاء کرتے ہیں :-

لہ چنانچہ موجودہ اردو ترجمہ میں ”وہ“ ہی کا لفظ لکھ دیا گیا ہے، قدیم انگریزی ترجمہ

VERSION KING JAMES مطبوعہ کلیسا میں ”خدا“ ہی کا لفظ ہے، مگر جدید ترجمہ مطبوعہ کلیسا میں ”وہ جو“ کر دیا گیا ہے

لہ یہاں بھی قدیم انگریزی ترجمہ میں فرشتہ ANGEL کا لفظ ہے اور اردو ترجمہ نے جدید انگریزی

ترجمہ میں اسے ”عقاب“ EAGLE بنادیا گیا ہے ۱۲

لہ اس جگہ بھی قدیم انگریزی ترجمہ میں خدا DUD کھا ہوا ہے، مگر اردو اور جدید انگریزی

ترجموں میں اسے ”مسیح“ CHRIST سے بدل دیا گیا ہے ۱۲ تھی

مقصدِ دم

”تحريف لفظي الفاظ کي زياديٰ کي شکل میں؛“

شاہد نمبر اول یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ ۱۹۲۳ء تک عیسائی دنیا میں عہد عنیق کی حب ذیل آٹھ کتابیں ناپسندید اور غیر مقبول رہیں ہیں۔ ۱۔ کتاب آستیر، ۲۔ کتاب باروک، ۳۔ کتاب یہودیت، ۴۔ کتاب طوبیا، ۵۔ کتاب دانش، ۶۔ کتاب تینر کلیسا، ۷۔ مکاہیں کی سیلی کتاب، ۸۔ مکاہیں کی دوسرا کتاب۔ پھر ۱۹۲۴ء میں شہنشاہ قسطنطینیں کے حکم سے شہر ناٹش میں مسیحی علماء کی ایک زبردست کانفرنس ہوئی، تاکہ مشکوک کتابوں کی حقیقت اور ان کی نسبت مشورہ کریں۔ مشورہ اور حقیقت کے بعد اس کمیٹی نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ کتاب یہودیت واجب تسلیم ہے، اور باقی کتابوں کو بدستور مشکوک ہی باقی رکھا گیا، اس کی تحقیق اس مقدمہ سے جو چیردم نے اس کتاب پر کھلہ ہے اچھی طرح ہو سکتی ہے۔

اس کے بعد ۱۹۲۴ء میں دوبارہ اسی قسم کا اجلاس شہر لوڈ ٹریشا میں منعقد ہوا، اس کمیٹی نے کتاب یہودیت کی نسبت گزشتہ کمیٹی کے فیصلہ کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے اضافہ کیا کہ ان کتابوں میں سے کتاب آستیر بھی واجب تسلیم ہے، اور اپنے فیصلہ کو عام اعلان کے ذریعہ پختہ کر دیا،

پھر عکس اُڑے میں ایسا تیسرا فرانس کا ریچج میں منعقد ہوئی، اس اجلاس میں اسے وقت کے بڑے اور مشہور علماء جن کی تعداد ایک سو ستمائیں سخنی شریک ہوتے ہیں: ان شرکاء میں مشہور فاضل اور عیاسی طبقہ کا ہر دفعہ زیرِ شخص آگستائن بھی تھا، اس مجلس میں گذشتہ دونوں کمیٹیوں کے فیصلہ کو تسلیم کرتے ہوئے باقی کتابوں کو بھی تسلیم کر لیا، البتہ ان لوگوں نے کتاب باروک کو کتاب آرمیا کا جزو قرار دیا، یعنی کہ باروک، آرمیا کے مابین کتاب کے مابین حیثیت رکھتے تھے، اس لئے انہوں نے کتابوں کی فہرست میں کتاب باروک کا نام مستقل طور پر علیحدہ نہیں رکھا،

اس کے بعد تین کافرنیں اور بھی ہوتیں، یعنی ٹرلو کافرنس اور ٹرنت کافرنس اور فلورس کافرنس، ان تینوں کمیٹیوں کے شرکاء نے گذشتہ تینوں کمیٹیوں کے فیصلوں پر ہر تسدیق ثابت کی، اس کے عصہ دراز کے بعد یہ مرد دکتابیں ان مجالس کے فیصلوں کے تحت عیاسی دنیا میں تسلیم شدہ بن گئیں، اور ۱۲۰۰ء میں ان کو تسلیم کیا جاتا رہا،

پھر ایک بار انقلاب آتا ہے، یعنی پروٹستانٹ کے ظہور کے بعد انہوں نے اپنے اسلاف اور اکابر کے فیصلے کتاب باروک اور کتاب طوبیا، کتاب یہودیت، کتاب دانش، اور کتاب پندرہ طیسا اور مکاپیوں کی دو فن تکبیروں کی قطعی رد کر دیتے، اور دعویٰ کیا کہ یہ کتابیں اپنی طور پر قابل تسلیم نہیں ہیں، بلکہ واجب الرد ہیں، یہی نہیں بلکہ پچھلوں کے فیصلہ کو کتاب استر کے ایک جزو کی نسبت بھی رد کر دیا، اور صرف ایک جزو کو تسلیم کیا، اس طور پر کہ اس کتاب کے ۱۶ ابواب میں سے اول کے ۹ ابواب اور بائب کی تین آیتیں تسلیم کی گئیں، اور اس باب کی دنیں آیات اور باقی ۷ ابواب کو رد کر دیا گیا، اور اپنے اس دعوے پر چند دجوہ سے استدلال کیا، مثلاً:-

۱۔ یوسفی بیس مؤرخ نے کتاب رابع کے باب ۲۲ میں تصریح کی ہے کہ:
”آن کتابوں میں خربت کی گئی ہے بالخصوص مکاپیوں کی دوسری کتاب میں“

۲۔ دو سکرپتوری بھی ان کتابوں کو الہامی نہیں مانتے، اور روحی گرحاوائے جس کے لئے یعنی ”وَمَنْ كَيْفَوْكَ فَرْقَةٌ“

ملنے والے فرقہ پر دلٹنٹ کے لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں، ان کتابوں کو آج تک تسلیم کرتے آ رہے ہیں، اور ان کو الہامی و دا جب تسلیم خیال کرتے ہیں، اور یہ کتابیں ان کے لاطینی ترجمہ میں داخل ہیں جو ان کے بیہاں بہت ہی معتبر شمار کیا جاتا ہے، اور ان کے دین اور دیانت کی بنیاد مانا جاتا ہے،

اس بنیادی نکتہ کو سمجھے لینے کے بعد اب ہم گزارش کرتے ہیں کہ فرقہ پر دلٹنٹ اور یہودیوں کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کیا سحریت ہو سکتی ہے کہ جو کتابیں ۲۲۳ سال تک مردود رہیں اور محرف اور غیر الہامی مانی جاتی رہیں، ان کو عیساییوں کے اکابر نے ایک نہیں بلکہ متعدد مجالس میں داجت تسلیم مان لیا، اور الہامی کتابوں میں شامل کر لیا، اور ہزاروں عیسائی علماء نے ان کی حقانیت اور سچائی پر اتفاق بھی کر لیا، نہ صرف یہ بلکہ رومی گرجا آجئک ان کے الہامی ہونے پر اصرار کے جارہا ہے،

اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اسلاف کے اجماع کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے اور مخالف کے مقابلہ میں یہ اجماع کمزور سی دلیل بھی نہیں ہو سکتا، چہ جائیکہ کوئی قوی دلیل بنے، پھر اگر ایسا زبردست اجماع ان غیر الہامی اور محرف کتابوں کی نسبت ہونا ممکن ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا اجماع ان لوگوں نے چاروں محرف اور غیر الہامی مردوں انجیلوں کی نسبت بھی کر لیا ہو،

کیا یہ پیز مخفی ہو سکتی ہے کہ یہی اکابر داسلاف یونانی نسخہ کی صحت پر متفق تھے اور عربانی نسخہ کی سحریت کا اعتقاد رکھتے تھے، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہودیوں نے منشاء میں عربانی نسخہ میں سحریت کر دی تھی، جیسا کہ آپ کو مقصد نہ رائیک کے شاہر نمبر ۲ میں معلوم ہو چکا ہے، اور یونانی اور مشرقی گرجے آج تک اس کی صحت پر متفق ہیں، اور ان کا اعتقاد بھی اپنے اسلاف کی طرح ہے،

مگر فرقہ پر دلٹنٹ کے تمام علماء نے ثابت کیا ہے کہ ان کے اسلاف کا اجماع اور ان کے ملنے والوں کا اختلاف غلط ہے اور بات کو بالکل اٹھا کر دیا، اور عربانی نسخہ کے

یا سے میں انہوں نے وہ بات کہی جو ان کے اسلاف نے یونان نسخہ کے باسے میں کہی تھی، اسی طرح رد می گرجانے لاطینی ترجمہ کی صحت پر اتفاق کیا ہے، اور اس کے خلاف اور اس کے بر عکس پر دلستہ کے لوگوں نے نہ صرف اس کا محض ہونا ثابت کیا ہے، بلکہ ان کے نزدیک کسی ترجمہ میں ایسی تحریف کی مثال نہیں ملتی، ہوران اپنی تفسیر کی جلد ۲۷ نسخہ مطبوعہ ۱۸۲۲ء ص ۲۶۳ میں کہتا ہے کہ :-

”اس ترجمہ میں پانچ سویں صدی سے پندرہویں صدی تک بے شمار تحریفیں اور بکثرت الحاقات کئے گئے ہیں“

پھر صفحہ ۲۶ پر کہتا ہے :-

”بات تھا ای خیال میں ضرور رہنی چاہئے کہ دنیا میں لاطینی ترجمہ کی طرح کسی ترجمہ میں بھی تحریف نہیں کی گئی ہے، اور اس کے ناقلوں نے نہایت بیباکی کے ساتھ عمد جدید کی ایک کتاب کے فردیں کو دوسرا کتاب میں داخل کر دیا، اسی طرح حواسی کی عبارتوں کو متن میں شامل کر دیا“

پھر جب ان کا معاملہ اپنے مقبول اور ہر دل عذر کی طرح ترجمہ کے ساتھ اس قسم کا ہے تو ان سے یہ امید کیونکر کی جاسکتی ہے کہ انہوں نے اس اصل متن میں تحریف نہ کی ہو گی، جو ان کے یہاں مردج نہیں ہے، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ جن لوگوں نے ترجمہ میں تحریف کی جرأت کی ہے انہوں نے اصل کی تحریف میں بھی سبقت کی ہو گی تاکہ یہ حرکت ان کی قوم کی نگاہوں میں ان کی پرداہ پوش بن سکے،

تعجب تو پر دلستہ حضرات پر ہے کہ جب انہوں نے ان سب کتابوں کا انکار کیا تھا تو کتاب اسنیر کے ایک جزو کو کس لئے باقی رکھا، اور سرکے سے اس کا انکار کیونکہ نہیں کیا، کیونکہ اس کتاب میں شروع سے اخیر تک ایک جگہ بھی خدا کا نام نہیں آیا، اس کی صفات اور اس کے احکام کا تو کیا ذکر بھروس کے مصنف کا حال بھی معلوم نہیں ہی، عہدِ عقیق کے شارحین کسی ایک شخص کی جانب یقین کے ساتھ اس کو منسوب بھی نہیں کرتے، بلکہ محض اندازہ اور تخمینہ سے اٹھل پچھو نسبت کرتے ہیں، چنانچہ بعض لوگوں نے

اس کو عبادت خانہ کے اُن علماء کی جانب مسوب کیا ہے جو عزرا را علیہ السلام کے زمانہ سے سیمن کے عہد تک ہوئے ہیں، فلو یہودی نے اس کو یہویا کین کی جانب مسوب کیا اسی اور بابل سے اسریروں کی رہائی کے بعد آیا تھا، آگستائن اس کو برائہ راست عزرا علیہ السلام کی طرف مسوب کرتا ہے، کچھ لوگوں نے اس کی نسبت مزد کی طرف کی ہے، اور بعض نے اس کی اور اسٹیر کی جانب کی ہے، یک تھوڑکا تہیر لڈ جلد ۲ صفحہ ۲۲۷ میں ہے کہ:-

”فاضل میلٹر نے مسلمہ کتابوں کے ناموں میں اس کتاب کا نام نہیں لکھا، جس کی تصریح یوسی بیس نے تاریخ کلیسا کے کتاب ۲۶ باب ۲۶ میں کی ہے، گریم، نازین زن نے اپنے اشعار میں صحیح کتابوں کو ضبط کیا ہے جس میں اس کا نام نہیں ہے، ایتمن کوئی نے اپنے اشعار میں جو اس نے سلبیکس کو لکھے تھے اس کتاب کا شہر ظاہر کیا ہے، اہمیت نہیں اپنے خط نمبر ۳ میں اس کتاب کا ذکر کرتا ہوا بھروسی کرتا ہے“

شاہد نمبر ۳ [کتاب پیدائش باب ۳۶ آیت ۳۰] میں یوں کہا گیا ہے کہ:-
”بھی دد بار شاد یہیں کہ جو ملک اور دم پر پیشہ اس سے کہ اسرائیل کا کوئی بادشاہ ہو مسلط تھے“

اس آیت کا موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہونا ممکن نہیں ہے، اس لئے کہ یہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ یہ بات کہنے والا اس ذر کا کوئی اور شخص ہے، جب کہ بنی اسرائیل کی سلطنت قائم ہو جکی تھی، اور ان کا پہلا بادشاہ ساؤل ہوا ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے ۳۵۶ سال بعد گزر رہے، آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد اول میں اس آیت کے ذیل میں یہ کہتا ہے کہ:-

”میرا غالب گمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ آیت نہیں لکھی ہے، اور نہ وہ آیت

لے کیا تو کہ پیشہ اس سے کہ کوئی اسرائیل کا بادشاہ ہو“ کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ لکھنے والا بنی اسرائیل کے بادشاہوں کے ذر کا ہے،

”وہ یہ وہی ساؤل ہے جسے قرآن کریم میں طاوت کہا گیا ہے ۱۲“

جو اس کے بعد آیت ۳۹ تک ہیں، بلکہ یہ آیات درحقیقت کتاب تو ایسا خ اول کے پہلے باب کی ہیں، اور قوی گمان جو محققین کے ذریبہ ہے ہے کہ یہ آیات توریت کے صحیح نسخہ کے حاضریہ پر لکھی ہوئی تھیں، ناقل نے اس کو متن کا جزو سمجھ کر متن میں شامل کر دیا ہے غرض اس مفسر نے یہ اعتراف کر لیا کہ یہ نو آیات الحاقی ہیں، اور اس کے اس اعتراف کی بناء پر یہ بات لازم آئی ہے کہ ان کی کتابوں میں تحریف کی صلاحیت تھی، کیونکہ یہ نو آیات باوجود اس کے کہ توریت کی نہ تھیں اس میں داخل ہو کر تمام نسخوں میں بھیل گئیں،

شاہد نمبر ۳ کتاب ہشتہ شنا کے باب ۳ آیت ۱۲ میں ہے کہ :-

”اوْرَثْتُنِيَّ كَرَّ بَلَيْتَنَيْ يَا يَسِيرَنَے جُورِيُونَ اوْرَمَکَابِيُونَ کِی سرحد تک اور جو بَ کے سامنے ملک کو لے لیا، اور اپنے نام پر بَسَ کے شہروں کو حدودت یا شیر (یعنی یا تیر یا کی بستیاں) کا نام دیا جو آج تک چلا آتا ہے“

یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات کہنے والا لازمی ہے کہ یا یسیر سے کافی پچھے گزرا ہو، جیسا کہ اس کے بعد لفظ آج تک ”اس کی غمازی کرتا ہے، اس لئے کہ اس قسم کے الفاظ عیسائی محققین کی تحقیق کی بناء پر زمانہ بعید ہی میں ستعمال کئے جاسکتے ہیں، مشہور فاضل ہورن ان دونوں فعروں کے بارے میں جن کو میں نے شاہد نمبر ۲ و ۳ میں نقل کیا ہے، اپنی تفسیر کی جلد اول میں کہتا ہے کہ :-

”ان دونوں فعروں کے لئے ممکن نہیں ہو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہو، کیونکہ پہلا فقرہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف اس دوڑ کے بعد ہوا ہے، جیکہ بنی اسرائیل کی سلطنت قائم ہو چکی تھی، اسی طرح دوسرا فقرہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا مصنف فلسطین میں یہودیوں کے قیام کرنے کے بعد گزر رہے، لیکن اگر ہم ان دونوں آیتوں کو الحاقی تسلیم کر لیں تب بھی کتاب کی سچائی میں کوئی نقض واقع نہ ہو گا، اور جو شخص بھی گھری نظر سے دیکھے گا وہ سمجھ لے گا کہ یہ دونوں فقرے بے فائدہ نہیں ہیں، بلکہ متن کتاب پر دزنی اور بھاری ہیں، بالخصوص دوسرا فقرہ، کیونکہ خواہ اس کا مصنف موسیٰ علیہ السلام ہوں، یا کوئی

دوسرے شخص، بہر حال وہ "آج تک" نہیں کہہ سکتا، اس لئے غالب یہی ہے کہ کتاب میں صرف یہ عبارت تھی: "منستی کے بیٹے یا تیر نے جسور یوں اور مکاپوں کی سرحد تک اور جوب کے سارے ملک کو لے لیا، اور یعنی نے اس کے نام پر اسے حودت یا تیر کا نام دیا" پھر کچھ صدیوں بعد یہ الفاظ حاشیہ میں بڑھانی شروع گئے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس خطہ کا نام جو اس وقت تک رکھا گیا تھا وہ آج بھی ہے، پھر آئندہ نسخوں میں یہ عبارت حاشیہ سے منتقل ہو گئی، اگر کسی کوشک ہو تو اس کو یونانی نسخہ دیکھنا چاہئی، اس میں یہ ثبوت مل جائے گا کہ جو الحاقی عبارت میں بعض نسخوں کے متن میں موجود ہیں، یہ دوسرے نسخوں کے حاشیہ پر پائی جاتی ہیں۔

بہر حال اس محقق فاضل نے یہ اعتراف کر لیا کہ یہ دونوں فقرے موسیٰ علیہ السلام کا کلام نہیں ہو سکتے، اس کا یہ کہنا کہ "غالب یہ ہے" اس امر پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کے پاس سوا یہ اپنے زعم کے اس دعوے کی کوئی سند نہیں ہے اور یہ کہ اس کتاب میں اپنی تحریف کے چند صدیوں بعد تحریف کرنے والوں کے لئے تحریف کی گنجائش اور صلاحیت تھی، اس لئے کہ اس کے قول کے مطابق ان الفاظ کا اضافہ کئی صدیوں بعد کیا گیا ہے، اس کے باوجود وہ کتاب کا جزو ہو گئے، اور آئندہ تمام نسخوں میں شائع ہو گئے، باقی اس کا یہ کہنا کہ "اگر ہم ان دونوں فقروں کو الحاقی ہی مان لیں اونچ" کھلے طور پر تعصب پر دلالت کرتے ہیں، ہمزی و اسکاٹ کی تفسیر کے جامعین دوسرے فقرہ کے ذیل میں یوں کہتے ہیں کہ:-

"آخری جملہ الحاقی ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نے شامل کیا ہے، اور اگر اس کو حجور دیا جاتے تو بھی مضمون میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی"

ہم کہتے ہیں کہ آخری فقرہ کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ دوسرافقرہ پورا نامکن ہے، کہ "موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہو سکے"، جس کا اعتراف ہو رون بھی کرتا ہے، دوسرے فقرہ میں ایک اور بھی چیز باقی ہے کہ یا تیر منستی کا بیٹا ایک اسیم بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ مشجوب کا بیٹا ہے، جس کی تصریح کتاب تواریخ اول باب ۲۲ آیت ۲۲ میں موجود ہے،

کتاب لکھنی باب ۳۲ آیت ۳۰ میں ہے کہ :-
”او منست کے پیٹ یا گیر نے اس نواح کی بسیوں کو جاکر لے لیا
اور ان کا نام خودت پایا تیر رکھا“

پائیروں کی بستیاں
شاہد نمبر ۲،

اس آیت کی پوزیشن کتاب استثناء کی آیت جیسی ہے جو شاہد نمبر ۳ میں آپ کو معصوم ہو چکی ہے، جو کشیری بائیں جو امریکیہ اور انگلینڈ اور انڈیا میں چھپی ہے، جس کی تالیف کا آغاز کالمنٹ نے اور تکمیل زابرٹ اور طیلر نے کی، اس میں یوں ہے کہ :-

”بعض جملے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں پڑتے ہیں وہ صاف اس امر پر
ولادت کرتے ہیں کہ وہ ان کا کلام نہیں ہے، مثلاً کتاب لکھنی کے باب ۳۲ آیت ۳۰
اور کتاب استثناء کے باب ۲ آیت ۱۲ اور اسی طرح اس کتاب کی بعض عبارتیں
موسیٰ علیہ السلام کے کلام کے محاورات کے مطابق نہیں ہیں اور ہم یقین کے ساتھ
یہ نہیں کہ سمجھے کہ یہ جملے اور یہ عبارتیں کس شخص نے شامل کی ہیں، البتہ ظن غالباً
طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزرا علیہ السلام نے ان کو شامل کیا ہے، جیسا کہ ان کی کتاب
کے باب ۹ آیت ۱۰ سے پتہ چلتا ہے، اور کتاب سخیاہ کے باٹ سے معلوم ہوتا ہے،

غور کیجئے کہ ان علماء کو اس بات کا یقین ہے کہ بعض جملے اور عبارتیں موسیٰ علیہ السلام
کا کلام نہیں ہیں، البتہ یہ لوگ متعین طور پر یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کو کس نے شامل کیا ہے
محض گمان کے درجہ میں عزرا علیہ السلام کی جانب الحق کو منسوب کرتے ہیں، ظاہر ہے
کہ یہ گمان محض بیکار ہے، گذشتہ ابواب سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ عزرا علیہ السلام
نے کوئی جزو بھی توریت میں شامل کیا ہے، اس لئے کہ کتاب عزرا سے معلوم ہوتا
ہے کہ انھوں نے بنی اسرائیل کے افعال پر افسوس اور خطاؤں کا اعتراض کیا ہے، اور
کتاب سخیاہ سے پتہ چلتا ہے کہ عزرا علیہ السلام نے ان کے سامنے توریت پڑھی ہے۔

خداوند کا پہاڑ
”چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر جہیتا

شاہد نمبر ۵،

کیا جائے گا“

حالانکہ اسٹھ پہاڑ پر "خداوند کے پہاڑ" کا اطلاق اس ہیکل کی تعمیر کے بعد ہی ہوا، اور جس کو سلیمان نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ۲۵ سال بعد بنایا تھا، آدم کلارک نے کتاب عزرا رکھ کر تفسیر کے دیباچہ میں فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جملہ الحاقی ہے، پھر کہتا ہو کہ "اس پہاڑ پر اس نام کا اطلاق ہیکل کی تعمیر سے پہلے قطعی نہیں ہوا"۔

شناہدہ نمبر ۷ کتاب ہستثنا، کے باب آیت ۱۲ میں کہا گیا ہے کہ:-

"اوہ پہلے شعر میں حوری قوم کے لوگ بے ہوش، لیکن بتی عیسیو نے ان کو نکال دیا، اور ان کو اپنے سامنہ سے نیست دنابود کر کے آپ ان کی جگہ بس گئے جیسے اسرائیل نے اپنی میراث کے ملک میں کیا، جسے خداوند نے ان کو دیا"۔

آدم کلارک نے کتاب عزرا رکھ کر تفسیر میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ آیت الحاقی ہے اور اس قول کو کہ "جیسے بنی اسرائیل نے اپنی میراث کے ملک میں کیا" الحاق کی دلیل قرار دیا ہے،

شناہدہ نمبر ۸ کتاب ہستثنا، باب آیت ۱۱ میں اس طرح ہے کہ:-

"میونکہ رفائم کی نسل میں سے فقط بن کا بادشاہ عوج باقی رہا تھا اس کا یلنگ لوہے کا بنا ہوا تھا، اور وہ بنی عمریون کے شہر رتبہ میں موجود ہے، اور آدمی کے ہاتھ کے ناپ کے مطابق ۶ ہاتھ لمبا اور چار ہاتھ چوڑا ہے"۔

آدم کلارک کتاب عزرا کی تفسیر کے دیباچہ میں کہتا ہے کہ:-

"یہ گفتگو بالخصوص آخری عبارت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ یہ آیت اس بادشاہ کی وفات کے عصمه دراز بعد لکھی گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں لکھی، کیونکہ اس کی وفات پانچ ماہ میں ہو گئی تھی"۔

شناہدہ نمبر ۹ کتاب گنتی باب آیت ۱۱ میں بولہ ہے کہ:-

"اوہ خداوند نے اسرائیل کی نسیمیاد سنی، اور کنعانیوں کو ان کے حوالہ کر دیا اور انہوں نے ان کو اور ان کے شہروں کو نیست کر دیا چنانچہ اس جگہ کانگا بھی حرمتہ پڑ گیا"۔

لہ یہ اس پہاڑ کا ذکر ہے جس پر بابیل کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربان کرنے کے نئے نئے گئے تھے ۱۲ تھے

آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد اول صفحہ ۹۹ میں کہتا ہے کہ :-

میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آیت یو شع کی وفات کے بعد شامل کی گئی ہے، کیونکہ تمام
کنگانی موسنیؑ کے عہد میں ہلاک نہیں ہوتے، بلکہ ان کی وفات کے بعد ہلاک ہوتے ہیں ॥

کتاب خردگ کے باب آیت ۳۵ میں یوں کہا گیا ہے کہ :-

اور ہی آسرا تک جب تک آباد ملک میں نہ آئے، یعنی چالینٹ برس تک

مَنْ كَحَّاتِرْهُ، الْغَرْضُ جَبْ تَكْ وَهُلْكِ كِنْعَانَ كِيْ حَدْ دَتْكَ نَآتِرْ مَنْ كَهَّارْهُ ۝

یہ آیت بھی موسیٰ علیہ السلام کا حلام نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا نے بنی آسرائیل سے متن کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بند نہیں کیا، اور وہ اس عرصہ میں کنعان کی سرزمین میں داخل نہ ہو گئے،

آدم کلارک اپنی تفسیر کی جا بلڈص ۳۹۹ میں کہتا ہے کہ ۔

لے لوگوں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ سفر خرد ج بنی اسرائیل کے ملن سے محروم کر دیجی جانے

کے بعد لکھی گئی ہے، مگر یہ بات ممکن ہے کہ ان الفاظ کو عزرا عن نے آیت میں شامل کر دیا ہو۔

ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کا یہ گمان قطعی سمجھ ہے، اور مفسر کا یہ احتمال جو بے دلیل ہے اس قسم کے موقع پر قابل قبول نہیں ہے، اور سمجھ بات بھی ہے کہ وہ باخچ کتا بس جو موسیٰ علیہ السلام کی جانب منسوب ہے درحقیقت آن کی لتصنیف نہیں ہیں، جیسا کہ اس دعویٰ کو باب میں دلائل سے ثابت کیا گیا ہے،

لتاب گنتی باب آیت ۱۳ میں یوں لکھا ہے کہ:-

”اسی لئے خدادوند کے جنگ نامہ میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح اس نے بھروسوں میں کیا تھا اسکی طرح ارنوتن کی داد بوس میں کر سکتا۔

خوازندگان

شاصد منیرا

"لَدْمَنْ" سے مراد وہ آسمانی نہزادے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بنی اسرائیل پر اتاری گئی تھی، جس کا ذکر قرآن نے بھی فرمایا ہے، وَمَرَّ لَنَا مَلِيكُ الْمَنْ وَأَسْلَوْيٍ یعنی مفسرین کاہمنا یہ ہے کہ یہ ترجمہ کا بھل ہے ۱۲

یعنی ”جو کچھ اس نے بھر آجھ اور انون کے نالوں میں کیا۔ اس ممتاز کی خیر غائب ہے ۱۲

یہ آیت بھی موسیٰ علیہ السلام کا حکام نہیں ہو سکتی، بلکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ کتاب گنتی کے مصنف نہیں ہیں، کیونکہ اس مصنف نے اس مقام پر خداوند کے جنگ نامہ کا حوالہ دیا ہے، اور آج تک یقین کے ساتھ پتہ نہیں چل سکا کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے؟ کس زمانہ میں تھا؟ کس ملک کا تھا؟ اور یہ صحیفہ اہل کتاب کے نزدیک عنقاء کی سی پوزیشن رکھتا ہے، جس کا نام تو ساری دنیا سے صنایع دیکھا کسی نے بھی نہیں، اور نہ وہ آن کے پاس موجود ہے، آدم کلارک نے کتاب پیرائش کی تفسیر کے دیباچہ میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ آیت الحاقی ہے، پھر کہتا ہے کہ:-

”غالب یہ ہے کہ خدا کی اطاعت کا صحیفہ حاشیہ میں تھا، پھر تن میں داخل ہو گیا“
دیکھئے، کیسا اعتراف ہے کہ ہماری کتابیں اس قسم کی تحریفات کی صلاحیت رکھتی تھیں، کیونکہ اس کے اتار کے مطابق حاشیہ کی عبارت متن میں داخل ہو کر تمام سخون میں شائع ہو گئی۔

کتاب پیرائش کے باب ۱۳ آیت ۱۸ اور باب ۲۵ آیت ۲	جبرون اور دان
اور باب ۲ آیت ۱۲ میں لفظ جبرون استعمال ہوا ہے، جو ایک شاہزادہ اسرائیل	بنتی کا نام ہے، گذشتہ دور میں اس بنتی کا نام قریۃ الرابع تھا، اور بنی اسرائیل نے یوشع علیہ السلام کے زمانہ میں فلسطین کو فتح کرنے کے بعد اس نام کے بجائے جبرون رکھ دیا تھا، جس کی تصریح کتاب یوشع باب ۱۲ میں موجود ہے، اس لئے یہ آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا حکام نہیں ہو سکتیں، بلکہ ایک ایسے شخص کا حکام ہیں جو اس فتح اور نام کی تبدیلی کے بعد گذر رہے،

اسی طرح کتاب پیرائش باب ۱۲ آیت ۱۲ میں لفظ دان استعمال کیا گیا ہے، یہ وہ بنتی ہے جو قاضیوں کے عہد میں آباد ہوئی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل نے یوشع کی وفات کے بعد قاضیوں کے ذور میں شہر لیس کو فتح کر کے دہان کے باشندوں کو قتل کر دیا اور اس شہر

لہ ”او را گلے وقت میں جردن کا نام قریۃ الرابع تھا“ (یشور ۱۲: ۱۲)، ملک، ”قاضیوں کے عہد سے کیا مراد ہے؟ اس کی تشریح ص ۲۰ کے حاشیہ پر ملے گی ۱۲

کو جلا دریا تھا اور اس کی جگہ ہر ایک نیا شہر آباد کیا تھا، جس کا نام داؤن تھا، جس کی تصریح کتاب القضاۃ باب ۱۸ میں موجود ہے، اس لئے یہ آیت بھی موسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتی ہو ورنہ اپنی تفسیر میں ہم تائی ہے کہ :-

”ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رابع اور لیس کی بستی تھا ہر اور کسی تاقل نے ان دونوں الفاظوں کو جزوں اور داؤن سے تمدین کر دیا ہو“

ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ یہ بڑے بڑے عقل کے پتھے کیسے کیسے کمزور اور بودے اعذار سے بھارا پکڑ رہے ہیں، اور کس صفائی سے سحریف کو تسلیم کر رہے ہیں، اور کس ہبہ ولت سے اُن کو یہ ماننا پڑتا کہ اُن کی کتابوں میں سحریف کی صلاحیت ہے،

کتاب پیدائش باب ۱۳ آیت ۷ میں یوں سہا گیا ہے کہ :-

شاہد نمبر ۱۲ ”اور کنعانی اور غزی اس وقت ملک میں رہتے تھے“

اور کتاب پیدائش باب ۱۲ آیت ۶ میں یہ جملہ یوں ہے کہ :-

”اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے“

یہ دونوں جملے اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں موسیٰ علیہ السلام کا کلام نہیں ہو سکتیں، عیسائی مفسرین بھی اُن کا الحاقی ہونا مانتے ہیں، ہمزی و اسکات کی تفسیر میں ہے کہ :-

”یہ جملہ کہ اس وقت ملک میں کنunanی رہتے تھے، اور اسی طرح کے دوسرے جملے ربط کی وجہ سے شامل کر دیے گئے ہیں جن کو عزرا رعلیہ السلام نے یا کسی دوسرے اہمی شخص نے کسی وقت میں تمام کتب مقدسہ میں شامل کر دیا ہے“

دریکھتے اس میں اقرار کیا جا رہا ہے کہ بہت سے جملوں کا الحاق کیا گیا ہے، اُن کی یہ بات کے

لئے اس شہر کا نام اپنے باپ داؤن کے نام پر جو اسرائیل کی اولاد تھا اُن ہی رکھا، لیکن پہلے اس شہر کا نام لیتھا (قضاۃ ۱۸: ۲۹)

لئے تمام نسخوں میں ایسا ہی ہے، مگر باسیل کے ترجموں میں ”فرزی“ ہے ۱۲

عَزَّرَاهُ يَا كُسْبَرَ الْهَامِيَّ تَخْصُّنَ نَفَرَ كُوْشَالَ كَيَا بَهُّ مَلَنَتَهُ كَيَ لَاتَقَنَهُنَّ هُنَّ هُنَّ اسَّلَتَهُ
كَهُ اسَّدَحُو بَهُ کَهُ اُنَّ کَهُ پَاسَهُنَّ کَهُ سَوَا کَوَنَهُ دَلِيلَهُنَّ هُنَّ هُنَّ

آدَمَ كَلَارَكَ سَفَرَ اسْتَشَارَ بَابَ کَ تَفْسِيرَ حَبْلَهُ
صفَرَهُ ۹۰۳ھ میں کہتا ہے کہ :-

اُس بَابَ کَ پَسْلَیَ پَانِچَ آیَاتَ باقِيَ کِتَابَ کَ

لَئَے مَفْتَدِمَهُ کَ حِشْبَتَ رَحْقَتِیَّ ہُنَّ، جَوْ مَوْسَیٰ عَلَیْهِ السَّلَامُ کَ اَكْلَامَهُنَّ هُنَّ یَسْلُهُ، غَالِبٌ
ہُنَّ ہُنَّ کَہُ کَ یَوْشَعَ یَا عَزَّرَاهُ نَفَرَ کَوَشَالَ کَيَا بَهُّ

اس میں پانچ آیات کے الحاقی ہونے کا اعتراض موجود ہے، اور محض اپنے گمان کی بناء پر
بغیر کسی دلیل کے یو شعع یا عزَّرَاهُ کی جانب نسبت کی جا رہی ہے، حالانکہ محض قیاس
کافی نہیں ہو سکتا۔

اَسْتَشَارَ کَ بَابَ ۳۷ الحَاقِیَّ ہے

شَاهِدْ نُمْبَرْ ۱۷

”پھر مَوْسَیٰ عَلَیْهِ السَّلَامُ“ کا اکلام گز شترہ بَابَ پَرْ خَسْمَ جُو گیا ہے، اور یہ بَابَ ان کا اکلام نہیں ہے
اور یہ بات ممکن نہیں ہے کہ مَوْسَیٰ عَلَیْهِ السَّلَامُ نے اس بَابَ کو بھی الہام سے لکھا ہو، کیونکہ یہ احتمال
سچائی اور صحت سے بعید ہے، اور تمام مقصود کو فوت کرنے والا ہے، اس لئے کہ روح القدس
نے جب آنکل کتاب کا الہام کسی شخص کو کیا تو اسی شخص کو اس بَابَ کا الہام سمجھی کیا ہو گیا۔

لہ ان کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ ”بَرِدَہی بَاتِیں یہ جَوْ مَوْسَیٰ عَلَیْهِ السَّلَامُ کے اس پار بیان میں لعینی
اُس میدان میں جو سوق کے مقابن اور فاران اور طوفل اور لاجن اور حصیرات اور طوفل اور نیز ہب کے
درمیان ہر سب امر اسیلیوں سے کہیں“ (را: ۱) ظاہر ہے کہ کسی اور کا اکلام ہے ۱۷

لہ اس بَابَ میں حضرت مَوْسَیٰ عَلَیْهِ السَّلَامُ کی وفات کا حال اور ان کی قبر کا محل وقوع اور حضرت یوشع عَلَیْهِ السَّلَامُ کا انکل
نیابت کرنا بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ایک آیت یہ بھی ہے: ”ادراس وقت سے اب تک بنی اسرائیل
میں کوئی بھی مَوْسَیٰ عَلَیْهِ السَّلَامُ کے مانند جس سے خدا نے رو برو بامیں کیں نہیں اٹھا“ (۱۰: ۳۲)

مجھ کو اس کا یقین ہے کہ یہ باب کتاب یو شع کا باب اول تھا، اور وہ حاشیہ جو کسی ہوشیار یہودی عالم نے اس مقام پر لکھا تھا در پسندیدہ تھا، کہتا ہے کہ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ کتاب ہستتنا، اس الہامی دعا پر ختم ہو جاتی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام نے بارہ خاندانوں کے لئے کی تھی، یعنی اس فقرہ پر کہ: "مبارک ہے تو اے اسرائیل! تو خداوند کی بچائی ہوئی قوم ہے، سو کون تیری مانند ہے، اور اس باب کو نشر مشائخ نے تموئی" کی وفات کے عرصہ کے بعد لکھا تھا: اور یہ باب کتاب یو شع کا سب سے پہلا باب تھا، مگر وہ اُس مقام سے اس جگہ منتقل کر دیا گیا۔

غرض یہود بھی اور عیسائی بھی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ باب موسیٰ علیہ السلام کا کلام نہیں ہے، بلکہ الحاقی ہے، اور یہ بات جو کہی گئی ہے کہ "مجھ کو اس کا یقین ہے کہ یہ باب یو شع کی کتاب کا پہلا باب تھا، یا یہودیوں کا یہ کہنا کہ" اس کو نشر مشائخ نے لکھا ہے، "حضرت بے دلیل ہے، اور بے سند ہے، اس لئے ہنزہی و اسکاث کی تفسیر کے جامعین نے کہا ہے کہ:-

"پھر موسیٰ علیہ السلام گز شستہ باب پر ختم ہو گیا، یہ باب الحاقی ہے، اور شامل کرنے والا یا یو شع ہے یا تمہاری یا عذردار یا اور کوئی بعد کا پیغمبر ہے، جو یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، غالباً آخری آیتیں اس زمانے کے بعد شامل کی گئی ہیں، جبکہ بنی اسرائیل کو بابل کی قید سے آزادی حصل ہوئی۔"

اسی طرح کی بات ڈھنی آئی اور رَحْرَدِ مِينٹ کی تفسیروں میں بھی ہے، اب آپ ان کے اس ارشاد کو ملاحظہ کیجئے کہ "الحاق کرنے والا یا یو شع ہے المخ" کس طرح شک کا اٹھا رکیا جا رہا ہے، اور یقین کا انکار اور ان کے قول میں اور یہودیوں کے کلام میں کس قدر بین تفاصیت ہے، اور یہ کہنا کہ "یا کسی بعد کے پیغمبر نے شامل کیا ہو گا" یہ بھی بلا دلیل ہے، یہ بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہئے کہ ہم نے جن آیات کی نسبت یہ کہا ہے کہ یہ تحریف بالزور اور کے شواہد ہیں، اس کی بنیاد اس پر ہے کہ اہل کتاب کے اس دعوے کے موافقت میا گیا تھا کہ یہ پانچوں مردوجہ کتاب میں موسیٰ کی تصنیف ہیں، ورنہ پھر تو یہ آیات اس

امر کی دلیل ہوں گی کہ یہ کتاب موسیٰ کی تصنیف نہیں ہے، اور ان کی نسبت موسیٰ کی جانب غلط ہے، چنانچہ علماءِ اسلام کا نظر یہ بھی سی ہے۔

شانہ دنہر ۹ میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے بھی ان میں سے بعض آیات کی بنار پر ہماری ہمنوائی کی ہے، علماء پر وظیفت کا یہ دعویٰ کہ ان آئیتوں اور جملوں اور الفاظ کو کسی بغیر نے شامل کیا ہے، اس وقت تک شنوائی کے لائق نہیں ہو جب تک وہ اس پر کوئی دلیل اور کوئی ایسی سند نہ پیش کریں جو اس شامل کرنے والے معین نبی تک براہ راست پہنچتی ہو، ظاہر ہے کہ یہ چیز ان کو قیامت تک میسر نہیں آ سکتی،

شانہ دنہر ۱۵ آدم کلارک اپنی تفسیر حبلہ صفحہ ۹، صفحہ ۸، کتاب استثناء کے باب کی شرح کرتے ہوئے کتنی کاٹ کی ایک طویل تقریر فراہم کرتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:-

”سامری کے متن کی عبارت صحیح ہے، اور عبرانی کی عبارت غلط، اور چار آیات، یعنی آیت ۶ تا ۹ اس مقام پر قطعی بے جوڑ ہیں، اگر ان کو علیحدہ کر دیا جائے تو تمام عبارت میں بے نظیر بسط پیدا ہو سکتا ہے، یہ چاروں آیتیں کتاب کی غلطی سے اس موقع پر کھی کتی ہیں، جو کتاب استثناء کے دوسرے باب کی ہیں۔“

اس تقریر کو نقل کرنے کے بعد اس پر اپنی خوشنودی اور تائید کی ہر لگا کر لکھتا ہے کہ:-
”اس تقریر کے انکاکری نے میں عجلت مناسب نہیں ہے یا“

کیا حضرت؟ اور خدا کی جماعت میں داخل ہیں؟ شانہ دنہر ۱۶

کتاب استثناء باب ۲۳ آیت ۲ میں کہا گیا ہے کہ:-

”کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، دسویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خدا کی جماعت میں نہ آئے پائے“

لہ اس نے کہ ان سے قبل اور بعد میں حضرت موسیٰ کے پیارا پر جانے کے واقعات بتائے جا رہی ہیں، بچ میں اسرائیلوں کے ایک سفر اور حضرت ہارون علیہ السلام کی رحلت کا بالکل بے جزو تذکرہ ہے ۱۲

ظاہر ہے کہ یہ حکم خدا کا نہیں ہو سکتا، اور مومنی نے لکھا ہے۔ ورنہ لازم آتے ہے گا کہ داؤ د علیہ السلام اور فارض تک اُن کے تمام آبار راجداد خدا کی جماعت میں داخل نہ ہوں کیونکہ داؤ د علیہ السلام فارض کی دسویں پشت میں ہیں، جیسا کہ انخلی متن کے باب اول سے سعدیم ہے اور فارض دلائل ہے جبکہ تصریح کتاب پیدائش باب ۳۸ میں موجود ہے، اور پارسی مفسر نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ الفاظ کہ ”دسویں پشت“ تک اس کی نسل میں سے کوئی الخاتمی ہیں شاہد نمبر کا ہنزی و اسکاٹ کی تفسیر کے جامعین کتاب یشور کے باب آیت ۹ کے دلیل میں کہتے ہیں کہ :

”یہ جملہ اس مقام پر اور اسی طرح کے دوسرے جملے آج تک بعد عین کی اکڑ کتابوں میں موجود ہیں، اور غالب یہ ہے کہ یہ الحاقی ہیں“

غرض اس جملہ اور اس قسم کے دوسرے جملوں کی نسبت جو عہد عظیم میں موجود ہیں یہ لوگ الحاقی ہونے کا فیصلہ کر رکھے ہیں، اس طرح بہت سے مقامات پر الحاق کا اعتراف پایا جاتا ہے، اس لئے کہ اس قسم کے جملے کتاب یشور باب آیت ۹ میں اور باب ۸ آیت ۲۸ و ۲۹ میں اور باب آیت ۷۲ میں اور باب ۱۳ آیت ۱۱ میں اور باب آیت ۱۰ میں اور باب ۱۶ آیت ۶ میں موجود ہیں، لہذا اسی کتاب کے دوسرے آٹھ مقامات

لہ اس کی تفسیل صفحہ ۳۳۵ و ۳۳۶ پر ملاحظہ فرمائیے ۱۲

لہ اور یشور نے یہ دن کے بیچ میں اس جگہ جہاں عبد کے صندوق کے اٹھانے والے کا ہنوں نے پاؤں جما سے سخھے بارہ پتھر نصب کئے، چنانچہ رہ آج کے دن تک یہیں موجود ہیں۔
لہ ان تمام جملوں میں ”آج“ کے دن تک اسکا لفظ پایا جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اُسے حضرت یوشع نے نہیں لکھا، ۱۲

لہ بلکہ حجی میمنکی نے کہا ہے کہ اس کتاب میں چورڈہ مرتبہ یہ الفاظ آتے ہیں، شاید انہی وجہ کی بناء پر کیل (لاندھا) کتاب ہے لہ یہ کتاب حضرت یوشعؑ کی وفات کے بعد کسی نامعلوم بزرگ نے تالیف کی ہے، میمنکی نے بھی اسی کو پسند کیا ہے، ”دیکھئے ہماری کتب مقدسہ از میمنک، ص ۱“

میں مذکورہ ترجموں کے الحاقی ہونے کا اعتراف ثابت ہوا، اور اگر عہد عین کی تمام کتابوں کے جملوں کو ذکر کریں تو بات طویل ہو جائے گی۔

شانہ دہ نمبر ۱۸ اکتاب یقشوع باب آیت ۱۲ میں یوں کہا گیا ہے کہ:

”او ر سرچ حمیر گیا، اور چاند تھمار را جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے

اپنا انتقام نہ لے لیا، کیا یہ سفر الیسر میں لکھا نہیں ہے؟“

اور بعض ترجموں میں سفر یا صار اور بعض میں سفر یا آشر لکھا ہے، بہر صورت یہ آیت یو شع کا کلام نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بات مذکورہ کتاب سے نقل کی گئی ہے، اور آج تک یہ نہیں چل سکا کہ اس کا مصنف کب گزرا، اور اس نے یہ کتاب کب تصنیف کی، البتہ سہو تسلیم یا باب آیت ۱۸ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص داؤ د علیہ السلام کا ہم صر تھا، یا اُن کے بعد ہوا ہے،

اور ہنری و اسکات کی تفسیر کے جامعین نے باب ۱۵ آیت ۶۳ کے ذیل میں یہ اعتراف کیا ہے کہ اس فقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب یو شع داؤ د علیہ السلام کی تخت نشینی کے ساتوں سال سے پہلے لکھی گئی ہے، حالانکہ داؤ د علیہ السلام یو شع، کس وفات کے ۱۵۳ سال بعد پیدا ہوتے، میں جس کی تصریح علار پر ڈستٹ کی لکھی ہوئی تاریخی کتابوں میں موجود ہے، اور باب مذکورہ کی آیت ۱۵ ایساں محققین کے اقرار کے مطابق عربانی متن میں سخر لفظ کے طور پر بڑھائی گئی ہے جو یونانی ترجموں میں موجود نہیں ہے مفسر ہارسل اپنی تفسیر کی جلد اول صفحہ ۲۶ میں ہم تا ہے کہ:

”یونانی ترجمہ کے مطابق اس آیت کو ساقط ہونا چاہئے“

شانہ دہ نمبر ۱۹ مفسر ہارسل کا بیان ہے کہ باب ۱۲ کی آیت کو دو نوں غلط ہے،

لہ ار د و ترجمہ میں آشر کی کتاب لکھا ہے ۲:

۲ کیونکہ اس میں آشر کی کتاب یہ ایک مرثیہ نقل کیا گیا ہے، جسے حضرت آنحضرت نے ہبہ سے کا حکم دیا تھا ۱۲۵ پھر یقشوع اور اس کے ساتھ سب سے ایسی جل جلال کو خیمه گاہ میں نوٹے ۲

لہ اُن کے غلط ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں ہو سکی ۲

شاہد نمبر ۳۰ کتاب یوشع باب ۱۳ آیت ۲۵ میں بنی جاد کی میراث کے بیان میں یہ عبارت استعمال کی گئی ہے کہ :

”اوْرَبْنِي عَمُونَ كَأَرْهَامَكَ عَرَوْعَنَ كَجُورَتَهَ كَسَامِنَهَ هَيْهَ“

یہ غلط اور محرف ہے، کیونکہ موتی علیہ السلام نے بنی جاد، بنی عمون کی زمین کا کوئی حصہ و بھی نہیں دیا، کیونکہ خدا نے ان کو ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا، جس کی تصریح کتاب الاستثناء کے باب میں موجود ہے، اور چونکہ یہ غلط اور محرف تھی، اس لئے مفسر ہارسل نے مجبور موجہ کیا کہ اس جگہ عبرانی میں تحریف کی گئی ہے،

شاہد نمبر ۳۱ کتاب یوشع باب ۱۹ آیت ۳۲ میں یہ جملہ پایا جاتا ہے کہ :-

”اوْرَشْرَقَ مِنْ يَهُودَاهَ كَهَصَّتَهَ كَيَرْدَنَ تَكَبْرُونَجِيَّ“

یہ بھی غلط ہے، کیونکہ بنی یہوداہ کی زمین جنوب کی جانب کافی دور فاصلہ پر تھی، اسی لئے آدم کھلارک کہتا ہے کہ ”غالب یہ سو کمتن کے الفاظ میں کچھ نہ کچھ ضرور تحریف کی گئی ہے“، **شاہد نمبر ۳۲** ہنزی داسکاط کی تفسیر کے جامعین نے کتاب یوشع کے آخری باب کی شرح میں یوں کہا ہے کہ :-

”آخر کی پانچ آیتیں یقیناً یوشع کا کلام نہیں ہیں، بلکہ ان کو فتحیس یا اسموئل نے شامل کیا ہے، اور متقدمین میں اس قسم کے الحاق کا رداج بکثرت موجود تھا“

معلوم ہوا کہ یہ پانچ آیتیں عیسائیوں کے نزدیک یقیناً الحاقی ہیں، ان کا یہ کہنا کہ الحاق کرنے والے فتحیس یا اسموئل ہیں ہم کو تسلیم نہیں ہے، کیونکہ اس کی نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی سند، اور ان کا یہ کہنا کہ اس قسم کے الحاق کا رداج متقدمین میں بڑی کثرت سے تھا“ ہماری عرض یہ ہے کہ اسی رداج نے تو تحریف کا دروازہ کھولا ہے، کیونکہ جب یہ بات کوئی عجیب ہی شمار نہیں ہوتی تھی تو ہر شخص کو بڑھانے اور زیادہ کرنے کی جرأت پیدا لئے ”میں بنی عمون کی زمین کا کوئی حصہ سمجھے میراث کے طور پر نہیں دوں گا“، (استثناء ۲۹: ۲)

لئے اس میں بنو نفتالی کی سرحد بیان کی جا رہی ہے ۱۲

لئے کیونکہ انہیں حضرت یوشع علیہ السلام کی رحلت اور اس کے بعد کے واقعات مذکور ہیں ۱۲ تقری

ہو گئی، جس کے نتیجہ میں بے شمار تحریفات واقع ہوتیں، اور ان میں سے بیشتر تمام محترف ناخوں میں پھیل گئیں،

شاہد نمبر ۲۳ مفسر ہارسلی اپنی تفسیر کی بدلادل ص ۲۸۳ میں کہتا ہے کہ :-
”کتاب القضاۃ باب کی آیات اور رسول میں آیت کے اتنے الحاقی ہیں“

شاہد نمبر ۲۴ کتاب القضاۃ باب آیت میں بنی یهوداہ کے ایک شخص کے حال
کے بیان میں یہ جملہ لکھا ہے کہ ”جولادی تھا“ اور چونکہ یہ غلط ہے، اس لئے
مفسر ہارسلی کہتا ہے کہ -

”یہ غلط ہے، کیونکہ بنی یهوداہ کا کوئی شخص لادی ہمیں ہو سکتا یہ“

اور ہمیوں کیفیت نے اس کے الحاقی ہونے کے جانے کے بعد اس کو متن سے خارج کر دیا،
بیت شمس کے ہلاک شرگان مفسر تمیل اول باب آیت ۱۹ میں یوں کہا گیا ہے کہ -
”اور اس نے بیت شمس کے لوگوں کو مارا
اس لئے کہ انہوں نے خداوند کے صندوق“

شاہد نمبر ۲۵

کے اندر رجحان کا تھا، سواس نے ان کے پچاس ہزار اور ستر آدمی مار ڈالے“
یہ بھی غلط ہے، آدم کلارک تفسیر کی جلد ۲ میں قدر ح اور حرح کے بعد کہتا ہے کہ :-
”غالب یہ ہے کہ عبرانی متن میں تحریف کی گئی ہے، یا تو بعض الفاظ حذف کر دیے گئے ہیں
یا دوسرے خوازنا دوسرے پچاس ہزار کے الفاظ بڑھادیئے گئے ہیں، کیونکہ اس قدر چھوٹی
بستی کے باشندوں کی تعداد کا اس قدر ہزا عقل میں نہیں آتا، پھر یہ کثیر تعداد کساتوں
کی ہو گی جو کھیتوں کی کٹائی میں مشغول ہوں گے، اور اس سے زیادہ بعید یہ ہے کہ پچاس
ہزار انسان ایک صندوق کو ایک دفعہ میں دیکھ سکیں، جو تو شمع کے کھیت میں ایک
بڑے پتھر پر تھا“

لہ نائب اس لئے کہ ان آیات میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ یقیناً ۱۵: ۳۱ تا ۱۹ کے خلاف ہے، کچھ تو
واقعہ کی تفصیلات میں اختلاف ہے اور سبکے بڑی بات یہ ہے کہ واقعہ حضرت یوشح کی حیات کا ہے،
حالانکہ کتاب القضاۃ میں اُسے وفات کے بعد واقعات میں ذکر کیا ہے ۱۲ تھی،

پھر کہتا ہے کہ:

”پاٹی نی ترجمہ میں سات سور و سا اور پچاس ہزار ستر آدمی کے الفاظ نہیں، اور سریانی میں پانچ ہزار ستر، اسی طرح عربی ترجمہ میں بھی پانچ ہزار ستر آدمی ہے، مورخین نے صرف ستر آدمی لکھے ہیں، سیماں جارجی، بُنی اور دوسرے رہیوں نے دوسری مقدار لکھی ہے، یہ اختلافات اور مذکورہ تعداد کا ناممکن ہونا ہم کو یہ قین دلار ہا ہے کہ یہاں پر یقینی طور پر تحریف ہوتی ہے، یا کچھ بڑھایا گیا ہے، یا کھٹایا گیا ہے“
ہنزی و اسکاٹ کی تفسیر میں ہے کہ:-

”گرنے والوں کی تعداد اصل عربانی نہیں البتا لکھی ہے، اس سے بھی قطع نظر کرتے ہوئے یہ بات بعید ہے کہ اس قدر بے شمار انسان گناہ کے ملکب ہوں، اور چھوٹی سی یتی میں مائے جائیں، اس واقعہ کی سچائی میں شک ہے، اور وہ تفسیر نے مفتولین کی تعداد صرف ستر لکھی ہے“

دیکھئے یہ مفسرین حضرات اس واقعہ کو کس قدر مستبعد خیال کر رہے ہیں، اور تردید کرتے ہیں اور تحریف کے معرفت ہیں،

شانہ دنیہ ۲۹ [آدم کلارک بفرسموئیں ازل کے باب، آیت ۱۸ کی تصریح میں یوں لکھتا ہے] اس باب میں اس آیت سے آیت ۳۱ تک اور آیت ۳۱ اور آیت ۴۵ سے آخر باب تک اور باب ۸ کی پہلی پانچ آیتیں اور آیت ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ اور آیت ۲۴ سے آخر باب تک اور باب ۸ کی پہلی پانچ آیتیں اور آیت ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ اور آیت ۲۴ لہذا نی ترجمہ میں موجود نہیں ہیں، اور ہسکنڈ ریاؤس کے نہیں موجود ہیں، اس باب کے آخر میں دیکھئے کہ کتنی کاٹ نے پوئے طور پر ثابت کر دیا کہ آیات مذکورہ اصل کا جائز نہیں ہیں۔“

پھر اس باب کے آخر میں کتنی کاٹ کی ایک طویل تغیری نقل کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت محنت اور الحاقی ہے، ہم اس سے کچھ جملے نقل کرتے ہیں؛

لہ ان تمام آیتوں میں حضرت زادہ علیہ السلام کے جاودت کو قتل کرنے کے سلسلہ میں مختلف تفصیلی واقعات کا مذکورہ ہے ۱۲ تھی

اگر تم پوچھو کہ یہ الحاق کب ہوا؟ تو میں کہوں گا کہ یوسیفس کے زمانہ میں یہودیوں نے چاپ کر کتب مقدسہ کو دعاوں اور گافوں اور جدید احوال گھٹ کر خوش نماینا دیں، ذرا ان بے شمار الحفاظات کو دیکھو جو کتاب استیہ مس موجود ہے، اور شراب و عورت اور سجن کی باتوں کو دیکھئے، جو عذر، اور سخیا کی کتاب میں بڑھائی ہے، اور آجھل عذرائی کی پہنچتی کتاب کے نام سے مشہور ہے، اور تمین بچوں کے گیت کو دیکھئے، جو کتاب دنیا میں بڑھایا گی ہے، اور یوسیفس کی کتاب میں جو بے شمار الحاق ہوئی ہے اُن کو ملاحظہ کیجئے، حمسن ہے کہ یہ آیتیں بھی حاشیہ پر لکھی ہوں، پھر کتابوں کی لاپرواہی سے متن میں داخل کر دی گئی ہوں۔

مفسر ہارسلے اپنی تفسیر حلبہ اول صفحہ ۳۳ میں لکھتا ہے کہ:-

”کتنی کاٹ سفر سوتیل کے باب، اکی نسبت جانتا ہے کہ مبنی آیات بارہوں سے اسکے الحاق ہیں، اور قابل اخراج ہیں، اور امید کرتا ہے کہ ہماسے ترجمہ کی جب دوبارہ تصحیح کی جاتے گی، تو ان آیات کو داخل نہیں کیا جائے گا۔“

ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یوسیفس کے دور میں یہودیوں کی یہی عادت تھی، جس کا اقرار کتنی کاٹ نے کیا ہے کہ انہوں نے اتنی تحریف کی، کہ جس کی اس موقع پر تصریح کی گئی ہے، اور دوسرے مختلف مقامات پر بھی اس کا ذکر آیا ہے، اس کے بعض احوال گذشتہ شواہد میں منقول ہو چکے ہیں، اور کچھ آئندہ شواہد میں نقل کئے جائیں گے، الی صورت میں ان کتابوں کی نسبت اُن کی دیانت پر کس طرح بھروسہ کیا جا سکتا ہے،

اس لئے کہ جب اُن کے نزدیک کتب مقدسہ میں اس قسم کی تحریف سے ان کی زینت اور خوش نمائی میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر یہ حرکت اُن کے خیال میں مذموم کیونکر ہو سکتی ہے، اس لئے وہ دل کھوں کر جو چاہتے تھے کرتے تھے،

دوسری جانب کتابوں کی لاپرواہی کی وجہ سے اُن کی تحریفات تمام نہیں مکمل ہیں، پھر اس کے نتیجہ میں جو بگاڑ اور فساد پیدا ہوا وہ دنیا پر روشن ہے، اس سے معلوم ہوا کہ علماء پر دلستہ اپنی تقریر دل اور تحریر دوں میں مغالطہ دینے کے لئے یہ باتیں بنائے

یہ کہ سحر لیف کا صدر ہیودیوں سے نہیں ہوا، کیونکہ وہ لوگ دیانتدار تھے اور عبادتی کی کتابوں کی نسبت ان کا اقرار تھا کہ وہ اللہ کا حکام ہے، یہ قطعی فریب ہے،
ابن حیل متن باب ۲۳ آیت ۳ میں یوں کہا گیا ہے کہ:-
ہر دیاس کا شوہر
کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہرویہ کے سبب یوحننا کو پکڑ کر باندھا اور قید خانہ میں ڈال دیا۔

اور ابن حیل مرنق بابت آیت ۱۹ میں ہے کہ:-

”کیونکہ ہیرودیس نے اپنے آدمی کو صحیح کر یوحننا کو پکڑ دادیا، اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اُسے قید خانہ میں باندھ رکھا تھا۔ کیونکہ ہیرودیس نے اس سے بیاہ کر لیا تھا“

اور ابن حیل توقا بابت آیت ۱۹ میں اس طرح ہے کہ:-

”یکن جو تھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب اور ان سب بڑائیوں کے باعث جو ہیرودیس نے کی نہیں، یوحننا سے ملامت اٹھا کر ان سبے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ اس کو قید میں ڈالا۔“

ان آیتوں میں لفظ فلپس غلط ہے، تایخ کی کسی کتاب سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہیرودیس کے شوہر کا نام فلپس تھا، بلکہ یوسفیس نے کتاب ۸ باب ۵ میں تصریح کی ہے کہ اس کا نام بھی ہیرود تھا، اور چونکہ یہ نام یقینی طور پر غلط تھا، اس لئے ہورن اپنی تفسیر کی جلد اول صفحہ ۶۳۲ میں یوں کہتا ہے کہ

”غالب یہ ہے کہ لفظ فلپس متن میں کاتب کی غلطی سے لکھا گیا ہے، اس لئے وہ قابل حذف تھا، اور کریستیا خ نے اس کو حذف کر دیا۔“

اور ہمارے نزدیک یہ لفظ صاحبان ابن حیل کے اغلاط میں سے ہے، ان کا اس کا کی غلطی کہنا مٹھیک نہیں، اس لئے کہ اس دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں، اور یہ امر عقلاء بہت بعید ہے، کہ تینوں ابن حیلوں میں ایک ہی مضمون میں کاتب سے غلطی واقع ہو سکے، اور ان کی جرأت اور بیباک قابل دید ہے، کہ محض اپنے قیاس کی بنیاد پر اپنے الفاظ

حذف یاد اغفل کر دیتے ہیں، ان کی یہ تحریف ہر زمانہ میں جاری اور قائم رہی، اور جو نکہ شواہد کا بیان الزامی حیثیت سے ہے، اس لئے میں نے اس شاہد کو بھی تحریف بالزیادۃ کی مثالوں میں ان کی بات تسلیم کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، اور یہ تہنا ایک ہی شاہد تینوں انجیلوں کے اعتبار سے تینوں شواہد کے درجہ میں ہے،

شاہد نمبر ۲۸ [انجیل توقاباپ] آیت ۳۱ میں یوں ہے کہ:-

”پھر خدا نے کہا کہ اس زمانہ کے آدمیوں کو میں کس سے تشیید دوں

اور وہ کس کے ماتندیں؟

اس میں یہ جملہ کہ ”پھر خدا نے کہا“ تحریف کر کے بڑھایا گیا ہے، مفسر آدم کلارک اس آیت کے ذریں میں کہتا ہے کہ:-

”یہ الفاظ بھی بھی لوقا کے متن کے اجزاء نہیں تھے، اس دعویٰ کی مکمل شہادت موجود ہے، اور ہر محقق نے ان الفاظ کا انکار کیا ہے، اور سچل اور کریسیاخ نے ان کو متن سے نکال دیا۔“

ملاحظہ کیجیے کہ اس مفسر نے کس خوبی سے مدعاه ثابت کیا ہے، پھر پر دشمنِ عیسائیوں پر انتہائی تعجب ہوتا ہے کہ وہ اب بھی اپنے ترجموں میں ان الفاظ کو ترک نہیں کرتے، کیا جن الفاظ کا زائدہ ہونا مکمل شہادت سے ثابت ہو چکا ہو، اور جن کو ہر محقق زد کر چکا ہواں کو اس کتاب میں جس کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں داخل کر دینا تحریف نہیں ہے؟

کتاب پیر میاہ کا غلط حوالہ [انجیل متی باب] آیت ۲۷ میں یوں لکھا ہے کہ:-

”اوہ اس وقت وہ پورا ہوا، جو پیر میاہ بنی کی معرفت کہا گیا تھا، کہ جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی انہوں

نے اس کی قیمت کے وہ تمیز روپے لے لئے یا

لے چنا پچھہ ہمارے پاس اردو اور جریدا انگریزی ترجموں میں یہ الفاظ حذف کر دیتے گئے ہیں، مذکورہ عبارت میں ”پھر خدا نے کہا“ کے الفاظ عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۶۵ء اور قدیم انگریزی ترجمہ میں موجود ہیں ۱۲ تفعی

اس میں لفظ یرمیاہ اور مشی کی مشہور اغلاط میں سے ایک غلطی ہے، کیونکہ اس کا کوئی پتہ نشان نہ تو کتاب یرمیاہ میں پایا جاتا ہے، اور نہ یہ مضمون عبد عین کی کسی دوسری کتاب میں لفاظ کے ساتھ موجود ہے،

البته کتاب زکریا باب ۱۳ آیت ۱۳ میں ایک عبارت مشی کی نقل کردہ عبارت سے ملتی ہے موجود ہے، مگر دونوں عبارتوں میں بہت بڑا فرق ہے، جو یہ فیصلہ کرنے میں مانع ہے کہ مشی نے اس کتاب سے نقل کیا ہو، نیز اس فرق سے قطع نظر کرتے ہوئے بھی کتاب زکریا کی عبارت کو اس واقعہ کے ساتھ جس کو مشی نے نقل کیا ہے، کوئی بھی مناسبت موجود نہیں، اس سلسلہ میں سیحی علماء کے اقوال خواہ لکھنے ہوں یا پچھلے بہت ہی مختلف ہیں،
دارود کی تھولک اپنی کتاب الاغلاط مطبوعہ صفحہ ۲۶۱۸۳۴ میں کہتا ہے کہ :-
”مطر جو دل نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ مرقس نے غلطی سے انہی ملک کی حبگہ ابیات رکھ دیا ہے، اسی طرح مشی نے بھی غلطی کرتے ہوئے زکریا کی جگہ ارمیاہ لکھ دیا ہے“

لکھ دیا ہے ॥

ہورن اپنی تفسیر مطبوعہ سلسلۃ الرؤا کی جلد ۲ صفحہ ۳۸۵، ۳۸۶ میں کہتا ہے کہ :-
”اس نقل میں بہت بڑا شکال ہر کیونکہ کتاب ارمیاہ میں اس طرح موجود نہیں،
اور کتاب زکریا کے بابل آیت ۱۳ میں موجود ہے، مگر مشی کے الفاظ اس کے الفاظ
کے مطابق نہیں ہیں، بعض محققین کا خیال ہے کہ مشی کے نسخہ میں غلطی واقع ہوئی
ہے، اور کاتب نے زکریا کی جگہ ارمیاہ لکھ دیا ہے، یا پھر یہ لفظ الحاقی ہے“
اس کے بعد الحاق کی شہادت میں نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ :-

”اوہ میں نے ان سے کہا کہ اگر تھماری نظر میں صحیح ہو تو میری مزدوری کے لئے تین روپے توں کر دیجئے،
اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کھار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جواہروں نے میرے
لئے ٹھہرائی، اور میں نے تین روپے لیکر خداوند کے گھر میں کھار کے سامنے پھینک دیئے“ (ر ۱۲، ۱۳)

اس کی تفصیل ۳۶۱ صفحہ ۵۲۷ پر گذر چکی ہے، اور اجمال صفحہ ۳۶۱ پر بیان ہوا ہے ۱۲

”اور اغلب یہ ہر کوئی مٹی کی عبارت میں نام کے بغیر صرف یوں تھا کہ ”اور وہ پورا ہوا جو پغمبر کی معرفت کہا گیا تھا“ اس خیال کی تقویت اور تائید اس سے ہوتی ہے، کہ مٹی کی عادت ہر کو جب پغمبر وہ کاتزکرہ کرتا ہے تو ان کے نام چھوڑ جاتا ہے“ اور اپنی تفسیر کی جلد اول صفحہ ۶۲۵ میں کہتا ہے کہ :-

صاحب بخیل نے ہم میں سغمیر کا نام نہیں لکھا تھا مگر کسی ناقل نے اس کو درج کر دیا ہے یہ

ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ یہ لفظ الحاقی ہے، ڈسی آئی اور رحرڑ منٹ کی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ :-

”الفاظ جو یہاں منقول ہیں ارمیاہ کی کتاب میں موجود نہیں ہیں، بلکہ کتاب زیرِ با کے باب ۱۲ آیت میں پائے جاتے ہیں، اس کی ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ گذشتہ زمانہ میں ناقل نے انجیل لکھتے ہوئے غلطی سے زکرِ یاکی جگہ ارمیاہ لکھ دیا ہو گا، بھریہ غلطی متن میں شامل ہو گئی، جیسا کہ پرس لکھتا ہے“

جو آدابن سباط نے اپنی کتاب البر اہمین ات باطیۃ کے مقدمہ میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ میں نے اس سلسلہ میں بہت سے پادریوں سے سوال کیا تو مختلف جوابات ملے، طامن نے کہا کہ کتاب کی غلطی ہے، بیو کانان، مارطیر دس اور کیرا کوس نے کہا کہ مٹی نے اپنی یاد کے بھروسہ پر کتابوں کی جانب مراجعت کئے بغیر لکھ دیا ہے، اس لئے غلطی واقع ہو گئی، ایک پادری نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ زکرِ یاہی کا دروس را نام ارمیاہ بھی ہو، ہم کہتے ہیں کہ راجح بات یہی ہے کہ یہ غلطی مٹی سے صادر ہوئی ہے، جس پر ظاہری دلالت کرتا ہے، اور جس کا اعتراف و ارزاد درج و میں اور بیو کانان اور مارطیر دس اور کیرا کوس بھی کر رہی ہیں، دوسرے احتہالات بہت ہی کمزور ہیں، اور ان کی تردید کے لئے مااضی قریب کے مفسرین میں سے آر اے ناکس نے بھی یہاں صاف لفظوں میں تحریف کا اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”ہمارے پاس مٹی کا جو متن ہو اس میں یہاں تحریف معلوم ہوتی ہے،“ دو آیتیں سیاق و سبق میں ٹھیک نہیں مٹھتیں۔ (تفسیر عہد نامہ جدید یازماکس، ص ۶۸ ج ۱۔ مطبوعہ لندن ۱۹۴۷ء)

ہمارا گذشتہ بیان کافی ہے،

اور نیز ہورن نے بھی اس کا اعتراض کیا ہے کہ متی کے الفاظ زکر یا کے مطابق نہیں ہیں اس نے کسی ایک عبارت کی تحریف کا اعتراض کئے بغیر کتاب زکر یا کے الفاظ بھی صحیح نہیں مانے جاسکتے، ہم نے یہ شہادت اُن لوگوں کے خیال کے مطابق پیش کی ہے جو اس لفظ کو کتاب کی زیادتی کہتے ہیں،

متی کے اغلاط سے فارغ ہونے پر اب ہم مقدس کی غلطیاں جن کا اعتراض جو دیکھ دار ڈنے کیا ہے بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں،

باب ۲ آیت ۲۵ میں اس کی الجیل کی عبارت اس طرح ہے کہ:-

”اس نے ان سے کہا کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤ دنے کیا کیا، جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی، اور وہ بھوکے ہوتے ہوئے؟ وہ کیونکر ابیات سردار کا ہم کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا، اور اس نے نذر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا کا ہمنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں“ اس متن میں لفظ ابیاتر غلط ہے، جس کا اعتراض دونوں کرتے ہیں، اسی طرح یہ دونوں جملے کہ ”اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی“ اور ”اپنے ساتھیوں کو دیں“ یہ بھی غلط ہیں، اس نے کہ داؤ د علیہ السلام اس وقت اکیلے تھے، اُن کے ساتھ کوئی دوسرا قطعی نہیں تھا، کتاب سموقیں کے ناظروں سے یہ بات پوشیدہ نہ ہوگی،

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ الجیل مقدس کے یہ دونوں جملے غلط ہیں، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اُن کی طرح اور دوسرے جملے بھی جو متی اور رلوقا کی الجیل میں پاسے جلتے ہیں وہ بھی غلط ہوں گے، مثلاً الجیل متی باب ۲ آیت میں یوں کہا گیا ہے کہ:-

”اس نے اُن سے کہا کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جب داؤ د اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیونکر خدا کے گھر میں گیا، اور نذر کی روٹیاں کھائیں جن کو

لے اس کی تفصیل صفحہ ۵۲۳ و ۵۲۴ جلد اول اور اس کے حاشیہ پر ملاحظہ فرمائیے ۱۷

کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو، مگر صرف کاہنوں کو، اور ان بخیل لوقا بابت آیت ۳ و ۴ میں اس طرح سے ہے کہ :-

یسوع نے جواب میں اُن سے کہا کیا تم نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیونکہ خدا کے گھر میں گیا، اور نذر کی وظیفہ لے کر کھائیں، جن کو کھانا کا ہنون کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو ڈیں؟

اس سچی قول کی نقل میں تینوں انجیلوں میں شاث غلطیاں واقع ہوئی ہیں، اب اگر ان ساتوں غلطیوں کی نسبت کا تبوں کی جانب کرتے ہیں تو عیسایوں کو ساتوں مقامات پر تحریف ماننا پڑے گی، اگرچہ یہ چیز ظاہر کر کے خلاف ہری مگر ہمارے لئے مضر نہیں ہے،

شانہ نمبر ۳ انجیل متی باب ۲ آیت ۲۵ میں یوں کہا گیا ہے کہ :-
”اد راخنوں نے اسے صلیب پر چڑھایا اور اس کے پڑے قرعہ ڈال کر بانٹ لئے تاکہ وہ پورا ہو جائے جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ اخنوں نے میرے کپڑے آپس میں بانٹ لئے اور میرے باریں میں فترعہ ڈالا۔“

اس میں یہ عبارت کہ ”تاکہ وہ پورا ہو جائے جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا، عیسائی محققین کے نزدیک قطعی محرث اور واجب الحذف ہے، اسی لئے کریسیاخ نے اس کو حذف کر دیا، ہورن نے قطعی دلائل کے ذریعہ اپنی تفسیر کی جلد ا صفحہ ۳۳ و ۳۴ میں ثابت کیا ہے کہ یہ جملہ الحاقی ہے، پھر کہتا ہے کہ :-

”کریسیاخ نے یہ ثابت ہونے پر کہ یہ صاف جھوٹ ہر اس کو حذف کر کے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔“

آدم کلارک اپنی تفسیر جلدہ مذکورہ آیت کے ذیل میں کہتا ہے کہ :-

”اس عبارت کا ترک کرنا واجب ہر، اس لئے کہ یہ متن کا جزو نہیں ہے، صحیح ترجموں

میں چنانچہ موجودہ اردو اور جدید انگریزی ترجمہ میں یہ جملہ حذف کر دیا گیا ہے، ہم نے مذکورہ ترجمہ عربی مطبوعہ شمسہ اور قدیم انگریزی ترجموں کے مطابق کیا ہے ۱۲ ترقی

ادرخنوں میں اس کو حجتوڑ دیا گیا ہے، الام اس ثاء اللہ، اسی طرح بہت سے معتقدین نے بھی اس کو ترک کر دیا ہے، یہ صاف الحق ہے جو انجلیٰ یوحنا باب ۱۹ آیت ۲۳ سے لیا گیا ہے ॥

یوحنا کے خط میں کھلی تحریف شانہ دنیہ بر ۳

ایک ہیں، اور زمین میں گواہی دینے والے بھی تین ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں ॥

ان دونوں آیتوں میں اصل عبارت عیسائی محققین کے خیال میں صرف اس قدر صحی ہے:-
”ادر گواہی دینے والے“ تین ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں ॥

معتقدینِ تسلیٹ نے یہ عبارت اپنی طرف سے بڑھادی ہے کہ،

”آسمان میں گواہی دینے والے تین ہیں، باپ، کلمہ اور روح القدس، اور یہ تینوں

ایک ہیں اور زمین میں الحج“ ॥

جو یقیناً الحقی ہے، اور کریسی باخ نیز شولز اس کے الحقی ہونے پر متفق ہیں۔ ہورن باوجود اپنے تعصب کے کہتا ہے کہ یہ الحقی اور واجب الترک ہیں، ہنزی واسکات کے جامعین نے بھی ہورن اور آدم کلارک کے قول کو ترجیح دی ہے، اور اس کے الحقی ہونے کی طرف مائل ہیں،

آگٹائن نے جو چوتھی صدی عیسوی کا سب سے بڑا عالم شمار کیا جاتا ہے، اور جو آج تک اہلِ تسلیٹ کے نزدیک معتبر و مستند مانا جاتا ہے، اس خط کے اوپر دس سال لکھے ہیں، اور ان میں سے کسی رسالہ میں بھی یہ عبارت نہیں لکھی، حالانکہ وہ تسلیٹ کا

لہ چنانچہ ارد اور جدید انگریزی ترجموں میں اب عبارت اسی قدر ہے، مذکورہ بالا ترجمہ ہم نے عربی اور قدیم انگریزی ترجموں سے لیا ہے ॥ ترقی،

معتقر اور عاشق ہے، اور ہمیشہ ایرین فرقہ کے ساتھ جو تسلیٹ کے منکر تھے مناظرے کیا کرتا تھا، اب اگر یہ عبارت اس کے زمانہ میں موجود ہوتی تو وہ اس سے ہستدلال کرتا اور نقل بھی کرتا، اور ہمارا ذائقہ اندازہ تو یہ ہے کہ چونکہ اس نے اس آیت میں ایک دراز کار تسلیٹ کرتے ہوئے حاشیہ پر لکھا ہے کہ "پانی سے مراد باپ اور خون سے مراد بیٹا اور روح سے مراد روح القدس ہیں" چونکہ یہ توجیہ بہت ہی بعد تھی، اس لئے معتقد ہیں تسلیٹ نے یہ عبارت جو ان کے لئے مفید اعتقد تھی بناؤالی، اور اس کو خط کی عبارت کا جائز و بنادیا،

میزان الحق کے مصنف کے اور میرے درمیان ۱۲۳ میں جو مناظرہ ہوا تھا اس میں انہوں نے اقرار کیا تھا کہ یہ عبارت تحریف شدہ ہے، اور جب ان کے ساتھی نے یہ دیکھا کہ اب یہ دوسری ایسی بھی عبارتیں پیش کرے گا جن میں تحریف کا اقرار کرنا پڑے گا تو دوسری عبارتیں پیش کئے جانے سے پہلے ہی انہوں نے پیشگی اعتراف کر لیا کہ میں اور میرا ساتھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سات یا آٹھ مقامات پر تحریف واقع ہوئی ہے، اس لئے یو تھا کی عبارت میں تحریف کا انکار کرنے والا سواتے ہست دھرم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، ہورن نے اس عبارت کی تحقیق میں بارہ ورق لکھے ہیں، پھر دوبارہ اپنی تقریر کا خلاصہ کیا ہے، اور اس تقریر کے تمام ترجمہ کے نقل کرنے میں ناظرین کے اُستھانے کا خطرہ ہے، ہزری واسکات کی تفسیر کے جامعین نے بھی اس کے خلاصہ کا خلاصہ کیا ہے، ہم اس تفسیر سے وہ خلاصۃ الخلاصۃ نقل کرتے ہیں:-
اس تفسیر کے جامعین کہتے ہیں:-

"ہورن نے دونوں فریق کے دلائل لکھے ہیں، اور پھر کمر لکھے ہیں، دوسری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اس عبارت کا جھوٹا ہونا ثابت کرتے ہیں ان کے چند دلائل ہیں:-
۱۔ یہ عبارت ان یونانی نسخوں میں سے کسی میں بھی موجود نہیں جو سو محویں صدی سے قبل لکھے ہوئے تھے،

۲۔ یہ عبارت اُن نسخوں میں نہیں پائی جائی جو پہلے زمانہ میں بڑی محنت

اور تحقیق کے ساتھ طبع ہوتے ہیں۔

۳۔ یہ عبارت سوائے لاطینی ترجمہ کے اور کسی قدیم ترجمہ میں موجود نہیں ہے،

۴۔ یہ عبارت اکثر قدیم لاطینی نسخوں میں بھی موجود نہیں ہے،

۵۔ اس عبارت سے نہ متقدِ مین میں سے کسی نے کبھی استدلال کیا ہے اور نہ گرجا کے کسی مورخ نے،

۶۔ فرقہ پروٹستنٹ کے مقتداؤں اور ان کے مصلحین ذہبی نے یا تو اس کو کاٹ دیا ہے، یا اس پر شک کی علامت لگادی ہے،

اور جو لوگ اس عبارت کو صحیح تصور کرتے ہیں ان کے بھی متعدد دلائل ہیں:-

۱۔ یہ عبارت قدیم لاطینی ترجمہ میں اور لاطینی ترجمہ کے اکثر نسخوں میں موجود ہے،

۲۔ یہ عبارت کتاب العقائد الیونانية اور یونانی گرجا کی کتاب آداب الصلة میں اور لاطینی گرجا کی کتاب الصلة قدیم میں موجود ہے، اس عبارت سے بعض لاطینی بزرگوں نے استدلال بھی کیا ہے، یہ دونوں دلیلیں محدود دش ہیں،

اس عبارت کی سچائی کی چند امراء و فیض شہادتیں ہیں:-

۱۔ کلام کاربط۔ ۲۔ سخوی قاعدہ، ۳۔ حرف تعریف، ۴۔ اس

عبارت کا یوختاک عبارت سے محاورہ میں مشابہ ہونا،

نسخوں میں اس عبارت کے ترک کئے جاتے کی وجہ پر بھی ہو سکتی ہے کہ اصل کے دو نسخے ہوں، یا پھر یہ واقعہ اس زمانہ میں پیش آیا ہو جب کہ کاتب کی مرکاری یا غفلت کی وجہ سے نسخے قلیل تھے، یا اس کو فرقہ ایرلن فی حفظ کر دیا ہو،.... یا دینداروں نے اس عبارت کو اس لئے اڑا دیا ہو کہ یہ تسلیث کے اسرار میں سے ہے یا کاتب کی غفلت اس کا سبب بن گئی ہو، جس طرح اس کی بے پرواہی دوسرے نقصانات کا سبب ہو جاتی ہے، گریک کے مرشدین نے اس بحث کے کئی جملے چھوڑ دیتے،

ہورن کے مذکورہ دلائل پر نظر ثانی کرنے کے بعد بڑے انصاف اور خلوص کے

ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس جعلی اور فرضی جملہ کو خارج کیا جائے، اس کا داخل کیا جائے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس پر ایسے نئے شہادت نہ دیں جن کی صحت غیر مشکوک ہے، مارش کی موافقت اور تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اندر دنی شہادتیں اگرچہ مضبوط ہیں، مگر ایسی ظاہری شہادتوں پر غالب نہیں آ سکتیں جو اس مطلب پر موجود ہیں۔“

آپ غور کر سکتے ہیں کہ ان کام سلک بھی وہی ہے جو ہورن کا ہے، اس لئے کہ وہ کہتے کہ ہورن نے انصاف اور خلوص کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، اور دوسرے فرقے کے دلائل مردود ہیں، اور فرقے جو عذر پیش کرتا ہے اس سے دو باقی معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ طباعت اور چھپائی کی صنعت کے ایجاد ہونے سے پہلے تحریف کرنے والے کتابوں اور مختلف فرقے کے نئے تحسیں تھیں، اور وہ اپنے مقصود میں کامیاب ہو جاتے تھے، دیکھئے، کتاب کی تحریف یا فرقہ ایرین کی یا عیساییوں کے خیال کے مطابق دینداروں کی تحریف اس موقع پر اس قدر شائع ہے کہ یہ عبارت تمام مذکورہ یونانی نسخوں سے اور لاطینی ترجمہ کے سوا تمام ترجموں سے اور اکثر لاطینی نسخوں سے بھی گردی جاتی ہے جیسا کہ پہلے فرقے کے دلائل سے ظاہر ہو رہا ہے،

دوسرے کہ دیندار عیسائی بھی جب تحریف میں کوئی مصلحت خیال کرتے تھے، تو جان گوچہ کر تحریف کر دیتے تھے جیسا کہ اس عبارت کو یہ سمجھ کر کہ یہ تثییث کے اسرار میں سے ہے، حذف کر دیا، یا جیسے فرقہ گریگ کے مرشدین نے وہ فقرے جو اس بحث میں تھے، حذف کر دیتے، پھر جب تحریف کرنا مرشدین کا محبوب مشغلہ اور دیندار عیسائیوں کی کچڑہ عادت تھی تو پھر باطل فرقوں اور تحریف کرنے والے کتابوں کی شکایت کس منہ سے کی جاسکتی ہے، اس سے پہلے چلتا ہے کہ ان لوگوں نے طباعت کی ایجاد سے پہلے تحریف کا کوئی دلیل باقی نہیں چھوڑا، اور کیوں نہ ہو جکہ طباعت کے بعد بھی ماشرالثیر یا سلسلہ بند نہیں ہوا، اب ہم صرف ایک واقعہ نقل کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں جس کا تعلق اس عبارت سے ہے:-

لو تھر کے ترجمہ میں تحریف

غور فرمائیے کہ فرقہ پر دلستہ کا امام اول اور مذہب عیسیٰ کے مصلحین کا سرگردہ یعنی لو تھر جب اس مذہب

کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے سب سے پہلے کتب مقدسہ کا ترجمہ جو منی زبان میں اس لئے کیا کہ اس کے مانندے والے مستقید ہوں، اس نے اس عبارت کو کسی ترجمہ میں نہیں لیا، یہ ترجمہ اُس کی زندگی میں متعدد مرتبہ طبع ہوا، مگر یہ عبارت ان نسخوں میں موجود نہ تھی، پھر جب بویھا ہو گیا، ایک مرتبہ پھر اس کے چھاپنے کا ارادہ کیا، اور ۱۵۲۷ء میں اس کی طباعت شروع ہوئی، یہ شخص اہل کتاب کی عادت سے بالعموم اور عیسائیوں کی خصلت سے بالخصوص خوب واقف تھا، اس لئے اس نے اس ترجمہ کے مقدمہ میں وصیت کی کہ میرے ترجمہ میں کوئی صاحب تحریف نہ کریں، لیکن چونکہ یہ وصیت اہل کتاب کے مزاج و عارضت کے خلاف تھی اس لئے اس پر عمل نہ کر سکے، چنانچہ یہ جعل عبارت اس کے ترجمہ میں جمع کشا میں کر دی، جبکہ اس کا انتقال ہوئے تمیں سال بھی نہ گذرے تھے۔

اس تحریف کا ارتکاب سب سے پہلے فرینک فورٹ کے باشندوں نے کیا، کیوں کہ انہوں نے ۱۵۲۷ء میں جب اس ترجمہ کو چھپوا یا تو اس عبارت کو شامل کر لیا، اس کے بعد شاید اُن کو خدا کا خوف ہوا یا لوگوں کے طعن و شیع کی فکر ہوئی تو بعد کی طباعتوں میں اس کو حذف کر دیا، اہل تسلیم کو اس عبارت کا حذف کیا جانا بڑا ہی گران گزرا، اس لئے دنیا برگ کے باشندوں نے ۱۵۹۶ء اور ۱۵۹۹ء میں اور ۱۶۰۴ء میں اور ۱۶۰۷ء میں اس عبارت کو پھر اس ترجمہ میں داخل کیا،

محرجب دنیا برگ کے باشندوں کو پھر لوگوں کے طعن کا اندیشه فرینک فرٹ والوں کی طرح پیدا ہوا، تو انہوں نے بھی دوسری طباعت میں اس کو بکال دیا، اس کے بعد مترجم کے معتقد عیسائیوں میں کوئی بھی اس کے خالج کرنے پر راضی نہ ہوا، اس لئے اس ترجمہ میں اس کی شمولیت اپنے امام کی وصیت کے خلاف عام ہو گئی، تو پھر قلیل الوجود نسخوں میں تحریف نہ ہونے کی کیونکر امید کی جا سکتی ہے، جبکہ صنعت طباعت بھی موجود نہ تھی، بالخصوص ایسے لوگوں کی طرف جن کی عادت آپ معلوم کر چکے ہیں۔ ہم کو

ایسے لوگوں سے سحریت کے سوا کسی دوسری بات کی ہرگز توقع نہیں ہو سکتی، مشہور فلسفی اسحاق نیوٹن نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کی صفحہ است تقریباً ۵ صفحات ہے، اس نے اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ عبارت اور اسی طرح تیمتحیس کے نام پہلے خط کی آیت نمبر ۱۶ دو نوں محرفت ہیں، آیت مذکورہ میں یہ ہے کہ:

اُس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھیدڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہو اور روح میں راست باز چھرا، اور قشتوں کو رکھائی دیا، اور غیر قمومیں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لاتے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔

چونکہ یہ آیت بھی اہل تسلیم شد کے لئے بہت مفید تھی، اس لئے اپنے عقیدہ فاسدہ کو ثابت کرنے کے لئے اس میں خوب خوب سحریت کی،

شانہ دہ نمبر ۳۳ | کتاب مکاشفہ یو حنا باب ادل آیت ۱ میں ہے کہ:-
”اور خداوند کے دن میں روح میں آگیا، اور اپنے پچھے نر سنگے کی سی ایک بڑی آواز سنی جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں الٰہ اور بار ہوں، اول ہوں اور آخر ہوں، اور جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ۔“

کریستیا خ اور شوائز دنوں اس پر متفق ہیں کہ یہ دنوں الفاظ ”اول اور آخر“ الحاقی ہیں، اور بعض مترجموں نے ان کو ترک کر دیا ہے، اور عربی ترجمہ مطبوعہ سلسلہ عوامیات میں لفظ ”الْأَوَّلُ“ اور ”الْآخِرُ“ کو بھی ترک کر دیا گیا۔

شانہ دہ نمبر ۳۳ | کتاب اعمال باب ۸ آیت ۳ میں ہے کہ

”لہ خداوند کا دن سے مراد عیسائیوں کے یہاں اتوار کا دن ہے ۱۲“ تھی
لکھ موجودہ اردو اور انگریزی ترجموں میں بھی یہ دنوں جملے حذف کر دیتے گئے ہیں۔ ہم نے اپر کی عبارت انگریزی کے قدیم ترجمہ سے لی ہے ۱۲

”لہ یہاں فیلپس سے مراد فیلپس حواری ہیں جنہوں نے کتاب اعمال کے مطابق غذہ کے راستے میں ایک حدیثی خوجہ کو حضرت مسیح موعود کے پیغام کی تبلیغ کرتے ہوئے یہ بات کہی ۱۲“

لے سکتا ہے، اس نے جواب میں کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ آیت الحاقی ہے جس کو کسی ثابت پرست لے اس جملہ کی خاطر کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، شامل کر دیا ہے، کریمہ باخ اور شولز دلوں اس آیت کے الحاقی ہونے کے معترض ہیں۔

شمارہ نمبر ۳۴ [کتاب اعمال باب ۹ آیت ۵] میں کہا گیا ہے کہ:-

”اُنہ نے پوچھا، اے خدادون تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں، جسے تو ستاتا ہے، یہ تیرے لئے مشکل ہے، کہ تو سو راخوں کو مارے، اور اس نے کاپنے ہوتے ہوئے چران ہو کر کہا کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اور خداوند نے اس سے کہا کہ اُنھوں؛ شہر میں جا، اور جو صحیح کرنا چاہتے وہ صحیح سے کہا جائے گا۔“

کریمہ باخ اور شولز کہتے ہیں کہ یہ عبارت کہ یہ تیرے لئے مشکل ہے، ”الحاقی ہے،“

شمارہ نمبر ۳۵ [کتاب اعمال باب ۶ آیت ۶] میں یوں ہے کہ:-

”وَهَامُونَ رِبَاعَ كَيْمَانَ هَمَانَ ہے، جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے، وہ صحیح کو بتائے گا جو کام صحیح کو کرنا مناسب ہو گا“

کریمہ باخ اور شولز کہتے ہیں کہ یہ عبارت کہ ”وہ صحیح کو بتائے گا جو کام صحیح کو کرنا مناسب ہو گا“ بالکل الحاقی ہے،

لہ چنانچہ اردو ترجمہ میں اس پر شک کی علامت (قوسین) لگاتی ہوئی ہے، قدیم انگریزی ترجمہ میں تبادل الفاظ ALTERNATIVE RENDERINGS موجود ہے، اور جدید انگریزی ترجمہ میں اسے حذف کر دیا گیا ہے ۱۲

لہ یعنی پوکس نے، یہ اس کے مشرف بہ علیسا یتست ہونے کا واقعہ ہے،

لہ اور خداوند نے اس سے کہا کہ ”سمیت“ گویا اصل عبارت یوں تھی: ”جسے تو ستاتا ہے، اُنھوں شہر میں جاؤ گے“، چنانچہ اردو اور جدید انگریزی ترجموں میں ایسا ہی ہے، قدیم انگریزی ترجمہ یہ الحاقی عبارت میں موجود ہے، مگر تبادل الفاظ کی فہرست میں اسے حذف کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے ۱۲

لہ چنانچہ یہ عبارت بھی مذکورہ نہیں ترجموں میں موجود نہیں، ترجمہ انگریزی اور عربی سے کیا گیا ہے ۱۲ تھی

شاہد نمبر ۳ کرتھیوں کے نام پہلے خط کے باب آیت ۲۸ میں یہ کہا گیا ہے کہ :-
”لیکن اگر کوئی تم سے کہے کہ یہ توں کا زیجھ ہے، تو اس کے بعد سے جس نے تھیں جتایا اور دینی مستیاز کے بعد سے نہ کھاؤ، کیونکہ زمین اور اس کے کمالات سب خدا کے ہیں“

یہ جملہ ”کیونکہ زمین الخ الحاقی ہیں“ ہورن اپنی تفسیر کی جلد ۲ صفحہ ۳۳ میں اس کے الحاقی ہونے کو ثابت کرنے کے بعد کہتا ہے کہ :-

”کریستاخ نے اس جملہ کو اس لفظ کے بعد کہ یہ قابلِ اخراج ہوتا ہے نکالا، بھی بات بھی یہی ہے کہ اس جملہ کی کوئی سند نہیں ہے، یہ قطعی زائد ہے، غالب یہ ہے کہ اس کو آیت ۲۶ سے لے کر شامل کر دیا گیا ہے“
آدم مکلا رک اس آیت کے ذیل میں کہتا ہے کہ :-

”کریستاخ نے اس کو متون سے اڑادیا، اور پچ یہ ہے کہ اس جملہ کی کوئی سند نہیں ہے
نیز عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۶۴۱ء دلشیعہ دلشنیعہ ۱۸۲۱ء میں بھی اسے ساقط کر دیا گیا ہے،“

شاہد نمبر ۴ انجیل مثی باب ۱۲ آیت ۸ میں یہ ہے کہ :-
”کیونکہ ابن آدم بہت کامالک بھی ہے“

اس میں لفظ ”بھی“ الحاقی ہے، ہورن نے اس کو الحاقی ہونے دلائل سے ثابت کیا ہے اس کے بعد اپنی تفسیر کی جلد ۲ صفحہ ۳۳ میں کہا ہے کہ

”یہ لفظ انجیل مرقس کے بابت آیت ۲۸ سے یا پھر انجیل توقا کے بابت آیت ۵ سے لیا گیا اور یہاں شامل کر دیا گیا ہے، کریستاخ نے بہت ہی اچھا کیا کہ اس الحاقی لفظ کو متون سے خاج کر دیا“

لہ یہاں بھی بعینہ وہی معاملہ ہو جو گذشتہ تینوں حاشیوں میں بیان کیا گیا ہے ۱۲ ترقی
لہ یہاں بھی وہی صورت ہے ۱۲ گلہ پس ابن آدم بہت کامالک بھی ہے۔“ (۲۸:۲)
لہ لیکن موجودہ اردو ترجمہ میں مرقس سے بھی لفظ ”بھی“ ساقط کر دیا گیا ہے، جبکہ قریم اور جدید
دولوں ترجموں میں یہ لفظ

یا

انجیل مئشی باب آیت آیت ۳۵ میں یوں کہا گیا ہے کہ :-

شاہد نمبر ۳۸

”نیک آدمی اپنے نیک دل کے خزانہ سے نیکیاں نکالتا ہے“

اس میں لفظ ”دل“ الحاقی ہے، جو ورن اس کے الحاقی ہونے کے دلائل سے ثابت کرنے کے بعد صفحہ ۳۲ میں اپنی تفسیر کی جلد ۲ میں کہا ہے کہ یہ لفظ انجیل توقا بابت آیت ۳۵ سے لیا گیا ہے،

انجیل مئشی بابت آیت ۱۳ میں یوں کہا گیا ہے کہ :-

شاہد نمبر ۳۹

”اور ہمیں آزمائش میں نہ للا، بلکہ بڑائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور

قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں“

اس میں یہ جملہ کہ ”کیونکہ بادشاہی اور قدرت الخ“ الحاقی ہے، رومان کیتھولک فرقہ کے لوگ اس کے الحاقی ہونے کا یقین رکھتے ہیں، لاطینی ترجمہ میں بھی یہ موجود نہیں ہے، اور نہ اس فرقہ کے کسی بھی انگریزی ترجمہ میں موجود ہے، یہ فرقہ اس جملہ کے داخل کرنے والے کو سخت بڑا بھلا کہتا ہے، دار طو کیتھولک اپنی کتاب الاغلاط مطبوعہ ۱۸۷۴ء صفحہ ۱۸ میں کہا ہے کہ ”ارامس نے اس جملہ کو بہت ہی قبیح قرار دیا ہے، اور بلکہ کہتا ہے کہ یہ جملہ بعد میں شامل کیا گیا ہے اور آج تک اس کا شامل کرنے والا نامعلوم ہے،

لارن عرش نے اور لامن نے جو یہ کہلہ ہے کہ یہ جملہ خدا تعالیٰ کلام سے حذف کر دیا گیا ہے، اس پر

لہ یہ اہم الحجت میں نقل شدہ عبارت کا ترجمہ ہی، جو مصنف کے پیش نظر کسی ترجمہ سے ماخوذ ہوگی، عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۷۴ء کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے : ”نیک انسان دل کے نیک خزانہ سے نیکیاں نکالتا ہے“، اور اس میں ”دل“ کے لفظ پر مشک کی علامت لگی ہوئی ہے ۱۲

۱۲ چنانچہ ارد و ترجمہ میں اسے سقط کر دیا گیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں : ”چھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالے ہے“، البتہ تمام انگریزی ترجموں میں یہ الفاظ موجود ہیں ۱۲ تھیں تھے جسے قدیم انگریز ترجمہ میں یہ عبارت موجود ہے، مگر جدید ترجمہ میں سقط کر دی گئی ہے، ارد و ترجمہ میں اس پر مشک کی علامت لگی ہوئی ہے ۱۲ تھیں

کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بلکہ اس کا فرض تو یہ تھا کہ وہ ان لوگوں پر لعنت اور ملاتے سکتے، جنہوں نے بڑی بیباک سے خدا کے کلام کو تکمیل بنالیا ہے۔

اور اس کی تردید فرقہ پر و ملکہ نٹ کے بڑے بڑے محققین نے بھی کی ہے، اور آدم اسکارک نے بھی، اگرچہ اس کے نزدیک اس کا الحاقی ہونا راجح نہیں ہے، مگر اتنی بات کا معرفت وہ بھی ہے کہ کریم باخ اور و ملکہ نٹ کے محققین نے اس کا رد کیا ہے جیسا کہ اس آیت کی مشرح کے ذیل میں اس نے تصریح کی ہے،

اور جب اس کے اقرار سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو لوگ بڑے پایہ کے محقق میں انہوں نے اس کی تردید کی ہے، تو ایسی صورت میں خود اس کی مخالفت ہمارے لئے کوئی مضر نہیں ہے اور یہ جملہ فرقہ رکنیتھولک اور فرقہ پر و ملکہ نٹ کے محققین کی تحقیق کے مطابق صلوٰۃ المسیح میں بڑھایا گیا ہے، اس بناء پر تحریف کرنے والوں نے صلاۃ مشہورہ کو بھی نہیں بخشتا، **شانہ نمبر ۲۰** اب خیل یو حنا بائی کی آیت ۳۵ اور باب کی ابتدائی آیات گیارہ الحاقی ہیں، اگرچہ ہورن کے نزدیک اُن کا الحاقی ہونا راجح نہیں ہے، مگر

وہ ایسی تفسیر کی جلد ۳، صفحہ ۳۱۰ پر یوں کہتا ہے کہ **رازِ مسیح** اور کافوئیں اور بیز اور کر و تمیں اور سیکلریس اور و ملکہ نٹ اور شنکر

لہ ان آیتوں میں ایک عورت کا واقعہ بیان کیا ہے، کہ یہودیوں نے اس پر تہمت زنا کا کر حض میشح سے اسے سنگار کرنے کا مطابیہ کیا، مگر حضرت میشح نے ہماگی میں سے جو پاک دامن ہو وہ اس کا فیصلہ کرے اس پر سب لوگ چلے گئے اور کسی نے فیصلہ نہیں کیا، پھر حضرت میشح نے اسے آئندہ گن نہ کرنے کی تاکید کر کے رخصت کر دیا، جدید انگریزی ترجمہ سے یہ عبارت اس موقع پر حذف کر دی گئی ہے، پھر انجیل یو حنا کے ختم کے بعد اس عبارت کو نقل کر کے حاشیہ پر مر جمین لکھتے ہیں کہ یہ عبارت جو عہد جدید کے عالم پھیلے ہوتے نہیں یو حنا: ۲۳: د تاہ: ۱۱ پہلی جاتی ہے، اس کی بمائی قدمیں صحیفوں میں کوئی متعین جگہ نہیں ہے، بعض نہیں میں یہ عبارت سرے سے موجود ہی نہیں ہے لیکن نہیں میں یہ لوقا: ۲۱: ۲۸ کے بعد موجود ہو، اور بعض میں اسے یو حنا: ۳۶ یا ۵۲: ۲۱ یا ۲۲ کے بعد رکھا گیا ہے، دنیو انگلش بائبل، ص ۱۸۲، ۳۵۰ اور ایزمس ERASMUS سو طویں صدی کا

44

اور موئس اور پین لین اور پاچس و اسٹمپ اور دو سکر مصنفین جن کا ذکر در ٹفینس اور
کو تحریر کیا ہے، وہ ان آیات کی صحت تسلیم نہیں کرتے ہیں
پھر کہتا ہے کہ:-

مذکورہ اسم اور رحیم و فلیکسٹ اور نوں نے اس انجیل کی شرودح لکھی ہے، مگر ان آیتوں کی شرح نہیں کی، بلکہ اپنی شرودح میں ان کو نقل بھی نہیں کیا، ٹروں تولین اور ساتی پرن نے زنا اور پاک رامنی کے باب میں چند رسائل لکھے ہیں، مگر اس آیت سے استدلال نہیں کیا ہے، اور اگر یہ آیتیں ان کے نسخوں میں موجود ہوتیں تو صورتیں ذکر کرتے، اور قصیٰ طور پر ان سے استدلال کرتے۔

وَآرْدُ كِنْجُوكُ كَہتا ہے کہ :-

”بعض متفکرین نے انجیل پوچنے کے باچ کی ابتدائی آئیتوں پر اعتماد کیا ہے۔“

نورمن نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آئیں یقیناً الحاقی ہے،

۷۰) نعم اے انجیل متی باب آیت ۸ میں یوں ہے کہ:-

سماں بہرہ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے علناہ تجھے بدله دے گا۔ اس میں لفظ "علانیہ" الحاقی ہے، آدم کھلارک اس آیت کی تصریح کے ذیل میں اس کا الحاقی ہونا ثابت کرنے کے بعد کہتا ہے کہ :-

”چونکہ اس لفظ کی کوئی پوری سند نہیں تھی، اس نے کریم باخ نے اور کردیس اور متل دیبل جنگل نے اس کو متن سے خارج کر دیا۔“

شانہ نمبر ۳۲ | انجیل مقدس کے پابند آیت ۷۱ میں لفظ "تو بہت دا
ع ہوا ہے" جو الحاق ہے آدھکار نے کے الحاق ہونے کو ثابت کرنے کے بعد ان یات کی شرح کے ذیل میں کہتا ہے کہ
کرباخ نے اس لفظ کو حذف کر دیا اور کوئی میں اور مل اور بخمل نے اسکی پڑی کی ہے :

لہ چنانچہ اردو ترجمہ اور جدید انگریزی ترجموں میں اُسے ساقط کر دیا ہے، قدیم عربی اور انگریزی ترجمہ میں یہ لفظ موجود ہے، مگر انگریزی ترجمہ کے متبادل الفاظ کی فہرست میں اُسے ساقط کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ۶:۲ اور ۶:۳ سے بھی اس لفظ کو حذف کرنے کا مشورہ مذکور ہے ۱۲ ترقی

شانہ دنہر ۳۲ [انجیل متی کے بآ۔ آیت ۱۳ میں بھی لفظ "تو بہتک" واقع ہوا ہے، یہ بھی الحاقی پے آدم کلارک نے اس کا الحاقی ہونا ثابت کرنے کے بعد اس آیت کی شرح کے ذیل میں کہا ہے کہ:-

"مل و زخل نے اسکا حذف کیا جانا پسند کیا ہے اور کربیاخ نے تو اسکو متن ہی سے خارج کر دیا" ॥

شانہ دنہر ۳۳ [انجیل متی کے بانہ آیت ۲۲ میں یوں کہا گیا ہے کہ:-

"پس بیتروع نے جواب دیا اور کہا کہ تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو، جو پیارہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ اور جس رنگ میں رنگنے کو ہوں کیا تم اس میں رنگ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں، تو اس نے ان سے کہا میرا پیارہ تو پیو گے اور جس رنگ میں میں رنگوں کا اس میں تو رنگو گے الخ" (آیات ۲۲ و ۲۳)

اس میں یہ قول کہ جس رنگ میں رنگنے کو ہوں کیا تم رنگ سکتے ہو، الحاقی ہے، اسی طرح یہ قول بھی کہ جس رنگ میں رنگوں گما اس میں تو رنگو گے، کربیاخ نے دونوں کو متن سے خارج کر دیا، اور آدم کلارک نے ان دونوں آیتوں کی شرح کے ذیل میں اُن کے الحاقی ہونے کو ثابت کرنے کے بعد کہا ہے کہ:-

جو قاعدے محققین نے صحیح عبارت کو غلط عبارت سے ممتاز کرنے اور پچاندنے کے لئے مقرر کر دیئے ہیں اُن کی بناء پر ان دونوں اقوال کا جزو متن ہونا معلوم نہیں ہوتا اور

شانہ دنہر ۳۴ [انجیل بوقا باب ۹ آیت ۵۵ میں ہے کہ:-

"مگر اس نے پھر کراخیں جھوٹ کا، اور کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کسی روح کے ہو رکیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان بریا کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے) پھر وہ کسی گاؤں میں چلے گئے" ॥

اس میں عبارت گیونکہ ابن آدم الحاقی ہے، آدم کلارک نے ان دونوں آیتوں کی شرح کے ذیل میں کہا ہے کہ:- "کربیاخ نے اس عبارت کو متن سے خارج کر دیا اور غالب یہ ہے کہ بہت پڑائے فسخوں میں اس طرح کی عبارت ہو گی کہ "مگر اس نے پھر کراخیں جھوٹ کا، اور کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کسی روح کے ہو، پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے" ॥

لہ ہم نے عبارت کا ترجمہ عربی اور انگریزی ترجیوں سے لیا ہی، موجودہ اردو ترجمہ میں یہ الحاقی عبارت حذف

مقصد سوم

تحریف لفظی الفاظ حذف کرنے کی شکل میں

پہلی شہادت کتاب پیدائش باب ۱۵ آیت ۳۱ میں ہے کہ:-
 ”اور اس نے ابراہم سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگوں
 ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پر دری ہوں گے، اور دہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے
 اور وہ چار سو برس تک ان کو دکھ دیں گے“
 اس میں یہ لفظ کہ ”دہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے“ نیز اسی باب کی مندرجہ ذیل
 چودھویں آیت ہے:-

لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا، جس کی وہ غلامی کریں گے اور بعد میں وہ بڑی دو
 لئے کروہاں سے بخل آئیں گے“

یہ دونوں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ سرز میں سے مراد مصر کا ملک ہی، اس لئے کہ
 جن لوگوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان کو تمکیفت میں مستلا کیا، اور پھر ان کو خدا
 نے مزادی، اور بنی اسرائیل یہ شمار مال لے کر نکلے، یہ لوگ مصری ہی تھے، ان کے علاوہ
 اور کوئی نہیں، کیونکہ یہ اوصاف کسی دوسرے میں موجود نہیں ہیں۔
 اور کتاب الحجہ باب کی آیت ۳۰ میں یوں ہے کہ:-

اور بھی اسرائیل کو مصر میں بود رہا شکر تے ہوتے چار سو تیس برس گذرے تھے۔ ان دونوں آیتوں میں اختلاف ہے، اب یا تو پہلی آیت سے ”تیس“ کا لفظ ساقط کیا گیا ہے، یاد دسری میں یہ لفظ بڑھایا گیا ہے، اس اختلاف اور تحریف سے قطع نظر کرتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں کہ دونوں آیتوں میں جو مدت قیام بیان کی گئی ہے وہ یقیناً غلط ہر جس کی کتنی وجہ ہیں؟

پہلی وجہ، مصر میں بنی اسرائیل کے نواسے بھی یہ اور ان کے پڑپوتے بھی، کیونکہ ماں کی طرف سے آپ یوکیر بنت لادی کے

بیٹے ہیں اور باپ کی طرف سے آپ عمران بن فاہث بن لادی کے بیٹے ہیں، گویا عمران نے اپنی بچوپی سے شادی کی تھی جس کی تصريح کتاب خروج باب اور کتاب گنتی باب ۲۶ میں موجود ہے، اور قاہش موسیٰ علیہ السلام کے دادا ہیں، جو بھی اسرائیل کے مصر میں آنے سے قبل پیدا ہو چکے تھے جس کی تصريح کتاب پیدائش باب ۲۶ آیت ۱۱ میں موجود ہے، اس نے بنی اسرائیل کی مدت قیام مصر میں کسی طرح بھی ۲۱۵ سال سے زیادہ ہیں ہو سکتی۔

دوسرا وجہ بنی اسرائیل کی مدت قیام مصر میں ۲۱۵ سال ہے، علماء پر وطنست کی تصانیف میں سے ایک کتاب عربی زبان میں ہے جس کا نام ”مرشد الطالبین الی الکتاب المقدس النہیں“ ہے، اس کے سرورق پر لکھا ہے کہ یہ انگریز فادر مون کے گرجے کی جماعت کے پیس میں شہر فاللہ میں نسلیۃ الرحمہن میں چھپی ہے، اور اس کے جزو دوم فصل، امیں بتا آفرینش سے ولادت میسح تک کے خوارث عالم کو ضبط کیا ہے، اور ہر واقعہ کے دونوں جانب سال و قوع لکھے گئے ہیں، داہمی طرف وہ سال ہیں جو آغاز عالم سے اس وقت تک ہو چکے ہیں، اور بائیس طرف وہ سال ہیں جو حادث کے وقوع سے میسح کی ولادت تک

لئے کیونکہ کتاب پیدائش میں غلامی کی مدت چار سو برس بیان کی گئی ہے ۱۲

لکھ یعنی لادی بن یعقوب علیہ السلام ۱۲

ہوتے ہیں، چنانچہ صفحہ ۳۲۷ میں یو سفت علیہ اسلام کے بھائیوں اور ان کے والد کے قیام کا حال یوں بیان کیا گیا ہے، صفحہ ۳۲۷ پر ہے:-

۲۲۹۸ یو سفت علیہ اسلام کے بھائیوں اور والد کا قیام ۱۷۰۶،

۲۵۱۳ اسرائیلوں کا بحر قلزم کو عبور کرنا اور فرعون کا عزق ہونا، ۱۳۹۱،

اب آپ جب اقل کو اکثر میں سے گھٹائیں گے تو ۲۱۵ سال رہ جاتے ہیں، صورتِ عمل مندرجہ ذیل ہوگی،

$$\begin{array}{r} 1706 \\ 1391 \\ \hline 215 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2513 \\ 2298 \\ \hline 215 \end{array}$$

یہ تو مورخین کا فتویٰ ہے، مفسرین کا قول بھی ہم آدم کلارک کی عبارت میں نقل کر گئے، تیسرا وجہ گھلتوں کے نام پوس کے خط کے باہم آیت ۱۶ میں یوں کہا گیا ہے:-
”پس ابراہام اور اس کی نسل سے وعدے لئے گئے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا کہ بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو اور وہ یہ ہے، میرا یہ مطلب ہے، کہ جس ہمدرک خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شرعاً چار سو تین برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لاحصل ہو“

اس کا کلام بھی اگرچہ غلطی سے پاک نہیں جیسا عنقریب معلوم ہو جائے گا، مگر خروج کی عبارت کے صریح مخالف ہے، یعنی کہ اس میں ابراہیم علیہ اسلام سے وعدہ کرنے کے وقت سے تواریخ کے نزدیک تک کی مدت چار سو تین سال بیان کی گئی ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام سے وعدہ بنی اسرائیل کے مصربیں داخل ہونے سے بہت پہلے ہوا تھا، اور تواریخ کا زوال ان کے مقرر سے بکھل آنے کے بہت بعد، لہذا اس کے مطابق بنی اسرائیل کے قیام مصرب کی مدت چار سو تین سال سے بہت کم قرار پاتی ہے، یعنی کہ یہ بیان قطعی غلط ہے اس لئے کتاب خروج باب ۱۲ آیت ۲۰ کی تصحیح یونانی اور سامری نسخوں میں اس طرح سے

لہ حالانکہ خروج ۱۲:۲۰ کی متفقہ عبارت میں محل مدت قیام ہی چار سو تین سال بتائی گئی ہے ۱۲ آیت

کردی گئی ہے کہ:-

”بھرپنی اسرائیل اور روم سے آبا رب اباد کے کنعان اور متصر میں قیام کی تکمیل ۱۳۰ سال ہے۔“

گویا دنوں نسبت میں الفاظ ”آباد و اجداد“ اور ”کنعان“ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، آدم کلاک اپنی تفسیر کی جبلد ص ۲۶۹ میں آیت مذکورہ کی شرح کرتے ہوئے کہتا ہے:-

”اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آیت مذکورہ کا مضمون سخت اشکال کا موجب ہے۔“

ہم کہتے ہیں کہ آیت کا مضمون نہ صرف یہ کہ موجب اشکال ہے بلکہ لفظی طور پر غلط ہے، جیسا کہ عنقریب آپ کو معلوم ہونے والا ہے، پھر یہ مفسر نسخہ سامری کی عبارت نقل کرتے ہوئے رقم طراز ہے:-

”اسکندر یا تو اس کی عبارت سامری نسخے میں ہے۔ اور یہ بڑے فسیلہ، اسی نے زی ہو کر سامری نسخہ موسیٰ علیہ السلام کی بانچنے کی اولیٰ حجہ میں سبک زیادہ جمع ہو اور یہ بالسلیم مذکورہ اسکندر یا تو اسی نسخہ میں سبک زیادہ صحیح ہوا اور موجود نسبت میں سبک زیادہ فیدی بھی اور پوچھ کر متعین ہو یہ کسی کو شکوہ نہیں ہے، اب اس نسبت کا فیصلہ ان تینوں کی شہادت سے ہو گب، اور تو ایسی صحیح شہادت ہے رہی ہیں کہ حق اہنی تینوں کی جانب ہے، اس لئے اب یہ سلیم علیہ السلام جب کنعان رے ہیں اُن کی ولادت سے اسحقؑ کی پیدائش کا زمانہ چھپیں سان ہے، اور اسحقؑ کی عمر یعقوبؑ کی ولادت کے وقت ۴۰ سال کی تھی، اور یعقوبؑ کی عمر متصر کی آمد کے وقت ۱۳۰ سال تھی، اس طرح تکمیل مدت ۲۱۵ سال ہوتی ہے، اور بنی اسرائیل کی متصر میں قیام کی مدت بھی ۲۱۵ سال ہے، اس طرح مجموعی مدت ۳۴۳ سال ہو جاتی ہے، ہنری داسکالٹ کی تفسیر کے جامعین یہ سلیم کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی متصر میں مدت قیام ۲۱۵ سال تھی، وہ سامری نسخہ کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:-

”اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ عبارت بالکل صحیح ہے، اور متن میں پیش آنے والے ہر اشکال کو دور کر دیتی ہے۔“

اب یہ بات واضح ہو گئی کہ عیسائی مفسرین کے پاس خروج کی اس عبارت کے لئے

جو عربانی فتح میں ہر کوئی توجیہ اس کے سوا موجود نہیں ہے، کہ وہ اس کے غلط ہونے کا اعتراف کریں،

اور ہم نے جو یہ بات کہی ہے کہ پوس کا حلام بھی غلطی سے پاک نہیں ہے وہ اس لئے کہ اس نے مدت کا لحاظ دعوہ سے کیا ہے، اور اس دعوہ کا زمانہ استحقائی پیدائش سے ایک سال پہلے ہے، جس کی تصریح کتابت پیدائش کے باب، ایں اور باب مذکور کی آیت ۲۱۰ میں یوں کی گئی ہے کہ:-

”یکن میں اپنا ہدایتھ سے باندھوں گا، جو لگھے سال اسی وقت معین پر سارہ سے پیدا ہو گا،“

اور تورت کا نزول بنی اسرائیل کے خرد رج مصرا کے بعد تیسرا ماه میں ہوا، جس کی تصریح کتابت الخرد باب ۱۹ میں موجود ہے، اس صورت میں اگر اس حساب کا اعتبار کیا جائے جس کی تصریح آدم کلارک کرتا ہے تو یہ مدت ۷۰ سال ہوتی ہے، یہ ہی تصریح فرقہ پر دشمنت کی تواریخ میں بھی پائی جاتی ہے، مذکوہ ۳۰ سال جبیکہ پوس نے دعویٰ کیا ہے،

مرشد الطالبین کے صفحہ ۳۴۵ پر مذکور ہے کہ:

۲۱۰ اللہ کا ابرام سے رعده اور اس کے نام کی ابرام سے ابراہیم کی ۱۸۹ طرف تبدیلی اور ختنہ کی تعین، حضرت طوطہ کی نجات، سیدوم، عمرہ، اضمام اور صابو عیم کی بدلکاریوں کی بناء پر تباہی، پھر صفحہ ۳۴۷ پر ہے کہ:-

۲۵۱۲ - ”کوہ تینا پر شر نیت کا عطا کیا جانا“ ۱۲۹.

اب اگر اقل کو اکثر میں سے گھٹاریتے ہیں تو تھیک، ۳۰ بنے ہیں، جس کی صورت یہ ہے:-

۱۸۹۔
۱۲۹۔

۳۰۔

۲۵۱۲۔
۲۱۰۔
۳۰۔

لہ ”اوہ بہرائیل کو جن من ملک مقرر سے نکلتے ہیں جیسے ہوئے اسی دن وہ سینا کے بیان میں آئی الم“ (روہ)

لہ داہنی جانب آغازِ عم کا سال ہے اور بائیں جانب قابض۔

بالائے غہراتے دگر [ب] ہم نے جو کہا تھا کہ یوکبڈ، عمران کی پھوپھی تھی، یہی درست ہے متعدد انگریزی، عربی، فارسی اور اردو تراجم اس کی شہادت دیتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کتاب خردوج کے باب ۷ آیت ۲۰ ترجمہ عربی مطبوعہ سلسلہ ۱۴ میں یوں کہا گیا ہے کہ:-

”بھر عمران نے اپنے چھاکی بیٹھی یوکبڈ سے شادی کی“
 ”پھر پھی کی جگہ تحریف کر کے ”چھاکی لڑکی“ بنادیا گیا ہے، اور جب یہ ترجمہ پوپ اپا تو سہشتم کے زمانہ میں بڑی محنت سے طبع کیا گیا، اور بہت سے پادریوں، راہبوں اور علام نے جو عبرانی یونانی دعویٰ زبانوں کے مابر تھے، اس کی تصحیح میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جیسا کہ اس ترجمہ کے آغاز میں لکھے ہوئے مقدمہ سے معلوم ہوتا ہے، اس لئے غالب یہی ہے کہ اس تحریف کا ارتکاب ان لوگوں نے دانتہ اس لئے کیا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے نسب میں عیوب نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ تورتیت کی رو سے پھوپی سے نکاح کرنا حرمت ہے، جیسا کہ کتاب آثار کے باب ۸ آیت ۱۲ اور بانٹ آیت ۱۹ میں تصریح پائی جاتی ہے اور ترجمہ عربی مطبوعہ سلسلہ ۱۴ میں بھی یہ تحریف پائی جاتی ہے،

ہابیل قابیل کا واقعہ [کتاب پیدائش باب ۲۰ آیت ۸ میں یوں کہا گیا ہے:-]
 ”اور قائن نے اپنے بھائی ہابیل کو کچھ کہا اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر دیا۔“

اور سامری، یونانی اور قدیم ترجموں میں اس طرح ہے کہ:-

”قابیل نے اپنے بھائی ہابیل سے کہا کہ آؤ ہم کھیت کی طرف چلیں، اور جب وہ دونوں کھیت پر پہنچے الخ“

اس میں یہ عبارت کہ ”آؤ کھیت کی طرف چلیں“ عبرانی نسخے سے خارج کر دی گئی ہے، ہورن اپنی تفسیر کی جلد ۲ ص ۱۹۳ کے حاشیہ پر لکھتا ہے کہ:-

”تو موجودہ تراجم میں ”باب کی بہن“، ہی بنادیا گیا ہے، ”تو قائل“ ”تو اپنی پھوپھی کے بدن کو بے پردا نہ کرنا“ (احبارة ۱۲) ”اور تو اپنی خالہ یا پھوپھی کے بدن کو بے پردا نہ کرنا“ (۱۹: ۲۰)

یہ عبارت سامری یونانی، ارامی نسخوں میں اور اسی طرح اس لاطینی نسخہ میں جو پائی گئی
والش میں چھپا تھا موجود ہے، کتنی کاٹ نے عبرانی نسخہ میں اس کے داخل کئے جانے کا
فیصلہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں کریے عبارت بہتر ہے ہے ۔
پھر جبلہ اول مذکور کے صفحہ ۳۴ میں کہتا ہے کہ :-

”کبھی کبھی یونانی ترجمہ کی عبارت صحیح ہوتی ہے، لیکن آجکل کے مرد جہے عبرانی نسخوں میں
نہیں ملتی، مثلاً عبرانی نسخہ خواہ وہ مطبوعہ ہوں یا ہاتھ کے لکھے ہوئے وہ آیت مذکورہ
کے سلسلہ میں میں طور پر ناقص ہیں، اور ہر شدہ انگریزی ترجمہ کا مترجم چونکہ اس مقام
کو پورے طور پر سمجھ نہیں سکا، اس لئے اس نے یوں ترجمہ کیا۔“ قابیل نے اپنے سحباتی
ہابیل سے کہا، ”اور اسکی کی تلافی یونانی ترجمہ میں کردی گئی ہے، اور یہ ترجمہ سامری نسخہ اور
لاطینی ترجمہ اور ارامی ترجمہ نیز لیکو تو تیلاَتے ترجمہ اور ان دونوں تفسیروں کے جو کسی زبان
میں یہی اُس فقرہ کے مطابق ہو گیا جس کو ندو یہودی نے نقل کیا ہے،“

آدم کلارک نے اپنی تفسیر کی جبلہ، ص ۶۲ میں وہی بات کہی ہے جو ہورن نے کہی تھی،
نیز یہ عبارت عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۲۷ء و ۱۸۲۸ء میں شامل کردی گئی ہے،

شاہد نمبر ۳ | ”اور چالیس دن تک زمین پر طوفان رہا،“

اور یہی جملہ بہت سے لاطینی نسخوں اور یونانی ترجموں میں اس طرح ہے کہ :-

”اور طوفان چالیس شب دروز زمین پر رہا“

ہورن اپنی تفسیر کی جبلہ میں کہتا ہے کہ :-

”ضروری ہو کہ لفظ شب کا اضافہ عبرانی متن میں کیا جائے،“

شاہد | ”کتاب پیدائش پاپ ۲۵ آیت ۲۲ کے عبرانی نسخہ میں یوں کہا گیا ہے:-“

”اور اسرائیل کے اس ملک میں رہنے ہوئے یوں ہوا کہ رد بن نے
جا کر اپنے باپ کی حرم بلہاد سے مباشرت کی، اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا،“
ہنری واس کاٹ کے جامعین یہ کہتے ہیں کہ :-

یہودی مانتے ہیں کہ اس آیت میں سے کچھ نہ کچھ ضرور حذف کیا گیا ہے، یعنی ترجمہ نے اس کی کو ان اتفاقات کا احتفاظ کر کے پورا کیا ہے کہ ”اور وہ اس کی نگاہ میں حیر ہو گیا“، اس مقام پر یہودیوں کو بھی اعتراف ہے کہ حضرت واقع ہوا ہے، اور ایک جملہ کا کم کر دیا جانا عربانی نسخے سے اہل کتاب کے نزدیک کچھ زیادہ مستبعد نہیں ہے، چنانچہ اسیکے ایک درجت،

شاهر ہارسلے مفسراپنی تفسیر کی جملہ ص ۸۲ میں کتاب پیدائش کے باب ۲۷ آیت ۵ کے ذیل میں یوں کہتا ہے کہ :-

”یعنی ترجمہ میں اس آیت کے شروع میں یہ جملہ تڑھایا جاتے کہ تم نے میرے پیالے کیوں چور کئے؟“ اس میں یہ جملہ اس کے اعتراف کے مطابق عربانی نسخے سے حذف کر دیا گیا ہے،

شاهر کتاب پیدائش باب ۲۵ آیت ۲۵ میں یوں کہا گیا ہے کہ :-

”سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو ہیاں سے لے جانا“

اور سامنی نسخے اور یونانی اور لاطینی ترجموں میں اور بعض قدیم ترجموں میں یوں ہے کہ :-

”اور میری ہڈیاں پہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤ“

گویا عربانی نسخے سے لفظ ”اپنے ساتھ“ مگر ادیا گیا ہے، بتوڑن کہتا ہے کہ :-

”مطریت نے اس منزدک لفظ کو اپنے جدید باللب کے ترجمہ میں شامل کر لیا اور بالکل صحیک کی۔“

شاهر کتاب خروج باب آیت ۲۲ میں یوں کہا گیا ہے کہ :-

”اویس کے ایک بیٹا ہوا، اور موسیٰ نے اس کا نام جیر سوم یہ کہ رکھا کہ میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں“

لہ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پیالے کی چوری کا مشہور دافعہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف نے ایک آدمی کو اپنے بھائیوں کے بھیچے بھیچتے ہوئے اُسے براہیت کی کردہ آن سے جاگر کئے کہ،

”بیادہ وہی چیز نہیں جس سے میرا آفایتیا اور اسی سے ٹھیک فال بھی کھولنا کرتا ہے“ ۱۲ ترقی

تل جیر سوم کے معنی عربانی زبان میں ”پر دیسی“ کے ہیں ۱۲ ترقی

اور یونانی اور لاطینی ترجموں میں اور بعض قدیم تراجم میں آیت مذکورہ کے اخیر میں یہ عبارت ہے کہ:-

”اور اس نے ایک درس الرطکا بخنا، جس کا نام عازر رکھا، پھر کہا، چونکہ میرے باپکے خدا نے میری مدد کی۔ اور مجھ کو فرعون کی تلوار سے ربانی دی۔“

آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد ص ۳۱ میں تراجم سے مذکورہ عبارت نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ:-

”بیتوں کیست نے اپنے لاطینی ترجمہ میں اس عبارت کو داخل کر کے دعویٰ کیا کہ اس کا مقام یہی ہے، حالانکہ کسی بھی عبرانی نسخہ میں خواہ قلی ہو یا مطبوعہ یہ عبارت موجود نہیں ہے اور معنی تراجم میں موجود ہے۔“

غرض عیسائیوں کے نزدیک یہ عبارت عبرانی نسخے سے خالج کی گئی ہے،
شاہزاد ایفخر درج بابت آیت ۲۰ میں اس طرح کہا گیا ہے کہ:-

”اس سے ہارون اور موسیٰ پیدا ہوتے۔“

اور سامری نسخہ اور یونانی ترجمہ میں اس طرح ہے کہ:

”پھر اس سے ہارون دعویٰ اور ان کی بہن مریم پیدا ہوئے۔“

اس میں لفظ ”ان کی بہن“ عبرانی نسخہ میں حذف کر دیا گیا ہے، آدم کلارک سامری اور یونانی نسخوں کی عبارت لقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ:-

”بعض بڑے محققین کا خیال ہے کہ یہ لفظ عبرانی متن میں موجود تھا،

شاہزاد کتاب گفتگی بانب آیت میں ہے کہ:-

”اور جب تم، سانس باندھ کر زندگی سے بچوں کو تو ان شکروں کا جو جنہیں کی طرف ہیں کوچ جو:-“

اور یونانی ترجمہ میں اس آیت کے اخیر میں یوں کہا گیا ہے کہ:-

”لذ یا ارد در ترجمہ کی عبارت ہے، ہمارے پاس موجودہ دوسرے ترجموں میں بھی ایسا ہی ہے، مگر ”اخہار الحجۃ“ میں جس عربی ترجمہ سے نقل کیا گیا ہے اس میں ”جب تم“ کے بعد ”جب وہ“ ہے، ۱۲

”اور وہ جب تیسرا بار زسنگا پھونکیں گے تو مغربی خیمے روائی کے لئے اٹھاتے جائیں گے، اور جب چوتھی مرتبہ پھونکیں گے تو شمالی خیمے روائی کے لئے اٹھاتے جائیں گے“

آدم کلارک اپنی تفسیر جبل ص ۶۶۳ میں کہتا ہے کہ:-

”اس موقع پر غربی اور شمالی خیموں کا ذکر نہیں کیا گیا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ زسنگا پھونکے جلنے پر بھی روایت ہو جلتے تھے، اور اسی وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مقام پر عربانی متن ناقص ہے، یونانی نسخہ میں اسکی تحریک یوں کی گئی ہے کہ ”اور جب تیسرا مرتبہ پھونکیں گے تو مغربی خیمے روائی کے لئے اٹھا لئے جائیں گے، اور جب چوتھی بار پھونکیں گے تو شمالی خیمے روائی کے داسے اٹھاتے جائیں گے“

تفسر بارسل کہتا ہے کہ:-

شاہزاد ”كتاب الفضأة ، باب ۱۶ آیت ۳۰ کے ابتداٰ حستہ اور آیت ۳۱“

کے آخری حستہ سے کچھ حذف کر دیا گیا ہے، اس لئے یونانی ترجمہ سے لے کر یہ عبارت بڑھاتی جائے، ”پھر اس نے اس سے کہا کہ اگر تو میرے سر کے بالوں کی شات بیٹھن لیکر ان کو تلے کے ساتھ بُن دے اور دیوار میں تنخ کے ساتھ باندھ دے تو میں دوسرا لوگوں کی طرح مکرور ہو جاؤں گا، پھر میں نے اُس کو مُسلا دیا، اور اس کے بالوں کے سات پچھلے کر اخیں تالے کے ساتھ بُن دیا، اور باتھر دیا“

شاہزاد آدم کلارک اپنی تفسیر کے جبل صفحہ ۱۶۷ میں کہتا ہے کہ :-

”یونانی ترجموں سے آیت ۳۰ پوری کی پوری سوائے لفظ“ ہم نے اس کی

شکایت کی ”گردی گئی ہے، اور آیت ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ حذف

لہ یہ سمعتوں کا مشہور رائق ہے ۱۲

لئے تمام لسخوں میں ایسا ہی ہے، کہ کتاب اور باب کاحوالہ نہیں دیا گیا، کتاب کے انگریزی مترجم نے بھی اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا، احتمال یہ تھا کہ کتاب الفضأة باب ۱۶ کی آیت ۳۰ مراد ہو، مگر وہاں اس قسم کی کوئی عبارت نہیں، واللہ اعلم با الصواب ۱۲ تدقیقی

کردی گئیں ہیں۔“

نیز عربی ترجمہ میں اسی باب کی آیت ۲۶ اور آیت ۲۹ حذف کردی گئی ہیں،
کتاب ایوب کے باب ۳۲ آیت، اسی ہے کہ:-

شاهر ۱۳ ”اور ایوب نے بوڑھا اور عمر سیرہ ہو کر وفات پائی۔“

عربی نسخہ اس عبارت پر ختم ہو گیا، اور یونانی ترجمہ میں اس پر اس قدر اضافہ کیا گیا کہ:-
”اور دوبارہ ان لوگوں کے ہمراہ زندہ ہو گا، جن کو خداوند زندہ کر کے اٹھاتے گا۔“

نیز ایک تتمہ بڑھایا گیا ہے جس میں ایوب کے نسب اور آن کے حالات کا مختصر طور پر بیان ہے، کام تھا اور ہر دو کہتے ہیں کہ یہ تتمہ الہامی کتاب کا جزو ہے، فتنلو اور پولی ہسٹرنے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، آرجن کے عہد کے لوگ بھی اس کو تسلیم کرتے تھے، تھیسٹر درشن نے بھی اس کو یونانی ترجمہ میں لکھا ہے، اس بناء پر متعدد عیسائیوں اور علماء کے نزدیک عربی نسخہ میں کمی کر کے تحریف کی گئی ہے،
نیز فرقہ پروٹستنٹ کے محققین اس پر مستحق ہیں کہ یہ جعل ہے، آن کے نزدیک یونانی ترجمہ میں تحریف بالزیادہ لازم آتی ہے،

تفسیر ہزری و آسکاٹ کے جامعین نے یوں کہلہ ہے:-

”نظاہر یہ جعل ہے، اگرچہ مسیح سے قبل لکھی گئی ہے۔“

ہماری گزارش یہ ہے کہ جب یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ صورت مسیح سے قبل کی ہے تو لازم آتا ہے کہ متعدد عیسائی حواریوں کے زمانے سے نہ ہو تک اس محرف کو خواکا کلام سمجھتے رہے، کیونکہ ان لوگوں کا عمل درآمد اس عہد تک اسی ترجمہ پر رہا، اور وہ اس کی صحت کا اعتقاد رکھتے تھے، اور عربی کے محرف ہونے کا،

زبور میں تحریف کی کھلی مثال زبور نمبر ۲۳ کی آیت کے بعد لاطینی ترجمہ اور آیت حوبک ترجمہ میں اور عربی ترجمہ میں اور یونانی ترجمہ کے دو ٹکن دلنے نسخہ میں

یہ عبارت موجود ہے کہ:-

”آن کا کھلا گھلی جوئی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، آن کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، آن کا مٹنہ لعنت اور کڑوا ہستے سے بھرا ہے، آن کے قدم خون پہنچ کے لئے تیز روہیں، آن کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوتے، آن کی آنکھوں میں خدا کا خود نہیں۔“ (آیات ۱۳۲)

یہ عبارت عبرانی نسخہ میں موجود نہیں ہے، بلکہ جور دیوں کے نام پوتس کے خط میں پائی جاتی ہے، اب یا تو یہودیوں نے یہ عبارت عبرانی نسخہ سے ساقط کر دی ہے، تب تو یہ تحریف بالنقصان ہے، یا عیساییوں نے اپنے ترجموں میں اپنے مقدس پوتس کے کلام کی تصحیح کے لئے بڑھائی ہے، تب یہ تحریف بالزیادۃ کی صورت ہو گی، اس لئے کسی نہ کسی ایک نوع کی تحریف ضرور لازم آئے گی،

آدم کلارک زبور کی آیت مذکورہ کی شرح کے ذیل میں کہتا ہے کہ:

”اس آیت کے بعد ویسی کن کے نسخہ میں آیت حوبک والے ترجمہ میں اسی طرح عربی ترجمہ میں چھ آیات آئی ہیں جو رومیوں کے نام پوتس کے خط باہم آیت ۳۱ تا آیت ۳۸ کے اندر موجود ہیں۔“

شاہزاد [کتاب یستعیاہ عبرانی نسخہ باب ۳۳ آیت ۵ میں یوں کہا گیا ہے کہ:-]

”اور خداوند کا جلال آشکارا ہو گا، اور تمام انسانوں کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے یہ
اور یونانی ترجمہ میں اس طرح ہے کہ:-

”اور خدا کا جلال آشکارا ہو گا، اور ہر شخص ایک ساتھ ہمکے معبد کی نجات کو دیکھے گا
کیونکہ یہ بات خدا کے منہ کی بھلی ہوتی ہے۔“

آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد ۲۳ ص ۸۵ میں یونانی ترجمہ کی عبارت نقش کرنے کے بعد کہتا ہے کہ:-

”یہ اخیال ہے کہ یہی عبارت اصل ہے۔“

لہ مذکورہ بالا عبارت کا ترجمہ ہمیں سے لیا گیا ہے ۱۲ ترقی

پھر کہتا ہے کہ :-

عبرانی متن میں یہ کمی اور حذف بہت فیکم اور کسدی و لاطینی اور سریانی ترجموں سے مقدم ہے، اور یہ عبارت یونانی ترجمہ کے ہر نسخہ میں موجود ہے، اور تو قانے بھی بابت آیت ۶ میں اس کو تسلیم کیا ہے، اور میرے پاس ایک بہت قدیم نسخہ موجود ہے اس میں یہ پوری آیت غائب ہے ॥

ہورن اپنی تفسیر کی جلد ۲ حصہ اول کے باب میں کہتا ہے کہ :-

”تو قانے بابت آیت ۶ میں یونانی ترجمہ کے مطابق لکھا ہے، اور تو سخنے یہ سمجھ کر کہ بھی عبارت صحیح ہے، کتاب اشعياء کے اپنے ترجمہ میں شامل کر لیا ہے“ ہنزہی داسکاٹ کی تفسیر کے جامعین کا قول ہے کہ :-

”لفنا“ دیکھیں گے ”کے بعد ہمارے معبد کی بخات“ کے الفاظ بڑھانے سزدھی میں،
باب ۵۲ آیت ۱۰ اور یونانی ترجمہ قابل ملاحظہ ہے ॥

غرض ان مفسرین کے اعتراض کے مطابق عبرانی متن میں کمی کر کے تحریف کا رتکاب کیا گیا ہو اور آدم کلارک کے اقرار کے موجب یہ تحریف بہت قدیم ہے،

شاہزاد آدم کلارک کتاب یسوعیاہ کے باب ۳۲ آیت ۵ کی شرح کے ذیل میں یوں کہتا ہے کہ :-

”میرا ختیدہ یہ ہے کہ یہ کمی کا تب کی غلطی سے ہوئی ہے، اور یہ تحریف بہت پڑانی ہے، کیونکہ ششہ مترجمین آیت کے معنی کو خوبی سے بیان کرنے پر قادر نہ ہو سکے، باکل اسی طرح جیسا کہ متاخرین بیان میں کامیاب نہ ہو سکے“

شاہزاد ہورن اپنی تفسیر کی جلد ۲ ص ۲۲ میں کہتا ہے کہ :-

”انجیل تو قا کے بابت آیت ۳۲ و ۳۳ کے درمیان پوری ایک آیت انجیل تو قا میر تحریف حذف کردی گئی ہے، اس لئے انجیل مثی باب ۳۲ آیت ۶ کا حصہ“

لہ اس میں کتاب یسوعیاہ کا حوالہ دیکر ایک عبارت نقل کی ہے جس میں ہے ”اور ہر شر خدا کی بخات دیکھے گا“ ۱۲

لہ اس میں کہا گیا ہے ”اور زمین سراسر ہمارے خدا کی بخات کو دیکھے گی“ ۱۳ تلقی

یا انجیل ترقیں باب ۱۳ آیت ۳۲ کا حبس لے کر بڑھاتا ضروری ہے، تاکہ لوگونا دوسرا
درنوں انجیلوں کے موافق ہو جائے ॥
پھر حاشیہ میں ہوتا ہے کہ :-

”جمل محققین اور مفسرین نے اس زیر دست کمی سے چشم پوشی کی ہے جو توقا کے متن میں
نظر آتی ہے، پہاڑ کہ اس پر ہیکل نے توجہ کی ॥“

اس کے اعتراض کے مطابق انجیل توقا کی ایک سالم آیت غائب کر دی گئی ہے، اور اس کا
بڑھایا جانا اس میں نہایت ضروری ہے، اور یہ آیت انجیل مثی میں یوں ہے کہ :-
”لیکن اُس دن اور اُس مگری کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر
صرف پاپ ॥“

شاہزاد | کتاب اعمال باب ۱۶ آیت، میں یوں کہا گیا ہے کہ :-

”پھر روح نے انھیں جانے نہیں دیا ॥“
کریمباخ اور شوالز کہتے ہیں کہ صحیح یوں ہے کہ :-
”پھر آن کو یسوع کی روح نے اجازت نہیں دی ॥“

اب ان درنوں کے اقرار کے مطابق لفظ یسوع حذف کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ لفظ مکمل
و مکمل میں عربی ترجمہ میں شامل کیا گیا، اور ان درنوں کی عبارت اس طرح ہے کہ -
”مگر یسوع کی روح نے انھیں جانے نہیں دیا ॥“

انجیل مثی مثی کی نہیں ہی | وہ انجیل جو اس زمانہ میں مثی کی جانب منسوب ہے،
اور جو سب سے پہلی انجیل ہے، اور عیسائیوں کے
اس کے شواہزاد | نزدیک سب سے قدیم ہے یقیناً مثی کی تصنیف
نہیں ہے، بلکہ اس کو توان حضرات نے تحریف کرنے کے بعد صائع کر دیا ہے، کیونکہ تمام
متقدرمیں عیسائی اور بے شمار متاخرین اس امر پر متفق ہیں کہ انجیل مثی جو عبرانی زبان میں تھی
لدن قس ۱۳:۳۲ میں بھی الفاظ کی معمولی تبدیلی سے یہی مفہوم ہے ۱۲ تھے موجودہ اردو اور جدید انگریزی
ترجموں میں بھی یہ لفظ بڑھا دیا گیا ہے مگر سابق انگریزی ترجمہ میں اب تک یہ لفظ محذف ہے ۱۲ تھی،

وہ شخص جیسا کی فرقوں کی تحریف کی وجہ سے ضائع اور ناپید ہو چکی ہے، اور آجھل کی موجودہ انھیں اس کا ترجمہ ہے، اور اس ترجمہ کی سند بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ آج تک اس کے مترجم کا نام بھی لقینی طور پر معلوم نہیں، جبکہ اس امر کا اعتراض عیسائیوں کے متقدِر میں میں سب سے افضل شخص جیردم نے کیا ہے، تو بھلہ مترجم کے حالات تو کیا معلوم ہو سکتے ہیں، البتہ قیاسی گھوڑے ضرر دوڑا کر کہہ دیا ہے کہ شاید فلاں نے یا فلاں نے اس کا ترجمہ کیا ہو گا، جو مخالف پر حجت نہیں، اور کوئی کتاب محض قیاس اور اندازے سے کسی مصنف کی جانب منسوب نہیں کی جاسکتی،

پھر جب تمام متقدِر میں عیسائی اور اکثر متاخرين کا مسلک یہ ہو تو پھر علماء پر ٹوٹنٹ کے قول پر جو بغیر کسی دلیل و برہان کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ متن نے خود ہی اس کا ترجمہ کیا ہے، کیسے بھروسہ اور اعتبار کیا جا سکتا ہے؟

آئیے اب ہم آپ کے سامنے اس سلسلہ کی کچھ شہادتیں پیش کرتے ہیں:-
السانیہ کلوب پیڈ یا برٹانیکا جلد ۱۹ میں ہے کہ:-

”محمد حیدر کی ہر کتاب یونانی زبان میں لکھی گئی ہے، سو اسے انھیں مٹی اور رسالہ عَزَّانِیہ کے، یکوئکہ ان دونوں کی تالیف کا عربانی زبان میں ہونا دلائل کی بنار پر لقینی بات ہے“ لارڈ زکلیات جلد ۲ صفحہ ۱۱۹ میں لکھتا ہے کہ:-

”پسیاس نے لکھا ہے کہ متن نے اپنی انھیں عربانی میں لکھی تھی، اور ہر شخص نے اس کا ترجمہ اپنی قابلیت کے مطابق کیا۔“

یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس انھیں کا ترجمہ کیا ہے، پھر جب تک مکمل سند سے یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ یہ موجودہ ترجمہ فلاں شخص کا کیا ہوا ہے، جو صاحبِ الہام بھی تھا، تو کیوں کراچی سے ترجمہ کو الہامی کتابوں میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ سند سے تو اس کا ثبوت ہونا بھی ثابت نہیں، صاحبِ الہام ہونا تو کجا، پھر لارڈ زکلیات نے کوئے صفحہ ۷۰، اپر کہتا ہے کہ:-

”ارنسن نے لکھا ہے کہ مٹی نے یہ دیوں کے لئے اپنی انھیں ان کی زبان میں اُس زمانہ میں

لکھی تھی جبکہ روم میں پوس اور پیپر اس وعظ کہتے چھرتے تھے،
پھر اسی جلد کے صفحہ ۳۷، ۵ میں کہتا ہے کہ:-

”آریجن کے تعین جلتے ہیں، پہلا قریہ ہے جسکو یوسی میں نے نقل کیا ہے کہ متی نے ایماندار
یہودیوں کو عبرانی زبان میں انجیل عطا کی تھی، دوسرا یہ کہ متی نے سبے پہلے لکھی اور عبرانیوں
کو انجیل دی، تیسرا یہ کہ متی نے انجیل عبرانیوں کے لئے لکھی تھی، جو اس شخص کے منتظر تھے
جس کا دعہ ابراہیم دادا کی نسل سے کیا گیا ہے“
پھر لارڈ فر جلد ۴ صفحہ ۹۵ میں کہتا ہے کہ:-

”یوسی میں نے لکھا ہے کہ متی نے عبرانیوں کو وعظ سنا نے کے بعد جب درسری قوموں
کے پاس جانے کا قصد کیا تو انجیل ان کی زبان میں لکھ کر آن کو عطا کی“
پھر جلد ۴ صفحہ ۳۷، ۱ میں کہتا ہے کہ:-

”سرل کا قول ہے کہ متی نے انجیل عبرانی زبان میں لکھی تھی،
پھر جلد ۴ صفحہ ۳۸، ۱ پر کہتا ہے کہ:-

”آپ فینس لکھتا ہے کہ متی نے انجیل عبرانی زبان میں لکھی تھی، محمد جدید کی سخیر میں اس زبان
کے استعمال کرنے میں یہ خص منفرد ہے“
پھر جلد ۴ صفحہ ۳۶ میں لکھتا ہے کہ:-

”جیردم نے لکھا ہے کہ متی نے انجیل عبرانی زبان میں ایمان دار یہودیوں کے لئے یہودی
علاقہ میں لکھی تھی، اور شریعت کے سایہ کو انجیل کی صداقت کے ساتھ مخلوط نہیں کیا“
پھر جلد ۴ صفحہ ۳۲۱ میں کہتا ہے کہ:-

”جیردم نے موذین کی فرست میں لکھا ہے کہ متی نے اپنی انجیل ایمان دار یہودیوں کے لئے
یہودی سر زمین میں عبرانی زبان اور عبرانی حروف میں لکھی تھی، اور یہ بات ثابت نہیں
ہو سکی کہ اس کا ترجمہ یوتالی میں ہوا، اور نہ یہ ثابت ہوا کہ اس کا مترجم کون ہے؟ اس کے
علاوہ یہ چیز بھی قابلِ لحاظ ہے کہ اس کی عبرانی انجیل کا نسخہ سوریا کے اس کتب خانہ میں موجود
ہے، جس کو یونیورسٹی شہید نے بڑی محنت سے جمع کیا تھا، اور میں نے اس کی نقل ان

مدگاروں کی اجازت سے حصل کی، جو سریا کے ضلع بریا میں تھے، اور ان کے ہستیوال میں بھی عبرانی نسخہ تھا۔

بچر جلد ۲ صفحہ ۱۰۵ میں لکھتا ہے کہ:-

”آگ طاسن لکھتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صرف متی نے چاروں انجیل والوں میں سے اپنی انجیل عبرانی میں لکھی، اور دوسروں نے یونانی میں۔“

بچر جلد ۲ صفحہ ۳۵ میں لکھتا ہے کہ:-

”کریز استم لکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ متی نے اپنی انجیل ایماندار پیغمبروں کی درخواست پر عبرانی زبان میں لکھی تھی۔“

بچر لارڈ نر جلد ۵ صفحہ ۱۷۱۳ میں لکھتا ہے کہ:-

”اسی ڈر لکھتا ہے کہ چاروں انجیل حضرات میں سے صرف متی نے عبرانی زبان میں لکھی تھی، اور دوسروں نے یونانی میں۔“

جو ان اپنی تفسیر کی جلد ۳ میں لکھتا ہے کہ:-

”بل من اور کرڈ میں اور کتابن اور دالش، شاملاں، کیتو، ہمدر، دمل، ہارڈرڈ، ادگان، دکین بیل، دانی، کلارک، سامن، تلی مینٹ، پری میس، اوڈوین، کامتھ، میکا میس، ارچی نیس، آرچن، سرل، اپی فیس، کریز استم، جیردم وغیرہ ان علماء میقدین اور متاخرین نے پئے پیاس کے اُس قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ انجیل عبرانی زبان میں لکھی گئی تھی اور ”غیرہ“ سے ماد کریں، نازین زدن، اور ای بد جو اور نہ سو ذلیکٹ اور یو تھی میں اور یو میں اور اپنے انسانی سنس۔ آگتا من اور اسی ڈر دغیرہ میں، جن لئے ناموں کی تسریع لارڈ نر اور دالش وغیرہ نے اپنی کتابوں میں کی ہے،

نیز ڈی آنلی اور رجسٹرڈ منٹ کی تفسیر میں ہے کہ:-

”چھٹے ڈر میں بڑا سخت اختلاف پیدا ہوا، کہ یہ انجیل کس زبان میں لکھی گئی تھی، مگر چونکہ بہت سے متقدمین نے تصریح کی ہے کہ متی نے اپنی انجیل عبرانی زبان میں لکھی جو فلسطین کے باشندوں کی زبان تھی، اس لئے یہ اس سلسلہ میں قول فیصل ہے۔“

ہمزی و اسکاٹ کی تفسیر کے جامعین کہتے ہیں : -

”تجرانی نسخہ کے معدوم ہونے کا سبب یہ ہوا کہ فرقہ ایتو نہ نے جو مسیح کی الہیت اور خدائی کا منکر تھا اس نسخہ میں ستر لفین کی اور پھر وہ تیر دشلم کے فتنہ کے بعد خاتم ہو گیا“ بعض کی راستے یہ ہے کہ :

”ناصری لوگ یادہ یہودی جو مسیحی ناہب میں داخل ہو گئے تھے انھوں نے عبرانی انجیل میں ستر لفین کی اور فرقہ ایتو نیہ نے بہت سے جملے اس میں سے نکال ڈالے، ... یوسی میں نے اپنی تاریخ میں آریتوس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ متنی نے اپنی انجیل عبرانی میں لکھنی تھی“ رتو نے اپنی انجیل کی تاریخ میں لکھا ہے کہ :

”جو شخص یہ کہتا ہے کہ متنی نے اپنی انجیل یونانی میں لکھی تھی وہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ یونانی میں نے اپنی تاریخ میں اور مذہب عیسیٰ کے بہت سے رہنماؤں نے تصریح کی ہے کہ متنی نے اپنی انجیل عبرانی میں لکھی تھی نہ کہ یونانی میں“

نیز نورثن نے ایک ضخیم کتاب لکھی ہے، جس میں اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ تو ریت قسطی جعباً یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف نہیں ہے، اور انجیل کو بہت سی ستر لفافات کا اعتراف کرنے کے باوجود دلیل کیا ہے، اسی لئے اس کی بات عیساییوں کے نزدیک مقبول نہیں ہے، مگر جو نکم اپنے عیسائی ہونے کا دعی تھا، اور اس نے اس باب میں عیساییوں کے معبر متقد مین کے کلام کو نقل کیا ہے، اس لئے اس کے کلام کو نقل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، جنماں وہ اپنی کتاب مطبوعہ بوستان مکالمہ اعجلہ، ص ۲۵۷ کا کچھ دیا چکے حاشیہ میں یوں کہتا ہے کہ :

”لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ متنی نے اپنی انجیل عبرانی زبان میں لکھی تھی، کیونکہ جن متقد مین نے اس باب میں اشارہ کیا ہے وہ سب اس میں ایک زبان ہیں، میں اُن لوگوں کا ذکر حچھوڑتا ہوں جو زیادہ معبر نہیں ہیں، اور کہتا ہوں کہ پیاس اور اریتوس، آریجن، یوسی میں اور حیردم نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ انجیل عبرانی زبان میں لکھی گئی تھی ہستقد مین میں کوئی بھی اس کے خلاف نہیں کہتا، اور یہ بہت بڑی شہادت ہے، اس لئے کہ تھبت اس دور میں بھی ان لوگوں میں اسی درجہ میں تھا جس قسم کا آج متاخرین میں ستم کو نظر

آتا ہے، اس نے اگر آن کی بات میں ذرا بھی شک کی گنجائش ہوتی تو آن کے مخالفین تعصب کے ماتحت یہ کہہ سکتے تھے کہ یونانی انجیل اصل ہے، نہ کہ ترجمہ، کاش! ہم اس قدیم شہادت کو جو متفقہ ہے رد نہ کریں، جبکہ اس میں کوئی استحالہ بھی لازم نہیں آتا، اس نے ضروری ہے کہ ہم اعتقاد رکھیں کہ متشی نے اپنی انجیل عبرانی زبان میں لکھی تھی، اور میں نے آج تک کوئی اعتراض اس شہادت پر ایسا نہیں پایا جسکی وجہ سے تحقیق کی صورت ہوتی، بلکہ بجا ہے اعتراض کے متقدين کی شہادت اس امر کی نسبت پائی ہے کہ اس انجیل کا عبرانی نسخہ ان عیسائیوں کے پاس موجود تھا، جو یہودی نسل کے تھے، خواہ وہ محرف تھا یا غیر محرف؟

ان اقوال سے معلوم ہو گیا کہ متشی نے اپنی انجیل عبرانی زبان اور عبرانی حروف میں لکھی تھی اور اس پر متقدين کا اتفاق ہے، کوئی بھی اس کے خلاف ہمیں کہتا، اس نے اُن کی بات اس سلسلہ میں قول فیصل ہے، جیسا کہ ڈی آئلی اور رہ پر ڈمنٹ نے اس کا افترار کیا ہے، اور یہ امر بھی کہ عبرانی نسخہ جیردم کے زمانہ تک موجود بھی تھا اور مستعمل بھی، اور یہ بھی کہ مترجم کے نام کی تحقیق نہ ہو سکی، اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ہوتون کا گزارشہ مصنفوں کے اعتراض کے باوجود یہ کہنا کہ ”غالب یہ ہے کہ متنی نے اپنی انجیل دوزبانوں میں یعنی عبرانی اور یونانی میں لکھی تھی“، قابلِ التفات نہیں ہے، کیونکہ یہ بے دلیل اور محض قیاس ہے،

اور متقدين کے قول کی تائید اور تقویت اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ متشی حواری تھا، جس نے مسیح کے پیشتر حالات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، اور بعض یا نیں خود بلا اساطیحی تھیں، پھر اگر یہ اس انجیل کا مؤلف ہوتا تو کسی مقام پر تو یہ ظاہر ہوتا کہ وہ اپنے چشم دید واقعات بیان کر رہا ہے، کہیں تو اپنی نسبت مذکوم کا صبغہ استعمال کرتا، جیسا کہ متقدين اور متاخرین کی عادت چلی آرہی ہے، اور یہ طریقہ حواریوں کے زمانہ میں بھی جاری تھا، آپ اُن خطوط کو ایک نظر دیکھ جائے جو ہمدردی میں شامل ہیں، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ اُن کے لکھے ہوئے ہیں تو دیکھنے والے پر یہ بات منکشف ہو جائے گی، کیا آپ کی نظر سے تو قا کی تحریر نہیں گزری؟ اس نے ساری انجیل تو قا اور باب ۱۹ تک کتاب آعمال سماع سے

لکھی ہے، لیکن ان دونوں کتابوں سے یہ بات واضح نہیں ہوتی، اور وہ کسی جگہ اپنے کو متكلّم کے صیغہ سے تعبیر نہیں کرتا،

اس کے بعد حب وہ پوتس کے ساتھ شرکیب سفر ہو جاتا ہے اور کتاب آعمال کا باب ۲ لکھتا ہے تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں اپنے کو متكلّم کے صیغہ سے بھی تعبیر کرتا ہے، پھر اگر کوئی شخص مومنیؑ کی تورتیت سے اور یوحنا کی انجیل سے استدلال کرے تو یہ دونوں ہمارے نزدیک محلِ زراع ہیں، جیسا کہ باب اول میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے، اور ظاہر کے خلاف بغیر کسی مضبوط دلیل کے کیونکر استدلال کیا جا سکتا ہے، اور جبکہ مؤلف ثقہ ہو تو اس کی اپنی سخر جس سے یہ حالت ظاہر ہوتی ہے واجب الاعتبار ہے،

نیز ہمزی داسکات کی تفسیر کے جامعین کے کلام سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ انجیل قرون اولی میں متواتر نہیں تھی، اور اس دور میں عیسائیوں کے یہاں تحریف کا عام رواج تھا ورنہ ناممکن تھا کہ کوئی شخص تحریف کر سکے، اور اگر بالفرض تحریف واقع بھی ہوتی تو وہ اس کے ترک کا سبب نہ بنتی، پھر جب اصل کتاب تحریف سے نفع سکی تو ایسے میں کیا خیال کیا جا سکتا ہے کہ اس کا دہ ترجمہ جس کے مترجم کا بھی پتہ نہیں ہے تحریف سے بچ گیا ہو، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سب محرف ہیں،

چوتھی صدی عیسوی کا فرقہ مانی کیز کا مشہور عالم فاسٹس یوں کہتا ہے کہ:-
”جو انجیل مئی کی جانب منسوب ہے اس کی تصنیف ہرگز نہیں ہے“

پرد فیسر جرمی کا قول ہے کہ:-

”یہ پوری انجیل جھوٹ ہے“

اور یہ انجیل فرقہ مارسیونی کے پاس موجود تھی، مگر اس میں پہلے دو باب موجود نہ تھے، اس لئے یہ دونوں باب اُن کے نزدیک الحاقی ہیں، اسی طرح فرقہ آئیونیہ کے نزدیک بھی یہ دونوں ابواب الحاقی ہیں، نیز فرقہ یونیٹیس اور پادری اولیس نے اُن کو رد کیا اور لئے یعنی گر کوئی یہ کہے کہ تورتیت حضرت موسیؑ کی تصنیف ہے، مگر اس میں وہ اپنے لئے صیغہ متكلّم استعمال نہیں کرتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تورتیت کا حضرت موسیؑ کی تصنیف ہونا ہمیں تسلیم نہیں ۱۲

ان کا انکار کیا ہے، اسی طرح نورمن نے اس انجیل کے اکثر مقامات کا انکار کیا ہے، انجیل متن کے بایپ آیت ۲۳ میں ہے کہ:-

شانہ ۱۹ "اور ناچرہ نام ایک شہر میں جا بسا ہتا کہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا

وہ پورا ہوا، کروہ ناصری کہلاتے گا۔"

اس میں یہ الفاظ کہ "جونبیوں کی معرفت کہا گیا تھا" اس انجیل کے اغلاط میں سے ہی، کیونکہ یہ بات انبیاء کی مشہور کتابوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس موقع پر وہی بات کہتے ہیں جو علماء کی تھوڑے کے نے کہی ہے، کہ یہ بات انبیاء کی کتابوں میں موجود تھی، مگر یہودیوں نے ان کتابوں کو مذہب عیسوی کی دشمنی میں ضائع کر دیا،

ہم کہتے ہیں کہ تحریف بالقصان کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک فرقہ الہامی کتابوں کو محض اپنی نفسانی اغراض یا کسی مذہب کی دشمنی میں ضائع کر دے، ہمقوتوں کی تھوڑے کے نے ایک کتاب تالیف کی ہے جس کا نام "سوالات السوال" رکھا ہے، یہ لندن میں ۱۸۷۸ء میں چھپ چکی ہے، سوال نمبر ۲ میں مولف کہتا ہے کہ:-

"وہ کتاب میں جن میں یہ (یعنی متن کی نقل کردہ عبارت) موجود تھی مٹ گئیں، کیونکہ انبیاء کی موجودہ کتابوں میں سے کسی میں بھی یہ نہیں ہے کہ یعنی ناصری کہلاتیں گے" کریم اسٹم کی متنی جلد ۹ میں کہتا ہے کہ:-

"انبیاء کی بہت سی کتابیں مٹ گئی ہیں، کیونکہ یہودیوں نے اپنی غفلت کی وجہ سے ان کو ضائع کر دیا، بلکہ اپنی بد دیانتی کی وجہ سے بعض کتابوں کو پھاڑ دالا اور بعض کو جلا دالا۔ یہ بات بہت قرین قیاس ہے، ہجستس کا قول ملحوظ رکھتے، جس نے طائفوں سے مناظرہ میں کہا:-

"یہودیوں نے بہت سی کتب عہد قدیم سے خارج کر دیں تاکہ یہ ظاہر ہو کہ عہدِ جدید عہدِ عتیق کے ساتھ پورا موافق نہیں ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سی کتابیں مٹ گئیں" اس تقریر سے دو نتیجے نکلتے ہیں، ایک یہ کہ یہودیوں نے بعض کتابوں کو پھاڑ دالا، دوسرے یہ گذشتہ دور میں تحریف کرنا بہت آسان کام تھا،

دیکھئے کہ ان کے معدوم کر دینے سے یہ کتابیں صفحاتِ عالم سے قطعی مٹ گئیں، اور حسب

اہمی کتابوں کی نسبت اہل کتاب کی دیانتداری کا اندازہ ہو گیا، اور گذشتہ دو ریتیں تحریف کی ہیولتوں اور آسانیوں کا حال معلوم ہو گیا، تو عقلی یا نقلی طور پر کیا بعید ہے کہ انھوں نے ایسی کتابوں اور عبارتوں میں جو مسلمانوں کے لئے مفید بن سکتی تھیں اس قسم کی حرکت کی ہو؟

شاهر ۲۰ [انجیل مٹی باب ۱۰، آیت ۱۱] میں کہا گیا ہے کہ:-

"ادر گرفتار ہو کر باہل جلنے کے زمانے میں یوسیاہ سے یکوئی نہ اور اس

کے بھائی پیدا ہوتے ہیں"

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یکوئی نہ اور اس کے بھائی یوسیاہ کے صلبی بیٹے ہیں، اور یکوئی نہ کچھ بھائی بھی موجود تھے، اور ان کی پیدائش باہل کی جلاوطنی کے زمانہ میں ہوئی، حالانکہ یہ تینوں باتیں غلط ہیں، پہلی بات تو اس لئے کہ یکوئی نہ اسے بن یہو یا قیم بن یوسیاہ ہے، یعنی یوسیاہ کا پوتا ہے، نہ کہ بیٹا، دوسری اس لئے کہ یکوئی نہ اسے بن یہو یا قیم بن یوسیاہ ہے، اس کے باپ یہو یا قیم کے بیٹک تین بھائی تھے، تیسرا یہ اس لئے کہ یکوئی نہ اسے بن یہو یا قیم بن یوسیاہ ہے، باہل کی جلاوطنی کے در دران میں اٹھاڑہ سال کی عمر کا سختا نہ یہ کہ اس وقت وہ پیدا ہوا تھا، آدم کلارک کہتا ہے کہ:-

شما متحف نے کہا ہے کہ آیت اکو اس طرح پڑھنا چاہتے کہ "اور یوسیاہ کے یہو یا قیم اور اس کے بھائی پیدا ہوتے، اور یہو یا قیم کے یہاں باہل کی جلاوطنی کے زمانہ میں یکوئی نہ اسے بن یہو ہوا۔" ہم کہتے ہیں کہ کامتھ کا قول جو آدم کلارک کا بھی پسندیدہ ہے، اس کا حامل یہ ہے کہ اس قیم پر یہو یا قیم کا اضافہ ضروری ہے، گویا ان دونوں کے نزدیک یہ لفظ متن سے خارج کر دیا گیا ہو اور یہ تحریف بالقصان کی کھلی ہوئی مثال ہے، اس کے باوجود تیرا اعتراض رفع نہیں ہوتا۔ اب تحریف کی تینوں قسموں کی شہادتیں پوری ایک تسویہان ہو چکی ہیں، اس لئے تطویل کے اندریش سے ہم اسی مقدار پر اکتفاء کرتے ہیں، اس قدر یہ شمار شہادتیں تحریف کی تمام قسموں کے اثبات کے لئے بالکل کافی ہیں، اسی طرح اُن کی جانب سے واقع ہونے والے ہر اعتراض اسے بعد کے متوجہین باستبل لے اس اعتراض سے بھی بچنے کے لئے باہل پر کیا کرم فرمایا ہے، اس کی تفصیل پچھے صفحہ ۳۸۶ جلد اول کے حاشیہ پر ملاحظہ فرمائیے ۱۲

کے رفع کرنے کے لئے اور علماء پر ڈسٹنٹ کی جانب سے پیش کئے جانے والے ہر مغالطہ کو ختم کرنے کے واسطے یہ مقدار کافی ہے، اگرچہ باخبر اشخاص کے لئے ہماری تحریر سے ان مغالطے کے جوابات کا سمجھنا کچھ دشوار نہیں ہے، مگر مزید توضیح اور نفع کی خاطر ہم یہاں پانچ مقالے اور آن کے جوابات بیان کرتے ہیں ۔

مُغاَلَطَةُ الْأَرْأَنُ كَرَجَوَابَاتُ

پہلہ مُغاَلَطَة

بعض اوقات علماء پر ڈسٹنٹ کے بیان سے عوام کو دھوکہ دینے کے لئے اور ایسے لوگوں کو بہکلنے کے واسطے جن کو آن کی کتابوں کا حال معلوم نہیں ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تحریف کا دعویٰ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے، اس سے پہلے کسی نے تحریف کا دعویٰ نہیں کیا، مگر عیسائی اس مغالطہ کو تحریر میں لانے سے ہستیا طاکر تے ہیں، اسی لئے آن کے رسالوں میں یہ بات نظر نہیں آتے گی، ہم کہتے ہیں کہ مخالف اور موافق اگلے پچھلے بجا طور پر یہ دعویٰ کرتے چلے آتے ہیں کہ اہل کتاب تحریف کے عادی ہیں، اور یہ حرکت آن سے آسمان کتابوں میں ہوئی ہے، مگر ہم شہزادوں کے پیش کرنے سے پہلے آن دو الفاظ کے معانی واضح کرنا چاہتے ہیں جو آن کی آسناد و رجایل کی کتابوں میں مستعمل ہیں، یعنی لفظ "اراثۃ" اور لفظ "دیریں رید نک"

ہورن اپنی تفسیر جلد ۲ صفحہ ۳۲۵ میں کہتا ہے کہ:-

"لفظ آراثۃ" یعنی کاتب کی غلطی اور "دیریں رید نک" یعنی اختلاف عبارت کے درمیان بہترین فسروق ہے جو میکا ٹلس نے بیان کیا ہے، کہ جب دو یا تیارہ عبارتوں میں فرق ہو تو آن میں سے ایک ہی صحیح اور سچی بات ہو سکتی ہے، اور باقی یا تو جانی بوجھی تحریف ہو گی یا کاتب کی بھول، مگر غلط اور صحیح کی سچان اور تیز برداش شوار کا ہے،

اور اگر شک باقی رہ جائے تو اس کا نام اختلافِ عبارت رکھا جاتا ہے، اور جب صفحہ معلوم ہو جائے کہ کاتبے کے جھوٹ لکھا ہے تو اس کو کاتب کی غلطی کہدا جاتا ہے۔ ”غرضِ محققین کے راجح مسلک کے مطابق دونوں الفاظوں میں بڑا فرق ہے، اور ان کی اصطلاح میں اختلافِ عبارت کا جو مصدقہ ہے ہماری اصطلاح کے مطابق وہی تحریف ہے، اب جو شخص مذکورہ معنی کے نحاظ سے اختلافِ عبارت کا اقرار کرتے گا اُس پر تحریف کا اعتراف لازم آئے گا،

اب اس قسم کے اختلافات کی تعداد انجیل میں میل کی تحقیق کے مطابق تین ہزار اور کریستیا خ کی تحقیق کے مطابق ایک لاکھ پچانص ہزار ہے، سبے آخری محقق شولز کی راستے میں تو ایسے اختلافات کی تعداد آن گنت اور زامعلوم ہے، انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۱۹ میں لفظ ”اسکرچیپر“ کے تحت دشمن کا قول نقل کیا ہے کہ یہ اختلافات دس لاکھ سے زائد ہیں،

یہ معلوم ہو جاتے کے بعد اب ہم تین ہدایات میں اس تفصیل سے شہادتیں پیش کریں گے کہ پہلی ہدایت میں مخالفین کے اقوال بیان کریں گے، اور دوسری میں ان فرقوں کے بیانات جو اپنے کو عیسائی شمار کرتے ہیں، اگرچہ فرقہ پر دلستہ اور کیتھولک دالے ان کو بدعتی کہتے ہیں، تیسرا میں ان اشخاص کے اقوال ہوں گے جو دونوں فرقوں کے یہاں یا کسی ایک کے یہاں مقیول ہیں،

پہلی ہدایت

سلوٹس دوسری صدی عیسوی کا ایک بُٹ پرستِ مشرق عالم ہے جس نے نہیں عیسوی کے ابطال میں ایک کتاب لکھی، ہر ایک مشہور حبر منی عالم آہماں نے اس مشرق عالم کا قول اپنی کتاب میں یوں نقل کیا ہے:-

”عیسائیوں نے اپنی انجیلوں میں تین بار یا چار مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ ایسی تبدیلی کی جس سے ان کے مفہامیں بدل گئے“

غور کیجئے کہ یہ شرک خبر دے رہا ہے کہ اس کے ہمدرت کے عیسائیوں نے اپنی انجلیوں کو چار مرتبہ سے زیادہ بدل لایا ہے، اور یورپ کے مالک میں ایک کثیر انتعداد فرقہ وہ ہے جو ثبوت دالہم اور آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا، اور جن کو عملاء پر دشمنت ملحد اور بردین کہتے ہیں، اگر ہم تحریف کی نسبت صرف اُن کے اقوال کو نقل کرنا چاہیں تو بات بڑی طویل ہو جائے گی، اس لئے صرف دو اقوال نقل کرنے پر اتفاقاً کرتے ہیں، جن صاحب کو ان سے زیادہ معلوم کرنے کا شوق ہو، اُن کو اُن کی کتابوں کی جانب مراجعت کرنی چاہئے، جو اطرافِ عالم میں بھیل پڑی ہیں اُن میں سے ایک عالم پاک کر نامی یون ہوتا ہے کہ:-

”پر دشمنت مذہب یہ کہتا ہے کہ ازلی ابدی مجرمات نے ہمدرتیں وجدید کی حفاظت اس درجہ کی کہ ان دونوں کو ادنیٰ اور خیافت صدر میں سے بھی بچا لیا، مگر اصل سسلہ میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ اختلاف عبارت کے اس شکر کے مقابلہ میں ٹھہر سکے جس کی تعداد تیس ہزار ہے“

غور کیجئے کہ اس نے کس خوب صورتی سے اسہزار کے پڑے میں الزامی دلیل پیش کی ہے، مگر اس نے صرف میل کی تحقیق پر اتفاقاً کیا ہے، درنہ بجاتے تیس ہزار کے ایک لاکھ پچاہیں بزرگ بلکہ دس لاکھ بھی کہہ سکتا تھا،

اکسی ہومو کا مؤلف اپنی کتاب مطبوعہ ۱۸۷۴ء لندن کے تترہ کے بارہ میں کہتا ہو کہ:-
”یہ اُن کتابوں کی فہرست ہے جن کی نسبت متقدمین عیسائی مشائخ نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ عینی علیہ السلام یا اُن کے حواریوں یاد دسکر مریدوں کی جانب منسوب ہے“

دہ کتب جو عیسیٰ علیہ السلام کی (۱) وہ خط جو آذیت کے بادشاہ ایکرنس کو بھیجا گیا،
جانب منسوب ہیں مکمل ست آیا ہے، (۲) وہ خط جو بطرس اور پولس کو بھیجا گیا،

(۳) کتاب التمثیلات والوعظ (۴) وہ زبور، جس کی تعلیم آپ اپنے حواریوں اور مریدوں کو خفیہ طور پر دیکرتے تھے، (۵) کتاب الشجدات والسر (۶) کتاب مسقط راس ایحیٰ والمریم و نظریہ، (۷) اُن کا وہ رسالہ جو بھیٹی صدی عیسوی میں آسمان سے گرا یا گیا،

سلہ PARKER سلہ کریتباخ کی تحقیق کے مطابق، سلہ انسائیکلو پیڈیا بریانیکا کے مطابق،

وہ کتب جو مریم علیہ السلام کی (۱) اُن کا وہ خط جو انہوں نے آنٹشس کی طرف بھیجا،
قرآن مسوب ہیں مگل آٹھ ہیں، (۲) اُن کا وہ خط جو سیلیان کو بھیجا گیا، (۳) کتاب مسقط
راس مریم (۴) کتاب مریم و نظر ہار (۵) مریم کی تایخ اور ان کے اقوال (۶) کتاب تمجذبات
میسح رئے، کتاب السوالات الصغار والکبار (۷) کتاب نسل مریم والختام اسلامی،
وہ کتب جو پطرس حواری کی جانب (۸) انجیل پطرس (۹) اعمال پطرس (۱۰) مشاہدات پطرس
مسوب ہیں مگل گیارہ عدد ہیں، (۱۱) مشاہدات پطرس دوم (۱۲) اس کا خط جو کلیمنس کی جانب
ہے (۱۳) مباحثہ پطرس دای پین رئے، (۱۴) تعلیم پطرس (۱۵) دعیت پطرس (۱۶) آداب صلاۃ پطرس
(۱۷) کتاب مسافرت پطرس (۱۸) کتاب قیاس پطرس،
وہ کتابیں جو یوحنا کی جانب (۱۹) اعمال یوحنا، (۲۰) یوحنا کی انجیل (۲۱)، کتاب مسافرت یوحنا،
مسوب ہیں مگل ۹ عدد ہیں، (۲۲) حدیث یوحنا (۲۳) اس کا خط جو حیدر دیک کی جانب ہے،
(۲۴) کتاب دفاتر مریم رئے، میسح کا تذکرہ اور آن کا سولی سے اترت نار، (۲۵) المشاہدات الثانية
یوحنا (۲۶) آداب صلاۃ لیو یوحنا،
وہ کتابیں جو اندر رائس حواری کی (۲۷) انجیل اندر ریاس،
جانب مسوب ہیں مگل ۲ عدد ہیں، (۲۸) اعمال اندر ریاس،
وہ کتابیں جو متھی حواری کی (۲۹) انجیل الطفویلت،
جانب مسوب ہیں مگل ۲ عدد ہیں (۳۰) آداب صلاۃ متھی،
وہ کتب جو فیلپس حواری کی (۳۱) انجیل فیلپس،
جانب مسوب ہیں مگل ۲ عدد ہیں (۳۲) اعمال فیلپس،
وہ کتاب جو برلنگٹنی حواری کی جانب مسوب ہے وہ ایک ہے (۳۳) انجیل برلنگٹنی،

لئے اندر ریاس یا اندر راؤس (ANDREAS) یا وہ حواریوں میں سے ایک اور مشہور حواری پطرس کے بھائی
ہیں ان کا ذکر متھی ۲:۸ اور اعمال ۱:۳ میں دیکھا جا سکتا ہے، عیسائی روایات کے مطابق آپ کو دو لکڑیوں پر
بیشکل رہا (شہید کر دیا گیا ہی، اس لئے یہ صلیب اندر راؤس کہلاتی ہی، لئے برلنگٹنی یا برلنگٹنی ۱:۱۰ اور
یارہ حواریوں میں کی ایک کہتے ہیں کہ ہندستان میں تبلیغ عیسائیت انہوں نے ہی کی ہے، ان کا ذکر متھی ۱:۳ اور

وہ کتب جو توانا حواری کی جانب | (۱) انجیل توانا (۲) اعمال توانا (۳) انجیل طفویل مسیح ،
غسوب ہیں کل ۵ عدد ہیں ، | (۲) مشاہدات توانا (۴) کتاب مسافر توانا ،
وہ کتاب ہیں جو لیعقوب حواری کی | (۱) انجیل لیعقوب (۲) آداب صلاۃ لیعقوب
جانب منسوب ہیں کل ۳ عدد | (۳) کتاب وفات مریم ،

وہ کتاب ہیں جو متیا گہ حواری کی طرف منسوب ہیں | (۱) انجیل متیا (۲) حدیث متیا ،
رجو خبر مسیح کے بعد حواریوں میں شامل ہر اتحاد کل ۳ عدد ، | (۳) اعمال متیا ،

وہ کتب جو مرقس کی جانب | (۱) انجیل مصریین ، (۲) آداب صلاۃ مرقس ،
منسوب ہیں کل ۳ عدد ، | (۳) کتاب پیشند رہا ز ،

وہ کتاب ہیں جو بر تباش کی جانب | (۱) انجیل بر نباس ،
منسوب ہیں کل ۲ عدد ، | (۲) رسالہ بر نباس ،

وہ کتاب جو تہودیشن کی جانب منسوب ہیں کل ایک عدد | (۱) انجیل تہودیشن ،

وہ کتب جو پولس کی جانب | (۱) اعمال پولس (۲) اعمال ہر کار (۳) اس کا خط لارڈ قیس کی
جانب (۴) تھسلتیکیوں کے نام در سراخط (۵) کرن تھیوں کے نام
منسوب ہیں کل ۵ عدد

عیسیٰ را خط (۶) کرن تھیوں کا خط اس کی جانب اور اس کی طرف سے جواب (۷) اس کا رسالہ
سینیکا کی جانب اور سینیکا کا جواب اس کی جانب (۸) مشاہدات پولس (۹) مشاہدات

پولس (۱۰) در زن پولس (۱۱) انبیٰ کش پولس ، (۱۲) انجیل پولس ، (۱۳) دعاظ پولس ،

(۱۴) کتاب رقیۃ النجۃ (۱۵) پیری بست پطرس و پولس ،

لہ توانا، یہ سبھی حواریین سے ہیں، ہندستان میں عیسائیوں کی تبلیغ میں ان کا بڑا کردار ہے ۱۲

لہ یہ وہی تھی ہیں جن کے نام میں انجیلوں کا اختلاف ہی، اور جو محصول بر میٹھے تھے تو حضرت مسیح نے انھیں
دعوت ری تھی (متی ۹:۹) تفصیل کے لئے دیکھئے صفحہ ۳۳۵ جلد اول ،

لہ بر تباہ یا بر نباس BAWABAS ایک تابعی ہیں جو لاوی خاندان کے تھے اور ان کا نام یوقت
تحا انھوں نے کھیت بیچ کر اس کی تیمت تبلیغی مقاصد میں صرف کرنے کے لئے حواریوں کو دیدی تھی، اس لئے

انھوں نے ان کا نام بر نباس رکھا، جس کے معنی (صیحت کا بیٹا) ہیں، دیکھئے اعمال ۱:۳۶

چھرائیں ہم کا مصنف کہتا ہے کہ:-

جب انخلیوں اور مشاہدات اور ان رسالوں کی جو آجتندا کثر عیسائیوں کے نزدیک مسلمانوں
میں بے اعتدالی نہیاں ہر تو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ الہامی کتابیں وہی ہیں جن کو فرقہ
پروٹستنٹ تسلیم کرتا ہے، اور جب ہم اس چیز پر پیش نظر رکھیں کہ ان سلمکتابوں میں
بھی طباعت کی صنعت ایجاد ہونے سے قبل الحاق اور تبدیلی کی گنجائش اور صلاحیت
تحقیقی تو مشکل پیش آتے گی۔“

دوسری ہدایت

فرقہ آئیورنیہ مسیحی فتنہ اول کافر قہے، جو پولس کا ہم عصر اور اس کا سخت مخالفت
ہے، یہاں تک کہ اس کو مرتد کہتا ہے، یہ فرقہ متی کی انخلیں کو تسلیم کرتا ہے، مگر اس کے نزدیک
یہ انخلیں اس انخلی کے قطعی مخالفت ہے جو پولس کے معتقدین کے نزدیک متی کی جانب نہ سوپ ہی
اور اس میں ابتدائی دو باب بھی موجود نہ تھے، اس لئے اس فرقہ کے نزدیک یہ دونوں باب
اور اس طرح دوسرے بہت سے مقامات محرف ہیں، اور پولس کے معتقدین اس پر تحریف
کا اتزام لگاتے ہیں، چنانچہ میں اپنی تاریخ میں اس فرقہ کا اعلیٰ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:-
یہ فرقہ عہد عقیق کی کتابوں میں صرف توریت کو تسلیم کرتا ہے، اور داؤد، سلیمان و ارمیا و
حرقیل کے نام سے بھی نفرت کرتا ہے، اس کے نزدیک عہد جدید میں صرف متی کی انخلیں
لاتین تسلیم ہے، مگر اس نے بہت سے مقامات میں اس کو بھی بدلتا ہے، اور اس کے
پہلے دو باب اس سے خارج کر دیتے ہیں۔“

فرقہ مارسیونیہ عیسائیوں کا قریبیم بدعتی فرقہ ہے، جو عہد عقیق کی تمام کتابوں کا انکار کرتا
ہے اور کہتا ہے کہ یہ الہامی نہیں ہیں، اور اسی طرح عہد جدید کی کتابوں میں سواتے لوقا
کی انخلیں اور پولس کے دنیل رسالوں کے باقی سب کا انکار کرتا ہے، اور اس کی میسلک انخلیں
بھی اس انخلی کے مخالفت ہے جو آجھل موجود ہے، اس بناء پر بھی آجھل جس قدر کتابیں
ان ناموں سے موجود ہیں اس فرقہ کے نزدیک سب محرف ہیں، اور اس کے مخالفت تحریف کا

الزام اس پر عائد کرتے ہیں، چنانچہ بل ہی اپنی تایخ میں اس فرقہ کے حالات بیان کرتے ہوتے ہے کہ:-

”یہ فرقہ عبد عتیق کی کتابوں کے الہامی ہونے کا انکار کرتا تھا، اور عبد حید میں صرف توقاکی انجیل کو تسلیم کرتا تھا، اور اس کے بھی اول کے دو باب کو نہیں مانتا تھا، اسی طرح پوس کے صرف دش رساوں کو تسلیم کرتا تھا، مگر اس کی بہت سی باتیں جو اس کے خیال کے موافق نہ تھیں ان کو رد کر دیتا تھا۔“

ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف توقاکے دو باب ہی کا منکر نہ تھا، لارڈ نرنے اپنی تفسیر کی جلدہ میں توقاکی انجیل میں اس فرقہ کی تحریف کے سلسلہ میں کہا ہے کہ:-

”توقاکی انجیل کے بعض وہ مقامات جن میں ان لوگوں نے تبدیل یا حذف کیا ہے اول کے دو باب میں اور عیسیٰؐ کا سمجھنی کو اصطیاغ دینے کا واقعہ اور مسیحؐ کے نسب کا حال با۔ میں اور ابلیس کے امتحان اور عیسیٰؐ کے ہیکل میں داخل ہونے کا واقعہ اور ان کا اشعار کی کتاب کو پڑھنا با۔ میں، اور آیات ۳۰، ۳۲، ۳۱، ۳۹، ۴۰، ۵۰ وہ بابل میں، اور بابل کی آیات ۶۷، ۶۸، باب ۵ اکی آیات ۱۱ تا ۳۲ اور باب ۸ اکی آیات ۱۳ تا ۲۳ و ۲۴، باب ۹ اکی آیات ۲۰ تا ۲۸ بابل کی آیات ۱۸ تا ۲۹ اور باب ۲۱ کی آیت ۸، ۲۳، ۲۱ اور باب ۲۲ کی آیات ۲۷ تا ۳۳ بابل کی آیات ۲۰، ۲۱، ۲۲ اور باب ۲۳ کی آیت ۳۲ اور باب ۲۴ کی آیت ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ ایسی فیلس نے یہ تمام تفصیل لکھی ہے، اور ڈاکٹر میں کا قول ہے کہ انہوں نے باب ۹ کی آیت ۳۸ و ۳۹ سمجھی نکال ڈالی ہیں۔“

لارڈ نرنے اپنی تفسیر کی جلد ۳ میں فرقة مانی گئی کے حالات کے ذیل میں آگے طائیں کے حوالہ سے فاسد کا قول نقل کیا ہے، جو جو تھی صدی میں اس فرقہ کا سب سے بڑا عالم گزر ہے، وہ کہتا ہے کہ:-

”لہ دیکھنے صفحہ ۲۱۲ جلد اول ۳۰۰ دیکھنے صفحہ ۳۹ جلد اول ۳۰۰ دیکھنے صفحہ ۳۲۵ جلد اول،

فاسٹس کہتا ہے کہ میں ان چیزوں کا قطعی منکر ہوں جن کو تمھارے باپ دادل نے ہمدرج بڑے میں فریب کاری سے بڑھایا ہے، اہداں کی حسین صورت کو بھونڈا بنا دیا ہے، اس لئے کہ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچنی ہوتی ہے کہ اس ہمدرج بڑے کو نشیخ نے تصنیف کیا ہے اور نہ حواریوں نے، ایک مجھوں الاسم شخص اس کا مصنف ہے، مگر حواریوں اور ان کے ساتھیوں کی جانب اس خوف سے منسوب کر دیا گیا ہے کہ لوگ اس کی سحر ریکو اس لئے غیر معتر قرار دیں گے کہ یہ شخص جن حالات کو لکھ رہا ہے ان سے خود واقع نہیں، اور عینیم کے مردین کو بڑی سخت اذیت پہنچائی، اس طور پر کہ ایسی کتابیں تالیف کیں جن میں غلطیاں اور تباہیں پائے جاتے ہیں ॥

غرض اس فرقہ کا عقیدہ ہمدرج بڑے کی نسبت یہ ستحاب جو بیان کیا گیا، جیسا کہ اس کی تصریح ان کے مشہور فاضل نے کر دی ہے، یہ شخص بڑے زور سے علی الاعلان کہتا ہے کہ عیسائیوں نے بہت سی چیزوں میں ہمدرج بڑے میں داخل کر دی ہیں، اور یہ ایک مجھوں الاسم آدمی کی تصنیف ہے، نہ تو حواریوں کی تصنیف ہے نہ اُن کے تابعین کی، نیز اس میں اختلاف اور تناقض بھی پائے جاتے ہیں،

یہ بات قسم کھا کر کبھی جا سکتی ہے کہ اس فاضل کا شمار اگرچہ برعکس فرقہ میں ہے، مگر وہ اپنے ان تینوں دعووں میں سچا ہے،

ٹورٹن نے ایک ضخم کتاب تصنیف کی، جس کا تذکرہ مقصد ۳ شہادت نمبر ۸۱ میں آچکا ہے، اس نے بھی تورتیت کا انکار کرتے ہوئے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف نہیں ہے، اور انجیل کو تسلیم کیا ہے مگر اس اعتراف کے ساتھ کہ جواں جیل متشی کی طرف منسوب ہر یہ اس کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ ہے، اور اس کے بہت سے مقامات میں نقینی تحریف واقع ہوتی ہے، لپنے دعوے کو دلائل سے ثابت کرنے کے لئے اس بات کو کافی طویل کر دیا ہے،

ان دونوں ہدایتوں سے یہ بڑا واضح ہو گئی کہ مخالفین اور عینیمی فرقہ جنکو تبلیغ پرست طبقہ برعکس شمار کرتا ہے پہلی صدی یہیکراں صدی سکنی نجع کی چوتھا اعلان کرتے آرہی ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہوتی ہے،

تیسرا ہدایت

اس میں ہم محترم عیسائی مفسرین اور موّخین کے اقوال نقل کرسیں گے:-

آدم کلارک آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلدہ صفحہ ۳۶۹ میں کہتا ہے کہ:-

”یہ طریقہ پرانے زمانہ سے چلا آ رہا ہے کہ بڑے لوگوں کی تاریخ اور حالات بیان کرنے والے بہت ہوتے ہیں، یہی حال ”رب“ کا ہے، یعنی ان کی تاریخ بیان کرنے والے بھی بے شمار ہیں، مگر ان کے اکثر بیانات غلط ہیں، یہ بے تبادلہ واقعات کو اس طرح لکھا کرتے تھے مگر یادہ یقینی واقعات ہیں، اور انہوں نے دوسرے حالات میں بھی عمدًا یا ہمہ اغلفطیاں کیں، خاص طور پر اُس سرز میں کے موّرخ جہاں لوگانے اپنی انجیل یکھی تھی۔ اسی لئے روح القدس نے مناسب بمحاذہ کو تو حتم حالات و واقعات کا صحیح علم دے، تاکہ دینداروں کو صحیح حال معلوم ہو سے“

اس مفسر کے اقرار سے تو قاکی انجیل سے قبل ایسی جھوٹی انجیلوں کا پایا جانا معلوم ہو گیا جو غلطیوں سے بھری پڑی تھیں، اس کے یہ الفاظ کہ ”لکھا کرتے تھے“، ”الز مولعین کی بد دیانتی پر دلالت کر رہا ہے، اس طرح اس کا یہ کہنا کہ“ اور دوسرے حالات میں بھی عمدًا یا ہمہ اغلفطیاں کیں“ یہ بھی ان کی بد دیانتی پر دلالت کر رہا ہے،

پوس کا قول اگلتوں کے نام پوکس کے خط باب اذل آیت ۶ میں ہے کہ:-

”میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمھیں متیع کے فضل سے بلا یا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمھیں گھبرا دیتے ہیں، اور متیع کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں“

”له غالباً رب“ یعنی علماء یہود مراد ہیں،

”له“ ہم درجہ کی کتابوں میں اکثر انجیل کو ”خوشخبری“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ انجیل عبرانی زبان میں خوشخبری ہی کو کہتے ہیں ۱۲ نقی

دیکھئے عیسائیوں کے اس مدرس شخص کے کلام سے تین باتیں ثابت ہوئیں، اذل یہ کہ یہ حواریوں کے زمانہ میں ایک انجیل ایسی موجود تھی جو انجیل مسیح کے نام سے مشہور تھی، نیز یہ کہ ان کے مقتضی عہد میں ایک ایسی انجیل تھی جو سیخ کی انجیل کے مخالف تھی، تفسیرے یہ کہ تحریف کرنے والے مقدس پوس کے زمانہ میں بھی سیخ کی انجیل میں تحریف کے درپرے رہتے تھے، دوسرے زمانوں کا تو کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد تو عنقاہ کی طرح صرف اس کا نام ہی باقی رہ گیا ہے،

آدم کھلارک اپنی تفسیر کی جلد ۲ میں اسی مقام کی شرح کرتے ہوئے ہم تاہم کہے کہ :-

”یہ بات محقق ہے کہ بہت سی جھوٹی انجیلوں ابتدائی سمجھی صدیوں میں رواج پاچکی تھیں ان جھوٹی اور غیر صحیح واقعات کی کثرت نے تو قاکو اس انجیل کے لکھنے پر آمادہ کیا، اس قسم کی ۰۷ سے زیادہ جھوٹی انجیلوں کا ذکر پایا جاتا ہے، جن کے بہت سے اجزاء آج بھی موجود اور باقی ہیں، فیرتی سیوس نے ان تمام جھوٹی انجیلوں کو جمع کر کے ان کو تین جلدیوں میں طبع کیا، ان میں سے بعض میں شریعت موسوی کی اطاعت کا وجہ ہونا، ختنہ کا ضروری ہونا، انجیل کی اطاعت کا وجہ ہوتا بیان کیا گیا ہے، اور حواری کا اشارہ ان میں کسی ایک انجیل کی طرف معلوم ہوتا ہے“

اس مفسر کے اقرار سے معلوم ہوا کہ ان جھوٹی انجیلوں کا وجود واقع کی انجیل اور گلکنیوں کے نام خط لکھنے سے قبل تھا، اسی لئے مفسر نے پہلے کہا کہ ”ان واقعات کی کثرت نے“ الہ آسی قسم کی بات آدم کھلارک نے اپنی تفسیر میں کی ہے، نیز اس تھے جو کہہا ہے کہ ”حواری کا اشارہ ان میں سے کسی ایک جانب معلوم ہوتا ہے“، اس سے ثابت ہوا کہ مقدس پوس کے کلام میں انجیل کا مصداق ایک باقاعدہ مدقائق انجیل ہے، نہ کہ اس کے معانی و مضامین جو صفت کے ذہن میں جمع ہیں، جیسا کہ علماء پر ڈسٹریٹ اکٹر کہرتے ہیں،

انجیل مسیح پوس کے کلام سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حواریوں کے زمانہ میں ایک انجیل تھا انجیل موجود تھی، جو انجیل مسیح کملاتی تھی، یہی بات درحقیقت صحیح ہے، اور قرین قیاس بھی ہے، ایکھارن نے بھی اسی کو پسند کیا ہے، اور بہت سے جرمی علمانے بھی، اسی طرح محقق لیکھر ک اور کوب اور میکا ملس اور بنسنگ اور نیر و سارش کے

نہ دیکھی بھی یہی بات درست ہے،

تیسرا قول آگر تھیوں کے نام دوسرے خط کے باب آیت ۱۲ میں پولس لکھتا ہے کہ:-

”یعنی جو کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا تاکہ موقع ڈھونڈ ہئے واپس کو موقع نہ دوں، بلکہ جس بات پر وہ خر کرتے ہیں اس میں ہم ہی جیسے نکلیں گے، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغabaزی سے کام کرنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہمشکل بنایتے ہیں“

دیکھئے عساکر کا مقدس پکار پکار کر کبھر رہا ہے کہ اس کے عہد میں جھوٹے پیغمبر اور مکار کا کن نمایاں ہو گئے ہیں، اور شکل و صورت مسیح کے رسولوں کی بنائی ہے، آدم کلا رک اس مقام کی شرح کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں کہتا ہے کہ:-

”یہ لوگ بالکل جھوٹ مسیح کے رسول ہوئے کا دعویٰ کرتے تھے، حالانکہ واقع میں وہ مسیح کے رسول نہ تھے، یہ لوگ دعظی بھی کہتے تھے اور ریاضتیں بھی کرتے تھے لیکن ان کا مقصد جلب منفعت کے سوا کچھ نہ تھا“

یوحنہ کا قول یوحنہ کے پہلے خط باب ۲ آیت ۱۰ میں ہے کہ:-

”لے عزیز دا! ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ

وہ خدا کی طرف گئے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں“

لیکھئے یوحنہ حواری بھی پولس کی طرح پکار کر کبھر رہے ہیں کہ ان کے زمانہ میں بہت سے پیغمبری کے جھوٹے دعویدار ظاہر ہو گئے ہیں، آدم کلا رک اس مقام کی شرح میں کہتا ہے:-

”گذشتہ زمانہ میں ہر معلم یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ روح القدس مجھ کو الہام کرتا ہے، کیونکہ

ہر محترم رسول اسی طرح ہوا ہے، اور ”روح“ سے مراد اس مقام پر وہ انسان ہو جو دعویٰ

کرتا ہے کہ میں روح کا اثر ہوں، اور اس کے کہنے کے مطابق اس کی یہ بات سمجھ لیجئے کہ

”روحوں کو آزماؤ“ یعنی ایسے معلین کا دلیل سے امتحان لو، اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ تبہتے

جھوٹے نبی“ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو روح القدس نے الہام نہیں کیا بالخصوص

یہ روپوں میں سے ۶۷

غرض مفسر مذکور کے کلام سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ گذشتہ دور میں ہر معلم الہام کا دعویدار ہوتا تھا، اور اس کی گذشتہ تعریر سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کا سیاح کے کے پیچے رسولوں کے مشاہب بن کر اور مکروہ فریب کرنے کا منشاء مخصوص حصولِ وال و جلب متفق تھا، اس لئے الہام دسخیری کے دعوے دار ہے شمار تھے،

پانچواں قول | جس طرح توریت کے نام سے پانچ کتابیں موسیٰؑ کی جانب منسوب ہیں اسی طرح ۶ کتابیں اور بھی آن کی جانب منسوب ہیں، آن کی

تفصیل یہ ہے:

نمبر ۱، کتاب المشاهدات، نمبر ۲، کتاب پیدائش صغير، نمبر ۳، کتاب المراج، نمبر ۴، کتاب الاسرار، نمبر ۵، تسمیت، نمبر ۶، کتاب الافتخار، ان میں سے دوسری کتاب عبرانی زبان میں چوتھی صدی عیسوی تک موجود تھی جس سے جریدم اور سید و میں نے اپنی تاریخ میں بہت کچھ نقل کیا ہے، آریجن کہتا ہے کہ، ”پوتس نے اس کتاب سے اپنے گلتوں کے نام خط کی آیت نمبر ۶ باب ۵ اور آیت ۵ باب ۶ میں نقل کی ہے، اور اس کا ترجمہ سولھویں صدی تک موجود تھا، اس صدی میں ٹرنٹ کی مجلس نے اس کو جھوٹا فتوار دیدیا، اور اس کے بعد وہ جھوٹا درجی رہا، ہمیں آن کے ایک ہی چیز کو تسلیم کرنے پر اس کو جھوٹا فتوار دینے پر حیرت ہوتی ہی کہ آن کے نزدیک الہامی کتابوں اور ملکی اور سیاسی انتظامات کی ایک سی پوزیشن ہے، جب کوئی مصلحت ہوتی ہے تو ایک چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں اور جب چاہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں، ان میں سے تیسرا کتاب کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ وہ متقد مین کے نزدیک معترض تھی، لارڈ نر اپنی تفسیر کی جلد ۲ صفحہ ۱۲ میں کہتا ہے کہ:-

”آریجن کا کہنا ہے کہ یہودا نے اس کتاب سے لپٹے خط کی آیت ۹ نقل کی ہے“

اب یہ کتاب بھی اور باقی دوسری کتابیں بھی جعلی اور محرّف شمار ہوتی ہیں، مگر عجیب تماشا ہو کہ وہ فقرے جو آن سے نقل کئے جا چکے ہیں انہیں میں داخل ہونے کے بعد الہامی اور صحیح شمار کئے جا رہے ہیں، ہورن کہتا ہے کہ:-

"خیال یہ ہے کہ یہ جعلی کتابیں مذہب عیسیٰ کے آغاز ہی میں گھڑی گئی تھیں، اس حقنے لے گھڑنے کی نسبت قرن اول کے لوگوں کی جانب کی ہے۔"

مشیم موڑ کا اعتراف تو شیم موڑ خ اپنی تاریخ مطبوعہ ۱۸۲۳ء جلد اصفحہ ۶۵ میں دوسری صدی کے علماء کے حالات بیان کرتے ہوئے

کہتا ہے کہ:-

"افلاطون اور فیشا غورس لئے کے عقیدہ پر چلنے والوں میں ایک معقول مشہور تھا کہ سچائی بڑھانے اور خدا کی عبارت کے لئے جو جھوٹ اور فریب کئے جائیں وہ نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ لائق تھیں ہیں، سب سے پہلے ان لوگوں سے مقرر کے یہودیوں نے یہ بات قبل مسیح کے دور میں خستیار کی، جیسا کہ بہت سی قدیم کتابوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، پھر یہ ناپاک غلطی ان سے عیسائیوں میں منتقل ہو گئی، چنانچہ اس کا مشاہدہ ان بہت سی کتابوں سے ہوتا ہے جو بڑے لوگوں کی طرف جھوٹ منسوب کر دی گئی ہیں ۷۴ پھر جب ایسا جھوٹ اور فریب دہی یہودیوں کے یہاں دینی مسحتاں میں شمار ہونے لگے اور دوسری صدی میں یہی بات عیسائیوں کے یہاں رواج پائی، تو پھر جعل دخیریت اور جھوٹ کی کوئی حد باقی رہ سکتی ہے؛ لہذا جو کرنا تھا وہ کر گز رے،

والشن اور یوسی میں یوسی میں اپنی تاریخ کی کتاب رابع باب ۱۱ میں یوں کہتا ہے کہ "جشن شہید نے طریقوں یہودی کے مقابلہ میں مسیح کی بہت سی بشارتیں نعتیں کی ہیں، اور دعویٰ کیا ہے کہ یہودیوں نے اُن کو کتب مقدّسے سے خارج کر دیا ہے ۷۵

لہ افلاطون ۱۸۲۵ء، مشہور یونانی فلسفی جو سقراط کا شاگرد اور ارسطو کا استاد تھا اس کی کتابیں جمہوریت اور سیاست پر مشہور ہیں، (پنجم قم ۱۸۲۳ء قم ۱۲)

لہ فیشا غورس (HAGONE) ۱۸۲۴ء، مشہور یونانی فلسفی جس کی طرف علم حساب کی تدوین منسوٰ ہو، آداؤن کا قائل تھا، نسلی میں دفات پانی ۱۲ تھیں

لہ اخبار الحق کے انگریزی ترجیح میں یہاں یوسی میں "کے بجائے" یوسیف "کا حوالہ ہے ۷۶

وائلسن جلد ۲ صفحہ ۳۲ میں کہتا ہے:-

”مجھ کو اس امر میں ذرا بھی شک نہیں کہ وہ عبارت میں جس میں جشن یہودی تے طریقہ کے ساتھ مناظرہ میں الزام دیا ہے کہ یہودیوں نے ان کو خارج کر دیا ہے، جشن اور آئینوں کے زمانہ میں عربانی اور یونانی نہجوں میں موجود اور کتاب مقدس کا جزو تھیں اگرچہ ان دونوں نہجوں میں آج موجود نہیں ہیں، بالخصوص وہ عبارت جس کی نسبت جشن نے کہا کہ وہ کتاب یہ میاہ میں موجود تھی، سلبر جنس نے جشن کے حاشیہ میں اور ڈاکٹر کریب نے آئینوں کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ پطرس نے جس وقت اپے پہلے خط کے باب ۳ آیت ۶ کی عبارت لکھی ہے اُس وقت یہ بشارت اس کے پیشِ نظر تھی ہے“

ہورن اپنی تفسیر کی جلد ۳ میں صفحہ ۶۲ پر لکھتا ہے کہ:-

جشن شہید نے (یہودیوں کے مقابلہ میں) یہ ثابت کر دیا تھا کہ عزرا نے لوگوں سے یہ جملہ کہا تھا کہ ”عید فتح کا جشن ہمارے مجھی خداوند کا جشن ہے، اگر تم خداوند کو اس کے جشن سے افضل سمجھو گے اور اس پر ایمان لاوے گے تو زمین ہمیشہ آباد رہے گی، اور اگر تم ایمان نہ لائے اور اس کی بات نہ سنی تو غیر قوموں کے لئے ہنسی مذاق بن جاؤ گے“

وائیٹر کا خیال ہے کہ یہ عبارت کتاب عزرا باب ۶ آیت ۲۱ و ۲۲ کے درمیان تھی، اور ڈاکٹر آئی کلارک نے بھی جشن کی تصدیق کی ہے۔

جشن شہید قرونِ اولیٰ کا ممتاز عالم ہے، مذکورہ اقتباسات سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے یہودیوں پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے حضرت مسیحؐ کی بہت سی بشارتیں کتب مقدسہ سے نکال دی تھیں، سلبر جنس، کریب، وائیٹر اور آئی کلارک نے بھی اس کی تائید کی ہے، اور وائلسن نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بشارتیں جشن اور آئینوں کے زمانہ میں باہم میں موجود تھیں، اگرچہ آج پھر وہ باہم میں موجود نہیں ہیں،

لہ پطرس کی عبارت یہ ہے: ”یکونک مرد دن کو بھی خوش خبری اسی لئے ستائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو۔ لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں“ (۱۔ پطرس، ۶:۲)

اب آپ غور فرمائیے کہ اگر عیسائیوں کے یہ بڑے بڑے علماء (جستن وغیرہ) سچے ہیں تو یہ بات ثابت ہو سی گئی کہ یہودیوں نے تحریف کر کے ان بشارتوں کو نکال ڈالا تھا، اور اگر ان کا دعویٰ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بشارت میں جستن وغیرہ نے خود اپنی طرف سے گھٹ کر اپنے زمانے میں باشنا میں شامل کر دی تھیں، تاکہ اُس مشہور مقولہ پر جو گز شستہ قول میں بیان ہوا ہے عمل در آمد کریں، غرض دونوں فریق میں سے ایک کی تحریف ضرور لازم آتی ہے، نیز والٹن کے دعوے کے بوجب بھی ہم کہتے ہیں کہ تحریف ضرور لازم آتی ہے، اس لئے کہ پہلی صورت میں اُن کا عبرانی دیونا نی متن سے خارج کر دینا یقینی طور پر موجب تحریف ہے، اور دسری شکل میں ان دونوں نسخوں میں اس کا بڑھایا جانا موجب تحریف ہے،

اٹھوال قول لارڈ نراپنی تفسیر کی جلدہ صفحہ ۱۲۳ میں کہتا ہے کہ:-

”انا جیل مقدسہ کے مصنفوں کا حال معلوم نہ ہونے کی بنا پر شاہ انا سطیوس کے حکم سے راس زمانہ میں جب کہ مسئلہ قسطنطینیہ کا حاکم تھا، یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ درست نہیں ہے، اس لئے دوبارہ صحیح کی گئی ہے۔“

اب ہم کہتے کہ اگر یہ انجلیسی درست اور الہامی تھیں اور اسی بادشاہ کے عہد میں معینہ نہ سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ متفقہ مین کے نزدیک یہ خواریوں اور ان کے تابعین کی تصانیفت ہے، تو پھر مصنفوں کی اس چہالت کے کوئی بھی معنی نہیں ہے کہ اس کی دوبارہ تصحیح کی جائے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانہ تک ان کی اسناد ثابت نہ تھیں اور وہ اُن کے الہامی ہونے کے معتقد تھے، اس لئے اپنی امکانی حد تک اس کی غلطیوں اور تناقضات کو درست کیا۔

غرض تحریف کامل درجہ میں ثابت ہو گئی، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ کتاب میں ثابت بالاسناد نہیں ہے، اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ بعض ادقائق جو علماء پر وُسْطَت یہ دعوئے کرتے ہیں کہ کسی بادشاہ یا حاکم نے کسی زمانہ میں بھی مقدس گرجے میں کوئی تصرف نہیں کیا، یہ قطعی باطل ہے، اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ آخران اور بہت سے متاخرین جرمی علماء کی رائے انجلیلوں کے بارہ میں بڑی قوی اور صحیح ہے،

فواں قول مقصود اول کی دوسری شہادت میں معلوم ہو چکا ہے کہ اگلستان اور دوسرے کی ہر تاکہ یونانی ترجمہ غیر معتبر قرار دیا جائے، اور مذہب عیسیٰ کے ساتھ عناد در شمنی محل ہو جائے، یہ تحریف ان سے نسلانہ ع میں صادر ہوئی، محقق ہلینر اور کتنی کاٹ کی رائے بھی متفقین کے موافق ہے، ہلینر نے تو سامری نسخہ کی صحت دلائل قطعیت سے ثابت کی ہے، کتنی کاٹ کا بیان ہے کہ یہودیوں نے جان بوجھ کر توریت میں تحریف کی، اور عہد عتیق وجدیہ کی کتابوں کے محققوں کی یہ رائے ہے بیان دیا ہے، سامریوں نے عمدًا اس میں تحریف کی ہے،

دوساں قول مقصود اول کی شہادت نمبر ۳ میں معلوم ہو چکا ہے کہ کتنی کاٹ نے سامری کتنی کاٹ کے دلائل لاجواب ہیں، اور ان کا خیال بھی ہے کہ یہودیوں نے سامریوں کی عداو میں توریت کی تحریف کی ہے،

گیارہواں قول مقصود اول کی شہادت نمبر ۱ میں معلوم ہو چکا ہے کہ آدم کلارک بہت سے مقامات میں بے شمار تحریفات واقع ہوئی ہیں، اور آن میں تطبیق دین کی کوشش بے سود ہے، اور اچھا یہی ہے کہ شروع ہی میں اس بات کو مان لیا جائے جس کے انکار کی قدرت نہ ہو، شہادت نمبر ۸ میں اس کا یہ اقرار معلوم ہو چکا ہے کہ تاریخی کتابوں کے اعداد میں تحریف واقع ہونے کی وجہ سے اکثر مقامات پر ہم کو فریاد کرنی پڑتی ہے،

پانچواں قول مقصود اول کی شہادت نمبر ۲۲ میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آدم کلارک نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے کہ یہودیوں نے اس مقام پر عربانی متن میں اور یونانی ترجمہ میں جان بوجھ کر تحریف کی ہے جیسا کہ دوسرے مقامات پر بھی قوی گمان ہوتا ہے،

تیرہواں قول مقصید اول کی شہادت نمبر ۲۳ میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ہورن نے بارہ آیات میں یہودیوں کا تحریف کرنا تسلیم کیا ہے،

چودہواں قول مقصید اول کی شہادت نمبر میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کیتوں کے چودہواں قول ہر جانے ان شاہزادیوں کی صحت پر اجماع واتفاق کیا ہے جن کی تفصیل وہاں موجود ہے، اسی طرح اس کے اہمی ہونے میں اور لاطینی ترجمہ کی صحت پر بھی اتفاق کیا ہے،

ادھر علاء پروشنٹ کا قول یہ ہے کہ یہ کتاب میں محرّف اور واجب الرد ہیں، اور اس ترجمہ میں پانچویں صدی سے پندرہویں صدی تک بے شمار تحریفیں اور احکامات ہوئے ہیں، اور لاطینی ترجمہ کے برابر کسی بھی ترجمہ میں اس قدر تحریف نہیں ہوئی، اس کے ناقلين نے بڑی بیباکی کے ساتھ عہد عتیق کی ایک کتاب کے فقرے دوسری کتاب میں شامل کر دیتے، اسی طرح حواشی کی عبارتوں کو متن میں داخل کر دیا ہے،

پندرہواں قول مقصود نمبر ۲ کی شہادت نمبر ۲۶ سے معلوم ہو چکا ہے کہ آدم کلارک نے کتنی کاٹ کی طرح اس قول کو ترجیح دی ہے کہ یہودیوں نے یوسیفیس کے دور میں یہ چاہا کہ کتب مقدسہ کو من گھڑت دعاوں اور گناہ اور نسی نسی تراشیدہ باقوں کے ذریعہ آراستہ کیا جاتے ہے، ان بے شمار احکامات پر نظرڈائے جو کتاب استر میں موجود ہیں، اور شراء اور عورتوں کے واقعات اور اس صدقہ کی طرف نگاہ کیجئے جو عزرا اور سخیاہ کی کتاب میں بڑھائے گئے ہیں جبکہ نام موجودہ دور میں عزرا کی پہلی کتاب مشہور ہے، اور ذرا انگاتوں کو دیکھئے جو کتاب دانیال میں بڑھائے گئے ہیں، اسی طرح وہ بے شمار احکامات جو کتاب یوسیفیس میں موجود ہیں،

ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اس قسم کی تحریف کتابوں کی زینت کا سبب تھی، اس لئے ان کی نگاہوں میں یہ کوئی معیوب حرکت نہیں تھی، چنانچہ وہ بیدھن کی تحریف کر لئے۔

لہ یعنی اپاکرفا (APCR ۲۰۰۸) ۲۵ دیجیٹی صفحہ ۶۲۹، ۲۵ دیجیٹی صفحہ ۲، جلد ہذا،

با الخصوص جبکہ آن کو اس مشہور مسلم مقولہ پر عمل کرنا ہوتا تھا، جس کا ذکر قول نمبر ۱ میں ہو چکا ہے، اس بنا پر بعض تحریفیں تو ان کے خیال میں دینی مسحتات شمار کی جاتی تھیں، مقصود نمبر ۲ کی شہادت نمبر ۱۱، میں معلوم ہو چکا ہے کہ آدم کلارک سوالہ وال قول اس امر کا معترض ہے کہ اکثر فضلا ر کی رائے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پانچوں کتابوں کے حق میں نہ خدا سامریہ سبکے تزیادہ صحیح ہے،

ستہ وال قول مقصود نمبر ۳ کی شہادت نمبر ۱۲ سے ثابت ہو چکا ہے کہ کتاب آیوب کے زدیک جعلی ہے، حالانکہ تمہرے میتھے سے پہلے لکھا گیا تھا، اور حواریوں کے زمانہ میں مذکورہ ترجمہ میں داخل تھا، اور متفقہ میں کے زدیک مسلم بھی تھا،

اطھارہ وال قول مقصود نمبر ۳ کی شہادت نمبر ۱۱ میں کریم اسٹم کا قول معلوم ہو چکا ہے کہ یہودیوں نے بہت سی کتابیں اپنی غفلت یا بد ریاضت کی وجہ سے ضائع کر ڈالی تھیں، بعض کتابوں کو تو پھاڑ ڈالا، اور بعض کو جلا دیا، فرقہ کیتمولک کے زدیک اس کا قول راجح ہے،

آنیسوال قول ہورن اپنی تفسیر کی جلد ۲ میں یونانی ترجمہ کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے :-

”یہ ترجمہ بہت پڑانا ہے جو یہودیوں اور متفقہ میں عیسایوں کے یہاں بے حد مقبول اور معبر تھا، اور دونوں فرقیت کے گرجاؤں میں پڑھا جاتا تھا، اور عیسایوں کے مشائخ نے خواہ وہ لاطینی ہوں یا یونانی، صرف اسی ترجمہ سے نقل کیا ہے، اور ہر وہ ترجمہ جسے عیسائی گرجا تسلیم کرتا ہے سو اسے سریانی ترجمہ کے وہ اسی یونانی ترجمہ سے دوسری زبانوں میں منتقل کیا گیا ہے، مثلاً ترجمہ عربیہ آرمینیہ اور ترجمہ آیتھوپک اور اطاک کا ذریعہ ترجمہ اور لاطینی ترجمہ جو جیر دم سے پہلے مستعمل تھا، اور صرف

لہ یعنی افلاطون اور فیثاغورس کا مقولہ جس میں جھوٹ بولنے کو مسحت قرار دیا گیا ہے دیکھئے صفحہ ۲۸، ۲۹ دیکھئے صفحہ ۲۰، جلد بذرا، ۲۵ دیکھئے صفحہ ۲۱، جلد بذرا، ۲۶ دیکھئے صفحہ ۲۲، جلد بذرا۔

یہی ترجمہ آج تک یونانی اور مشرقی گرجاؤں میں پڑھایا جاتا ہے۔“

پھر کہتا ہے کہ :-

”ہمارے نزدیک کچی بات یہ ہے کہ یہ مسیح کی پیدائش سے ۲۸۵ سال یا ۲۸۶ سال قبل ترجمہ کیا گیا ہے۔“

پھر کہتا ہے کہ :-

”اس کے مکالمہ شہرت کے لئے صرف یہی ایک دلیل کافی ہے کہ عہدِ جدید کے مصنفوں نے صرف اسی ترجمہ سے بہت سے فقرے نقل کئے ہیں،..... جبریوم کے علاوہ اور تمام گذشتہ عیسائی مشائخ عربانی زبان سے ناداقف تھے، اور دوسرے نقل کرنے میں یہ لوگ ان اشخاص کی اقتدار کرتے تھے جنہوں نے الہام سے کتابوں کو لکھا ہے، اور یہ حضرات اگرچہ دین کے دائرہ میں مجتہدانہ منصب رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود اس عربانی زبان سے جو تام کتابوں کی بنیاد ہے محض ناداقف تھے، اور اسی ترجمہ پر قناعت کرتے تھے، اور اپنے تمام مقاصد و مطالب میں اس ترجمہ کو خوب سمجھتے تھے، یونانی گرجا تو اس کو کتاب مقدس سمجھتا اور اس کی تعظیم کرتا تھا۔“

اور پھر کہتا ہے کہ :-

”اور یہ ترجمہ یونانی اور لاطینی گرجوں میں منتشر ہے تک پڑھا جاتا رہا، اور اس سے سندھی جاتی تھی، نیز پہلی صدی میں یہودیوں کی عبادت گاہوں میں یہی ترجمہ معتبر مانا جاتا تھا، مگر پھر جب عیسائیوں نے اس ترجمہ سے یہودیوں کے خلاف استدلال کرنے اور شروع کیا تو یہودیوں نے اس ترجمہ کے خلاف زبان درازی شروع کی کہ یہ عربانی متن کے موافق نہیں ہے، اور دوسری صدی کی ابتداء میں اس کے بہت سے فقرے اور جملے خارج کر دیئے، اور اس کو چھوڑ کر ایک تو سلا کے ترجمہ کو پسند کیا، اور چونکہ یہ ترجمہ یہودیوں کے یہاں پہلی صدی عیسیٰ میں مستعمل تھا اور عیسائیوں کے یہاں بھی ایک مدت تک مرقوم رہا، اس لئے اس کی بہت سی

نقليں ہو چکی تھيس، اور یہودیوں کی تحریف اور کاتبین کی غلطی، نیز شرح اور حاشیہ کی عبارت کو متن میں داخل کرنے کی وجہ سے بے شمار غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں، فرقہ کیتوں کا بڑا عالم وار طائفی کتاب مطبوعہ ۱۸۷۶ء کے صفحہ ۱ پر یہودیوں کہتا ہے: ”مشرق بد دینوں نے اس میں تحریف کر ڈالی۔“

اب فرقہ پروٹستانٹ کے محقق کے اعتراف سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہودیوں نے جان بوجھ کر تورتیت میں تحریف کی، کیونکہ پہلے تو وہ کہتا ہے کہ: ۳ دسری صدی کی ابتداء، میں یہودیوں نے اس کے اس کے بہت سے فقرے اور جملے خارج کرنے شروع کر دیئے تھے، پھر کہتا ہے کہ:-

”یہودیوں کے قصدًا تحریف کرنے کی وجہ سے انہیں“

ادریت تحریف اُن کی جانب سے مذہب عیسیٰ کی دشمنی کی بناء پر صادر ہوئی جیسا ان کے محقق کے کلام میں تصریح موجود ہے، اس لئے اس فرقہ کو یہودیوں کے قصدًا تحریف کرنے کے واقعہ سے اب کوئی اکار کی گنجائش یا قیمتیں رہی، اسی طرح فرقہ کی تھوڑکے نزدیک یہ قصد بھی تحریف مسلم ہے، گویا دونوں حریف تحریف کے معتزلیں اب ہم فرقہ پروٹستانٹ کے اقرار کی بناء پر کہتے ہیں کہ جب یہودیوں نے اس مشہور ترجیح میں جو اُن کے تمام گرجوں میں چو سختی صدی تک استعمال کیا جاتا رہا بلکہ مشرق و مغرب کے تمام عیسائیوں کے گرجوں میں مردّج رہا، محض مذہب عیسیٰ کے عناد میں تحریف کی تھی، اُن کو نہ خدا کا خوف ہوا اور نہ مخلوق کے طعن کا خیال پیدا ہوا، اور اُن کی تحریف کا اثر اس مشہور ترجیح میں موجود ہے، تو اس کا یقین کیسے کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اس عربی نسخے میں تحریف نہ کی ہوگی، جوان کے پاس موجود تھا، اور عیسائیوں میں تو وہ شائع ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ دسری صدی تک اس کا ردّاج بھی اُن کے یہاں نہیں ہوا تھا، خواہ یہ تحریف دینِ مسیح کے عناد کی بناء پر کی گئی ہو (جیسا کہ متقدیں گی راستے ہے، نیز آدم کلارک کا راجح مسلک ہے، جیسا کہ مقصیر اول کی شہادت نمبر ۲۲ میں معلوم ہو چکا ہے)،

اسی طرح ہوئن نے بھی باوجود اپنے تعصیب کے ۶ مقامات پر اور آگ طائن نے ۱۲ آیات میں اس کا اعتراف کیا ہے، جیسا کہ مقصد اول کی شہادت نمبر ۲۳ اور قول نمبر ۳۱ میں معلوم ہو چکا ہے)۔ یا یہ تحریف سامنیوں کی دشمنی اور عداوت کی وجہ سے کی ہو، جیسا کہ کتنی کاٹ اور آدم حکلارک کا فیصلہ ہے، اسی طرح بہت سے علماء کا جیسا کہ مقصد اول کی شہادت اور قول نمبر ۳۱ معلوم ہو چکا ہے) خواہ آپس کی دشمنی کی بناء پر جیسا کہ پہلی صدی اور اس کے بعد والے زمانہ میں عیسائیوں کے فرقہ کی جانب سے تحریف کا ارتکاب کیا گیا، جس کی تفصیل گذشتہ اقوال میں معلوم ہو چکی ہے، اور عنقریب آپ کو قول نمبر ۳ میں یہ بات معلوم ہونے والی ہے، کیونکہ یہ قصدی تحریف اُن دیندار عیسائیوں نے کی ہے جو اپنے خیال میں پچھے تھے، اور محض اُن دوسرے عیسائیوں کی مخالفت میں انہوں نے اس تحریف کا ارتکاب کیا، جو ان کی نظر میں برحق نہ تھے، اور اُس میں ذرا بھی تعجب اس لئے نہیں کہ اُن کے نزدیک تحریف مسحیات دین میں شمار ہوتی تھی، اور ریانت کا عین مقتضی بھی جاتی تھی، یا اور دوسرے اسباب کی بناء پر جو اس دور میں تحریف کے مقتضی ہو سکتے تھے تحریف کی گئی ہے،

یہودیوں کی تحریف کے بالے میں ایک یہودی عالم سلطان بایزید خان مرحوم کے عہد میں مشرف بالسلام ہوا، جس کا نام ایک نو مسلم یہودی عالم کی شہادت عبد السلام رکھا گیا، اس نے یہودیوں کے رد میں ایک چھوٹا سار سالہ "الرسالة الہادیہ" کے نام سے تاییف کیا، جو تین قسموں پر مشتمل ہے، اس رسالہ کی تیسرا قسم میں یہودیوں کے تورتیت میں تحریف کرنے کی نسبت وہ لکھتا ہے:

"تورتیت کی سب سے زیادہ مشہور تفسیر وہ ہے جو تلوذ ان کے نام سے مشہور ہے، اور شاہ تملانی کے عہد میں کی گئی ہے، جو بختی نصر کے بعد ہوا ہے، اس میں یوں لکھا ہے کہ شاہ تملانی نے ایک مرتبہ علماء یہود سے تورتیت طلب کی، علماء اس کو پیش

لئے سلطان بایزید خان بن محمد فاتح، ترکی کے مشہور عثمانی سلطان (مدحکومت از ۱۷۸۳ء تا ۱۷۸۶ء) تھے (۱۲)

کرتے ہوتے ڈرتے تھے، اس لئے کہ بادشاہ اس کے بعض احکام کا منکر تھا،
چنانچہ شرعاً بیہود نے جمع ہو کر ان عبارتوں کو بدل ڈالا، جن کا وہ منکر تھا، پھر
جب ان کا اس تحریف کی نسبت اعتراف موجود ہے تو ایسی کتاب کی کسی ایک
آیت پر بھی کس طرح اعتبار و الحیتان کیا جاسکتا ہے ॥

کیتحو لک علام کے قول کے مطابق ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب مشرق کے بدنیوں نے
اس ترجمہ کو بھی بدل ڈالا جو عیسایوں میں مشہور اور مشرق و مغرب کے گرجوں میں رائج تھا
یا الخصوص تمہارے گرجے میں نشانہ تک مستعمل رہا ہے، جیسا کہ محقق ہورن نے ثابت کیا ہے
اور ان کی تحریف کا اثر اس کے نخنوں میں ظاہر ہوا تو پھر علام پرولٹنٹ کے اس قول کی
تردید کیوں نکر کی جاسکتی ہے کہ تم نے اس لاطینی ترجمہ میں تحریف کی ہے، جو تمہارے گرجے
میں رائج تھا، نہیں خدا کی قسم یہ لوگ اپنے دعووں میں سمجھتے ہیں ॥

بیسوال قول انسائیکلو پیڈیا ریس کی جلد ۲ میں بیبل کے بیان میں کہا گیا ہے کہ:-

جو نشانہ اور نشانہ کے درمیان لکھے گئے ہیں، اس کی دلیل پیش کرتے ہوئے
ہستا ہے کہ وہ تمام نسخے جو نشانہ یا آٹھویں صدی میں لکھے گئے تھے وہ بیہودوں
کی جملہ شورمنی کے حکم سے ضائع کر دیئے گئے تھے، اس لئے کہ وہ ان کے معتبر
نخنوں کے سخت مخالفت تھے، اس واقعہ کے پیش نظر والمسن بھی ہستا ہے کہ جن
نخنوں کی کتابت پر ۶۰۰ سال کا عرصہ گذر چکا ہے وہ کیا ہے، اور جو...
یا... ۸ سال قبل کے لکھے ہوئے ہیں وہ تو بالکل نایاب ہیں ॥

خوب کہجے کہ ڈاکٹر کنی کاٹ جس پر فرقہ پرولٹنٹ کو عہد عتیق کی کتابوں کی تصحیح
کے معاملہ میں مکمل اعتماد ہے، یہ اعتراف کرتا ہے کہ جو نسخے ساتوں یا آٹھویں صدی
کے لکھے ہوئے ہیں ان تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی، بلکہ ہم تک صرف وہ نسخے پہنچ سکیں
لہ اطہار الحق کے نخنوں میں یہ لفظ اسی طرح نہ کوہری، لیکن کتابے انگریزی ترجمہ میں اس کی جگہ
”بیبل“ لکھا ہی جو صحیح معلوم ہوتا ہے، شاید عربی نخنوں میں یہاں طباعت کی غلطی ہوئی ہے ॥

جو هزاروں اور چودھویں صدی کے درمیان کے لگتے ہوئے ہیں، اور اس کا سبب بھی بیان کرتا ہے کہ یہودیوں نے اس سے پہلے کے تمام نسخے ضائع کر دیئے تھے، کیونکہ وہ سب ان کے معتبر نسخوں کے سخت مخالف تھے، والیں بھی حرف بہ حرف اس کی تائید کرتا ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ ان نسخوں کو ناپسید کرنے اور ضائع کرنے کا واقعہ یقیناً ظہور محمدی عصی اللہ علیہ وسلم کے دو سال کے بعد پیش آیا ہے، پھر جب وہ تمام نسخے جوان کے نسخوں کے مخالف تھے صفحاتِ عالم سے مٹ گئے، اور ان کی تحریف کا اثر اس درجہ تک پہنچ گیا، اور ان کے پاس صرف وہی نسخے باقی رہ گئے، جو ان کو پسند تھے، تو معلوم ہوا کہ ظہور محمدی کے بعد بھی ان کو ان نسخوں میں تحریف کرنے کی بڑی گنجائش اور سازگار ماحول نصیب تھا، اس لئے اس کے بعد ان کی تحریف کچھ بھی مستبعد نہیں معلوم ہوتی، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ طباعت کافن ایجاد ہونے سے قبل اہل کتاب کی تمام کتابوں میں ہر قرن میں تحریف کی کافی صلاحیت اور گنجائش رہی ہے، بلکہ تماشا تو یہ ہے کہ طباعت کا سلسلہ جاری ہونے کے بعد بھی وہ تحریف سے نہ کبھی باز آتے، اور نہ اس میں ان کو کبھی کوئی باک ہوا، جیسا کہ ناظرین لوٹھر کے پروڈول کا حال اس کے ترجمہ کی نسبت مقصود ۲ کی شمارت نمبر ۱۳ میں مُن چکے ہیں،

اکیسوال قول میں کہتا ہے کہ :-

”یہ بات کو مدرس متن میں تحریف کی گئی ہے یقینی اور شیعہ سے بالاتر ہے، نیز نسخوں کے اختلاف سے پانکل نہیاں ہے، کیونکہ مختلف عبارتوں میں صحیح عبارت صرف ایک ہے ہو سکتی ہے، اور یہ بات قیاسی بلکہ یقینی ہے کہ بدترین عبارتیں بعض اوقات مطبوعہ متن میں شامل کر دی گئیں، مگر اس دعوے کی کوئی دلیل مجھ کو نہیں مل سکی کہ کتنا یو شع میں پائی جانے والی تحریفاتِ ہمدردیت کی تمام کتابوں کی تحریفات سے زیادہ ہیں“

لہ صفحہ ۱۸۱ جلد ہذا، ان حضرات کا یہ عمل آج تک کس طرح مسلسل جاری ہے؟ اس کا ایک اندازہ کرنے کے لئے ۱۹۷۶ء جلد اول کا حاشیہ ملاحظ فرمائیے، اور ۱۹۵۴ء کے طبع شدہ باسبل (اردو ترجمہ) میں سہ تیناں سپتہ کا مقابلہ کسی بھی سابقہ ترجمہ سے کر لیجئے،

پھر جلد ۳ صفحہ ۲۷ پر رقمطراز ہے:-

”یہ بات قطعی طور پر درست ہو کہ بخت نصر کے حادثہ کے بعد بلکہ اس سے کچھ پہلے بھی لوگوں کے پاس عربانی متن کی جو نقلیں تھیں وہ تحریف کے لحاظ سے ان نسخوں سے بھی بتریں حالت میں تھیں، جو عزرا بن کی تصحیح کے بعد موجود میں آتے ہیں“

پانیسوال قول | داٹن اپنی کتاب کی جلد ۳، ص ۲۸۳ میں یوں کہتا ہے کہ:-

”ایک مدت دراز تک آر بھن ان اختلافات کی شکایت کرتا رہا اور مختلف اسباب کی جانب ان کو منسوب کرتا رہا، مثلاً کتابوں کی غفلت یا مشرارت اور لاپرواہی، اسی طرح جیردم کہتا ہے کہ جب میں نے عبد جدید کے ترجمہ کا ارادہ کیا تو میں نے اس کا مقابلہ اس نسخے سے کیا جو میرے پاس موجود تھا، تو ان میں عظیم اثنان اختلاف پایا۔“

پانیسوال قول | آدم کھلارک اپنی تفسیر کی جلد اول کے مقدمہ میں کہتا ہے کہ:-

”جیردم سے پہلے لاطینی زبان میں مختلف ترجموں کے بے شمار تراجم موجود تھے اور بعض میں تو انہی مشرید تحریف موجود تھی، اور ایک مقام دوسری جگہ کے سخت مناقص تھا، جیسا کہ جیردم غریب فریاد کر رہا ہے۔“

چوبیسوال قول | دار الکتب ہمپولک اپنی کتاب مطبوعہ سرائے عکے صفحہ، اور ایک کہتا ہے:-

”ڈاکٹر ہمپولی نے اپنی کتاب کے صفحہ، اپر کہلہے کہ یہودیوں کے اوہاں نے عبد عین کی کتابوں کے بعض مقامات پر ایسی تحریف کی ہے کہ ٹڑھنے والوں کو آسانی پہنچا جاتا ہے، پھر کہلہے کہ یہودیوں نے میشح کی بشارتوں کو بھل ہی اڑا دیا، پھر ایک پروٹستنٹ عالم نے بیان کیا کہ قدیم مترجم اس کو ایک نجس سے پڑھتا ہے تو موجودہ یہودی اس کو دوسرا کہ طریقہ سے پڑھتا ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہودی کتابوں اور ان کے ایمان کی جانب غلطی منسوب کرنا بہ نسبت قدیم مترجم کی چھالت یا تسلیم کی طرف منسوب کرنے کے زیاد بہتر ہے، اس لئے کہ زبور کی حفاظت میشح سے قبل بھی یہودیوں کے یہاں آن کے گانوں کی بہ نسبت کم تھی۔“

چھپیسوال قول فیلیپس کواد نولس پادری نے ایک کتاب احمد شریف بن زین العابد کی اصنافیان کی کتاب کے رد میں خیالات کے نام سے لکھی تھی، جو سلطنت اعیین چھپی ہے، وہ اس کی فصل نمبر ۶ میں کہتا ہے کہ:-

”نحوٰ قصایدہ بالخصوص کتاب سلیمان میں بے شمار تحریف پائی جاتی ہے، رب اقیلا نے جو کلیس کے نام سے مشہور ہے پوری تورتیت نقل کی، اسی طرح رب یونٹا بن عزیل نے کتاب یوشع بن نون اور کتاب القضاۃ و کتاب اسلامیین، کتاب اشعياء اور دوسرے پیغمبروں کی کتابیں نقل کیں، اور رب یوسف نابینا نے زبور و کتاب ایوف و رؤوت و استرد سلیمان کو نقل کیا، ان تمام ناقلین نے تحریف کی اور ہم عیسائیوں نے ان کتابوں کی حفاظت اس لئے کی تاکہ یہودیوں پر تحریف کا الزام قائم کر سکیں حالانکہ ان کی جھوٹی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے یہ دیکھئے ستر ہویں صدی کا یہ پادری کس صفائی سے یہودیوں کی تحریف کی شہادت دے رہا ہے،

چھپیسوال قول ہورن جبلد کے صفحہ ۶۸ پر کہتا ہے کہ:-

”الحق کے سلسلہ میں یہ بات مان لینی چاہئے کہ تورتیت میں اس قسم کے فقرے موجود ہیں“

بھر جلد ۲ صفحہ ۳۲۵ میں کہتا ہے کہ:-

”عبران متن میں تحریف کردہ مقامات کی تعداد کم ہے“

یعنی صرف نو ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کرچکے ہیں،

ستائیسوال قول سلطان جمیس آڈل کے دربار میں فرقہ پروٹستانٹ کی جانب سے ایک لہ عربی نسخوں میں ایسا ہی، انگریزی ترجمہ نہیں کیا گیا، اسے ۱۲۷ لکھ جمیس اول غائب اس سے مراد جمیس فارسی (JAMES THE CONQUEROR) ہے، جو ۱۴۹۳ء سے ۱۵۱۳ء تک زندگی کیا، یوں جیسی اول برلنی ۱۵۶۶ء تا ۱۵۹۳ء اور اسکات لینڈ (Scotland) کے بادشاہ بھی ہوئے ہیں ۱۲

کتاب القصولة میں داخل میں دہ زیادتی اور کمی اور تغیر و تبدل کے اعتبار سے عبرانی سے دو سو مقامات میں مختلف اور مختلف ہیں،

اٹھائیسوائی قول مسٹر بردھن کا لائل ہوتا ہے کہ:-

”انگریزی مترجموں نے مطلب خط کر دیا ہے، حق کو چھپایا اور رجاہلوں کو دھوکا دیا، اور الجیل کے سیدھے سادھے مضمون کو سچھی دینا ڈالا، ان کے نزدیک تاریکی روشنی سے بہتر اور جھوٹ پچ سے افضل ہے“

انتیسوائی قول مسٹر بردھن نے جو کو نسل کے ارکان میں سے تھے، جدید ترجمہ کرنے

کی درخواست کی تھی، یونکہ انگریزی میں جو ترجمہ مردج ہے وہ غلطیوں سے بہرنا ہے، اور پادریوں سے کہا کہ تمہارے مشہور انگریزی مترجم نے ہند عتیق کی عبارتوں میں آٹھ ہزار چار سو اسی مقامات میں تحریف کی ہے۔ اور اس طرح وہ بے شمار انسانوں کے عہدِ جدید سے منحرف ہونے اور جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنتا ہے،

تینوں اقوال جو نمبر ۲۸، ۲۹ و ۳۰ میں درج ہیں، ہم نے دارالعلوم کی کتابے نقل کئے ہیں، تطویل کا اندیشہ ہم کو دوسرا اقوال کے نقل کرنے سے مانع ہوتا ہے، ان میں سے اکثر مقاصدِ اللہ کی شہادتوں سے واضح ہو جائیں گے، اب ہم صرف ایک قول کے نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، جس میں تحریف کے اقسام و انواع کا اعتراف موجود ہے اس کے بعد دوسرا اقوال کے نقل کرنے کی چند اضافات ضرورت نہیں، مگر اس طرح مغل اقوافی کی تعداد تین ہو جاتے گی،

تیسوائی قول ہوران اپنی تفسیر کی جلد ۲ باب ۸ میں دیرلیں ریڈنگ کے وقوع کے اسباب میں جس کے معنی اس مغالطہ کے جواب کی ابتدا میں ناظرین کو بتاتے چاہکے ہیں، ہوتا ہے کہ اس کے وقوع کے چار اسباب ہیں،

ہوران کی نظر میں تحریف کے اسباب

سبب اول کاتب کی غلطی اور اس کی سمجھوں؛ جس کی چند صورتیں ہیں:-

اُول یہ کہ کاتب کو جس شخص نے لکھوا�ا اس نے جو چاہا لکھ دیا، یا کاتب اس کی بات پورے طور پر نہ سمجھ سکا، اس نے اس نے جو لکھ سکتا تھا لکھ مارا، دوسرے عربانی اور یونانی حروف ہستکل اور ملتے جملے تھے، اس نے ایک کریجی دوسرے کو لکھ دیا،

تیرے، کاتب نے اعراب کو خط سمجھا، یا اس خط کو جو اس پر لکھا جاتا تھا حرف کا جزو سمجھ لیا، یا نفسِ مضمون کو سمجھ کر عبارت کی اصلاح کر دیا، اور اس میں غلطی کی، چو تھے، کاتب جب ایک مقام سے دوسری جگہ پہنچا تو اس کو احساس ہوا، لیکن اپنے لکھے ہوئے کو کامننا سب نہ سمجھا، اور جو مقام متذکر ہو گیا اس کو دوبارہ لکھ دیا اور پہلی سحریر کو جوں کا توں رہنے دیا،

پانچویں، کاتب ایک بات کو چھوڑ گیا تھا، پھر دوسری بات لکھنے کے بعد اس کو احساس ہوا تو متذکر کو اس کے بعد لکھ دیا، اس طرح ایک عبارت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی،
چھٹے، کاتب کی نظر اتفاق پڑ گئی، اور دوسری سطر پر جا پڑی، اس نے کچھ... عبارت رہ گئی،

ساتویں، کاتب کو مخفف الفاظ کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اور اس نے اپنی سمجھ کے مطابق اس کو لکھ دیا،

آٹھویں، اختلاف عبارت کے واقع ہونے کا بڑا منشار کا بیوں کی چالت اور غفلت ہی، کہ انہوں نے حاشیہ یا تفسیر کی عبارت کا جزو و متن سمجھ کر اس میں شامل کر دیا، دوسرے سبب **نسخہ منقول عنہ میں کمی** واقع ہونا، اس کی بھی چند صورتیں ہیں، بعض مرتبہ حروف کے اعراب مٹ گئے، یادہ اعراب جو ایک صفحہ پر تھے، اس کی دوسری جانب کسی دوسرے صفحہ پر اُبھر آیا اور دوسرے صفحہ کے حروف کے ساتھ اس کی ایسی آمیزش ہو گئی کہ اُن کا جزو سمجھ لیا گیا،

بعض اوقات چھوٹا ہوا فقرہ حاشیہ پر بغیر کسی علامت کے لکھا ہوا تھا،

دوسرے کاتب کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس فقرے کو کس جگہ لکھا جائے اور غلطی کر گیا،

تیسرا سبد ب اخیالی تصحیح و اصلاح ہے، اس کی بھی چند صورتیں ہیں؛

بعض مرتبہ کاتب نےاتفاق سے صحیح عبارتوں کو ناقص سمجھایا مطلب سمجھنے میں غلطی کی یا یہ خیال کیا کہ عبارت قواعد کے اعتبار سے غلط ہے، حالانکہ وہ غلط نہ تھی بلکہ غلطی اصل مصنف سے صادر ہوئی تھی،

دوسرے "بعض محققین" نے غلطی کی اصلاح صرف قواعد کے مطابق کرنے پر احتفاظ نہیں کیا، بلکہ غیر فصیح عبارت کو فصیح سے بدل دیا، یا بھرتی کے الفاظ کو خارج کر دیا، یا مراد ف الفاظ کو جن کے درمیان کوئی واضح فرق موجود نہ تھا، ساقط کر دیا،

تیسرا، سب سے زیادہ کثیر الوقوع غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے مقابل فقروں کو برآمد کر دیا، اس قسم کا تصریف انجیلوں میں خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے، اسی وجہ سے پوئیں کے خطوط میں کثرت سے الحاقات کئے گئے، تاکہ اس کی وہ عبارت جو اس نے ہمہ عتیق سے نقل کی ہے، یونانی ترجمہ کے مطابق ہو جائے،

چوتھا، بعض محققین نے عبد جدید کو لاطینی ترجمہ کے مطابق بنادیا،

پنجم تحریف قصدی کا ارتکاب جس کسی کی جانب سے ہوا، خود غرضی کی بناء پر ہوا، اسکے خواہ تحریف کرنے والا دیندار طبقہ سے تعلق رکھتا ہو، پامبتد عین میں سے، گذشتہ بدعتیوں میں یہ الزام مارتیون سے زیادہ کسی کو نہیں دیا گیا اور اس شیعی حرکت کی وجہ سے اس سے زیادہ کوئی ملامت کا سمجھ ہوا ہے،

یزیدی بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ بعض قصدی تحریفات ان لوگوں سے صادر ہوئی ہیں، جن کا شمار دینداروں میں ہوتا تھا، اور یہ تحریفات اُن کے بعد اس نے راجح و ترار پائیں کہ اُن کے ذریعہ کسی مقبول مسئلہ کی تائید حاصل کی جاسکے یا اس پر داقع ہونے والا کوئی اعتراض درہو سکے،

ہورن نے بیشتر مثالیں ان چاروں سباب میں سے ہر سبب کی اقسام کی بیان کی ہیں، تطویل کے اندیشہ سے ہم انھیں چھوڑتے ہیں، مگر وہ مثالیں جن کو دینداروں کی

تحریف نہ کرنے کے لئے اب نے نقل کیا ہے، کتاب فاف سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ: "مثلاً انجیل و تواریخ کے باب ۲۱ کی آیت ۴ میں قصہ اچھوڑ دی گئی، اس لئے کہ بعض دینداروں نے یہ گمان کیا کہ فرشتہ کا خدا کو تقویت دینا اس کی خدائی کے منافی ہے۔ اسی طرح انجیل متی باب اول آیت ۱۸ میں "اکٹھے ہونے سے قبل" کے الفاظ اچھوڑ دیئے گئے، اور "اس کا پہلو بیٹا" کے الفاظ آیت نمبر ۲۵ میں ترک کر دیئے گئے، محض اس لئے کہ مریمؑ کی دائی بکار میں شک نہ پیدا ہو جائے، اور کرتھیوں کے نام پہلے خط کے باب ۱۵ آیت ۵ میں ۱۲ کو ۱۱ سے تبدیل کر دیا تاکہ پوس پر جھوٹ بولنے کا الزام نہ لگایا جائے۔ کیونکہ یہود اسکریوتی اس سے پہلے مر جکا تھا۔

نیز انجیل مرسی باب ۳۲ کی آیت ۳ میں بعض الفاظ اچھوڑ دیئے گئے، اور بعض مرشین نے بھی ان الفاظ کو اس لئے رد کر دیا، کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ ان سے فرقہ ایرین کی تائید ہوتی ہے اور بعض الفاظ انجیل و تواریخ باب آیت ۳۵ کے سریانی یونانی عربی ایتھو بک وغیرہ ترجوں

میں اس آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مبینہ پہانشی سے ایک رات قبل پریشانی کے عالم میں جیل زیتون پر جانے کا واقعہ مذکور ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک فرشتہ آپ کو تقویت دیتا تھا، آیت کے الفاظ پہلے صفحہ ۶۹ کے حاشیہ پر گزر چکے ہیں، ایک بارن نے اس آیت کو الحاقی قرار دیا ہے، نیز اس مسئلہ میں جلد ۲ بابت کے عنوان "ساتویں بات میں ۱۱۵" کے حاشیہ پر فدرے مفصل بحث ہے اُسے ضرور ملاحظہ فرمائیں ۱۲ ترقی میں "جب اس کی ماں مریمؑ کی منگتی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی فدرے سے حاملہ پائی گئی" (۱۸:۱۲) اسے

تھے "اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا" (۱۲:۲۵)

مگر اس کی تشریح صفحہ ۵۲۳ میں پر غلطی نمبر ۷۹ کے صحن میں دیکھئے ۱۲ ات

وہ اس آیت میں ہے "اس گھری کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر باپ" فرقہ ایرین تسلیث کا منکر ہے، اس آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ یہاں بیٹے اور باپ میں مکمل تغیریق کی گئی ہے ۱۲ ات

عہ اطباء الحق میں ایسا ہی ہے مگر انگریزی مترجم نے یہاں KAFF لکھا ہے۔

میں بڑھائے گئے۔

نیز بہت سے مرشدین کی نقلوں میں بھی محن فرقہ یونیکنیس کے مقابلہ میں اس نئے بڑھائے گئے، کہ یہ فرقہ اس بات کا منکر تھا کہ عیسیٰ میں دو صفتیں پائی جاتی ہیں۔“

عرض ہورن نے تحریف کی تمام احتمالی و امکانی صورتوں کو بیان کر دیا، اور اس امر کا صاف اقرار کیا ہے کہ کتب سما دیہ میں تحریف واقع ہوئی ہے،

ہبسم کہتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حواسی اور تفسیر کی عبارتیں کاتبوں کی غفلت یا جہالت کی بناء پر مبنی میں شامل ہو گئی ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اصلاح کرنے والوں نے ان عبارتوں میں بھی اصلاح کی جوان کے خیال میں قواعد کے خلاف یا واقع میں غلط تھیں، اسی طرح یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے غیر فصیح عبارتوں کو فصیح عبارتوں تبدیل کیا، اور زائد یا مزاد کو خارج کر دیا،

ادریس بھی ثابت ہو گیا کہ مقابل فقردوں کو بالخصوص انجلیوں میں انہوں نے برایکر دیا، اسی بناء پر پوس کے خطوط میں الحاق ٹڑی کثرت سے پایا جاتا ہے،

اور یہ بھی محقق ہو گیا کہ بعض محققین نے عہدِ جدید کو لاطینی ترجیح کے مطابق بنادیا، اور یہ کہ بدعتیوں نے فضد اجو تحریف کرنا چاہی وہ کروالی، اور دیندار لوگ بھی کسی مسئلہ کی تائید یا کسی اعتراض کے دور کرنے کے لئے عام طور پر تحریف کیا کرتے تھے، جو ان کے بعد راجح قرار پائی تھی، تو اب بتایا جائے کہ تحریف کا کون دقیقہ باقی رہ گیا ہے؟

اب اگر ہم یہ کہیں کہ تو اس میں کیا استحالہ باقی رہ جاتا ہے کہ جو عیسائی صلیب پرستی کے عاشق تھے اور اس کے چھوڑنے پر راضی نہ تھے، اسی طرح جاہ و منصب کے پھاری ہونے کے سبب اُسے چھوڑنے کو تیار نہ تھے، انہوں نے بھی اسی طرح بعض ان عبارتوں میں اسلام کے ظہور کے بعد تحریف کی، جو مذہبِ اسلام کے حق میں مفید ہو سکتی تھیں، اور یہ تحریفیں ان کے بعد بالکل اسی طرح راجح قرار دے آئیں ہیں ہے کہ فرشتے نے حضرت مریم سے کہا "روح القدس تجھ پر نازل ہو گا اور خدا تعالیٰ کی قدّت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلاتے گا" اس سے کبھی عقیدہ شیش کی چونکا تزوید ہوتی ہے، اس نئے اس میں تحریف کی گئی ہو گی ۱۲ ات.

دی گئیں جس طرح ان کی گذشتہ تحریفات ان کے دوسرے فرقوں کے مقابلہ میں راجح قرار دی گئی تھیں بلکہ چونکہ یہ تحریف ان کے نزدیک ان تحریفات کے مقابلہ میں زیادہ مہتمم بالشان تھی جو اپنے فرقوں کے مقابلہ میں کی گئی تھیں اس لئے اس کی ترجیح بھی دوسری تحریفات کی ترجیح سے بڑھی رہی۔

حضرت مسیح اور حواریوں نے ان کتابوں کی سچائی کی گواہی دی ہے

دوسراممالطہ

دوسراممالطہ یہ ہے کہ مسیح علیہ اکلام نے عہدِ حقیق کی کتابوں کی سچائی کی شہادت دی ہے، اور اگر ان میں تحریف واقع ہوئی تھی تو مسیح ایسی شہادت ہرگز نہ دے سکتے تھے، بلکہ ایسی صورت میں ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ یہودیوں کو اس تحریف پر الزام دیتے، اس کے جواب میں سب سے پہلے توہم یہ کہیں گے کہ چونکہ عہدِ حقیق اور عہدِ جدید کی کتابوں کے لئے تواتر لفظی ثابت نہیں ہو سکا اور کوئی ایسی سند نہیں پائی گئی جو مصنف تک متصل ہو، جیسا کہ باب اول کی فصل دوم میں معلوم ہو چکا ہے، اور کچھ نہ نہ کتاب استیر کے بارے میں مقصد ۲ کی شہادت نمبر ۱۱ میں ناظرین کی نظر سے گذر چکا ہے، اور انجیل متن کے حق میں مقصد ۱۰ شہادت نمبر ۱۸ میں آپ دیکھ چکے ہیں، نیز کتاب ایوب اور کتاب غزل الغزلات کے حق میں عنقریب معلوم ہونے والے ہے۔

غرض جملہ اقسام کی تحریف ثابت ہو چکی، اور دینداروں کی جانب سے کسی مسئلہ کی تائید یا کسی اعتراض کے دفع کرنے کے لئے بھی تحریف ثابت ہو گئی جیسا کہ ابھی ابھی.... قول نمبر ۳ میں ناظرین کو معلوم ہو چکا ہے، اس لئے یہ کتاب میں ہمارے نزدیک مشکوک ہیں، لہذا ان کی کسی آیت سے ہمارے خلاف کوئی..... استدلال کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ممکن ہے وہ آیت الحاقی ہو، جس کو دیندار عیا نیوں نے دوسری صدی کے آخر یا تیسری صدی میں

لہ دیکھئے صفحہ ۶۵ جلد ہذا ۳۴ دیکھئے صفحہ ۱۳۱ جلد ہذا

عہ یعنی جس آیت سے ہمارے خلاف استدلال کیا جا رہا ہے،

فرقہ ابیونیہ و مارقیونیہ و مانی کنیز کے مقابلہ میں بڑھا دیا ہو، اور یہ تحریفات ان کے بعد اس نئے راجح قرار دے دی گئی ہوں کہ ان سے کسی مسلم مسئلہ کی تائید ہوتی تھی، جیسا کہ انہوں نے فقرہ ایرین اور یونی کینس کے مقابلہ میں کیا تھا، اور یہ تحریف ان کے بعد اس نئے راجح قرار پائیں کہ یہ تینوں مذکورہ فرقے عہدِ عتیق کی تمام یا اکثر کتابوں کا انکار کرتے تھے، چنانچہ پہلے فرقہ کا انکار ہدایت نمبر ۲ مخالف نہ برا کے جواب میں آپ کی نظر سے گذر چکا ہے،

بل اپنی تاریخ میں فرقہ مارقیونیہ کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے،

«اس فرقہ کا عقیدہ یہ تھا کہ دو خدا موجود ہیں، ایک نیکی کا خالق اور دوسرا بدی کا، اور اس بات کا قائل تھا کہ توریت اور عہدِ عتیق کی دوسری کتابیں دوسرے خدا کی دی ہوئی ہیں، اور یہ سب عہدِ جدید کے مخالف ہیں»،

اور لارڈ نر اپنی تفسیر کی جلد ۳ صفحہ ۸۶ میں فرقہ کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے :-

«یہ فرقہ کہتا ہے کہ یہودیوں کا معبود عیاشی کا باپ نہیں ہے، اور عیشی عاکی آمدِ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مثانے کے نئے ہوئی، کیونکہ وہ انجیل کے مخالف تھی» ॥

اور لارڈ نر اپنی تفسیر کی جلد ۳ میں فرقہ مانی کنیز کے احوال کے تحت بیان کرتا ہے کہ :

«مئو خیں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ پورا فرقہ کسی زمانہ میں بھی عہدِ عتیق کی مقدس کتابوں کو نہیں مانتا تھا، اعمال اور کلاس میں اس فرقہ کا عقیدہ یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان نے یہود کے پیروں کو دھوکہ اور فریب دیا، اور شیطان ہی نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے نبیوں سے کلام کیا تھا، یہ فرقہ انجلیل یوحنا کے بابا آیت ۸ سے استدلال کرتا تھا کہ مسیح نے ان سے بتایا کہ وہ چور اور لیڑتے ہیں» ॥

دوسرے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کے الحاقی یا غیرالحاقی ہونے سے قطع نظر بھی کر لیں تو بھی اس سے ان تمام کتابوں کی سند ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں نہ توان تمام کتابوں کی تعداد بتائی گئی ہے، اور زان کے ناموں کی لشاندھی کی گئی ہے، تو پھر یہ بات کیونکہ معلوم ہو سکتی ہے کہ عہدِ عتیق کی جو تباہیں یہودیوں کے یہاں رائج تھیں وہ اُنتالیس ہی تھیں، جن کو اس دور کا فرقہ پر ڈسٹنٹ مانتا ہے، یا پھر وہ چھیالیں کتابیں ہیں جن کو فرقہ کی تھوک کے تسلیم کرتا ہے، اس نئے

لئے جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں الخ ۱۰: ۸ ॥

کہ ان کتابوں میں کتب دانیال بھی شامل ہے، جسے حضرت مسیح کے ہم صدر یہودی اور دوسرے متاخرین رسوائے یوسفیس مؤرخ) الہامی نہیں مانتے، بلکہ یہ لوگ دانیال کا نبی ہونا بھی تسلیم نہیں کرتے اور یوسفیس مؤرخ جو عیا یوں کے یہاں معتبر و مستند اور منقصب یہودی ہے، اور مسیح کے بعد گذر ہے، وہ اپنی تاریخ میں صرف اتنی بات کا اعتراف کرتا ہوا کہتا ہے کہ ”ہمارے پاس ایسی نہاروں کتابوں کا وجود نہیں ہے جن میں ایک دوسری کے ماقض و خلاف ہو، بلکہ ہمارے نزدیک صرف ۲۴ کتابیں ہیں جن میں گذشتہ زمانوں کے احوال بخے ہیں، جو الہامی ہیں، ان میں پانچ کتابیں موسیٰ کی ہیں، جن میں ابتدائی آفرینش سے موسیٰ کی ففات تک کا حال بخا ہے، اور ۱۷ کتابیں وہ ہیں جو دوسرے پیغمبروں نے بخی ہیں، جن میں موسیٰ علیہ السلام کی ففات کے بعد ان کے اپنے پئے دور کے حالات لا دشیر بادشاہ کے عہد تک کے بخہ ہوئے ہیں، باقی چار کتابیں اور چیز جن میں صرف خاص کی حد ذات بیان کی گئی ہے۔“

دیکھئے الشہادت سے کسی طرح یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مرقد جگتا ہیں سچی ہیں، اس لئے کہ اس کے بیان کے موافق توریت کے علاوہ صرف سترہ کتابیں ہیں، حالانکہ فرقہ پر و ٹسٹنٹ کے نزدیک ان کتابوں کی تعلیم چوتیس اور ترقہ کی تھوک کے نزدیک کتابیں ہیں، اسکے ساتھ ہی یہ بھی بتہ نہیں چلتا کہ ان میں کوئی کتاب سترہ کتابوں میں شامل ہے۔ کیونکہ اس مؤرخ نے خزقیال مکی جانب ان کی مشہور کتاب کے علاوہ اپنی تاریخ میں دو کتابیں اور بھی مسوب کی ہیں، اس لئے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں کتابیں اگرچہ آج موجود نہیں ہیں، مگر اس کے نزدیک یہ سترہ کتابوں میں شامل تھیں، اور ہر مقصد کی شبہادت ۱۹ میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ریاضت اور علماء کی تھوک یہ اعتراف کرتے تھے کہ یہودیوں نے اپنی غفلت کی وجہ سے بہت سی کتابوں کو صنائع کر دیا، بلکہ اپنی بد دیانتی کے سبب بعض کو پھاڑ دیا، اور کچھ کو جلا دیا، اس لئے بہت ممکن ہے کہ یہ کتابیں ان سترہ میں داخل ہوں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کتابیں جن کی تفصیل یہم ابھی بیان کرتے ہیں اُن کے بارے میں فرقہ پر و ٹسٹنٹ یا کٹھوک یا کسی تیرے فرقہ کی قطعی مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ عہدِ عینیت ہے ان کے مفہود ہونے کا انکار کر سکیں، اس لئے ممکن ہے کہ ان میں سے اکثر ان سترہ کتابوں میں شامل ہوں۔

لہ اس اعتراف کے جواب میں عیاشی علماء نے جو کہیں تاں کی پے لے سے ص ۲۵۶ کے حاشیہ پر ملاحظہ فرمائیے تھے

گمشدہ کتابوں کی تفصیل

۱۔ سفر حرب رب الرب رخداوند کا جنگ نامہ، جس کا ذکر کتاب گنتی باب ۱۲ آیت نمبر ۱۷ میں آیا ہے، اور مقصد ۲ شہادت نمبر ۱ میں ناظرین کی نظر سے بھی گذر چکا ہے، ہنری واسکا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ:-

” غالب یہ ہے کہ موسیٰ نے یہ کتاب یوشع کی تعلیم کے لئے بھی تھی، اور اس میں سر زین موآب کی حدود کا بیان تھا۔“

۲۔ کتاب الیسیر، جس کا ذکر کتاب یوشع باب ۱۳ میں آیا ہے، جیسا کہ مقصد ۲ کی شہادت نمبر ۱۸ میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے، اسی طرح اس کا تذکرہ کتاب سموئیل ثانی باب آیت ۱۸ میں بھی آیا ہے۔

۳۔ ۴۔ ۵۔ سلیمان علیتِ اسلام کی تین کتابیں ہیں، ایک ۱۰۰۵ ازبوریں ہیں، دوسری میں تاریخ مخلوقات، اور تیسرا میں تین هزار کہاویں بھی ہیں، ان میں سے بعض کہاویں آج بھی باقی ہیں، جیسا کہ فقریب آپ کو معلوم ہو گا، اور ان تینوں کا ذکر سلاطین اول کے باب ۱۲ آیت ۳۲ میں بھی موجود ہے۔

آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد میں آیت ۳۲ کی شرح کرتے ہوئے کہا تو ان اور زبوروں کے بارے میں کہتا ہے کہ:-

”وہ کہاویں جو آج کل سلیمان علی کی طرف مسوب ہیں وہ انداز ۹۰۰۱ ۹۲۳ یا ۹۰۰۵ ہیں، اور اگر بعض لوگوں کی یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ کتاب کے ابتدائی فوابواب سلیمانی کی تصنیف نہیں ہیں تب تخمینہ ۶۰۰ رہ جاتی ہیں، اور ۱۰۰۵ ازبوروں میں صرف غزل الغزلات باقی ہے، اب اگر ہم یہ مان لیں کہ زبور نمبر ۱۲ جس کے عنوان میں سلیمان علی کا نام لکھا ہوا ہے، اس میں شامل نہیں ہے اور زیادہ صحیح ہی ہے کہ اس زبور کو ان کے والد داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لئے دیکھئے صفو ۶۴ جلد پڑا ۳۲ یہ سر زین بحر میت و DEAD SEA کے مشرق میں واقع تھی اس تھا دیکھئے صفو، ۶۶۸ یا ۶۷۰ میں اس نے تین بڑا مشیں کہیں اور اس کے ایکہزار یا سو گیت تھے (ارسلا ۳۲ : ۳۲)

تصنیع کیا ہے؟"

پھر آیت ۳۳ کی شرح میں مخلوقات کی تاریخ کی نسبت یوں کہتا ہے کہ:-

"علماء کو تاریخ عالم کے دائمی فقراں اور گشادگی پر ڈا سخت قلق ہے"

۶۔ کتاب قوانین السلطنت، مصنفہ سوئیل جس کا ذکر سوئیل اول باب آیت ۲۵ میں آیا ہے،

۷۔ تاریخ سوئیل،

۸۔ تاریخ نامان پیغمبر،

۹۔ تاریخ جاد غیب بین، ان تینوں کتابوں کا ذکر تواریخ اول باب ۹ آیت ۳ میں آیا ہے۔ آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد ۲ صفحہ ۱۵۲ میں کہتا ہے کہ:-

"یہ کتابیں ناپید ہیں"

۱۰۔ کتاب سمیاہ، ۱۱۔ کتاب عید و غیب بین، ان دونوں کا ذکر تواریخ ثانی باب ۱۲ آیت ۱۵ میں آیا ہے۔

۱۲۔ کتاب اخیاہ پیغمبر، ۱۳۔ مشاهدات عید و غیب بین ان دونوں کا ذکر تواریخ ثانی باب ۹ آیت ۲۹ میں آیا ہے۔

اسی کتاب میں نامن پیغمبر کی تاریخ کا بھی ذکر ہے، آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد صفحہ ۱۵۳۹ میں کہتا ہے کہ:-

"یہ تمام کتابیں معدود ہیں"

۱۴۔ کتاب یا ہو پیغمبر بن حنفی، جس کا ذکر تواریخ ثانی باب ۹ آیت ۳۳ میں آیا ہے آدم کلارک

لئے پھر سوئیل نے لوگوں کو حکومت کا طرز بتایا، اور اُسے کتاب میں لکھ کر خداوند کے حضور رکھ دیا" (۱۰: ۲۵) یہ اور داؤد پشاور

کے کام شروع سے آخر تک سمجھے سوئیل غیب بین کی تواریخ میں اور نامن بنی کی تواریخ میں اور جاد غیب بین کی تواریخ میں الخ

تک اور رجام کے کام اول سے آخر تک کیا۔ وہ سمیاہ بنی اور عید و غیب بین کی تواریخوں نسب معمول کے مطابق قلمبند نہیں" ۱۴

تک" اور سیلان کے باقی کام شروع سے آخر تک کیا؛ وہ نامن بنی کی کتاب میں اور سیلانی اخیاہ کی پیش گوئی میں اور عید و غیب بین

کی روایتوں کی کتاب میں جو اس نے یہ بعام بن نبات الم" ۱۵ تک اور یہ سقط کے باقی کام شروع سے آخر تک، یا ہجین خانی

کی تاریخ میں درج ہیں بحوالہ ارشیل کے سلاطین کی کتاب میں شامل ہے" اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب یا ہو، کتاب

جلد ۲ صفحہ ۵۶۱ میں کہتا ہے کہ :-

”یہ کتاب آجکل قطعی مفقود ہے، اگرچہ قواریخ نامی کے المیت کے جانے کے دور میں موجود تھی“

۱۵۔ کتاب اشیعیاہ پیغمبر، جس میں شاہزادیاہ کا حال شروع سے آخر تک درج تھا اور جس کا ذکر قواریخ نامی باب ۲۶ آیت ۲۲ میں آتا ہے، آدم کلارک صفحہ ۱۵۷ جلد ۲ میں کہتا ہے کہ :-

”یہ کتاب سرسے سے ناپید ہے“

۱۶۔ کتاب مشاہدات اشیعیاہ پیغمبر، جس میں شاہزادیاہ کے تفصیلی حالات لکھے ہوئے تھے، جس کا ذکر قواریخ نامی باب ۳۲ آیت ۳۲ میں آیا ہے،

۱۷، ارمیاہ پیغمبر کا مرثیہ جو یوسیاہ کے باسے میں کہا گیا ہے جس میں کا ذکر قواریخ نامی باب ۳۵ آیت ۲۵ میں آیا ہے، آدم کلارک اس آیت کی شرح کے ذیل میں کہتا ہے کہ :-

”یہ مرثیہ اب مفقود ہے“

ڈی آٹی اور رچرڈ منٹ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ :-

”اس زمانہ میں یہ مرثیہ ناپید ہے، اور جو مرثیہ آجکل مشہور ہے وہ قطعاً یہ مرثیہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشہور قصیدہ یہ دشلم کے دردناک واقعہ اور صدقیاہ کی موت پر لکھ گیا ہے، بخلاف اس مرثیہ کے کہ یہ یوسفیا کی موت سے تعلق رکھتا ہے“

۱۸۔ کتاب قواریخ الایام، جس کا ذکر کتاب نجیا باب ۱۲ آیت ۲۳ میں موجود ہے، آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد ۲ صفحہ ۱۴۶ میں کہتا ہے کہ :-

”یہ کتاب موجودہ کتابوں میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ان میں اس کی کوئی فہرست بھی نظر نہیں آتی، بلکہ یہ ایک دوسری مستقل کتاب ہے، جو آج ناپید ہے“

۱۹۔ سفر عبد موسیٰ جس کا ذکر سفر خروج باب ۲۳ آیت ۷ میں آیا ہے،

”اوے اور عزیاہ کے باقی کا شروع سے آخر تک گاموس کے بیٹھے یوسیاہ بنی نے لکھے“ تھے اور اس کے نیک مغل آموس کے بیٹھے یوسیاہ بنی کی روپیں الحج، تھے اور یرمیاہ نے یوسیاہ پر لوحہ کیا ہے (۲۵- قواریخ ۲۵) تھے بنی لادی کے آبائی خاندانوں کے سردار بیوحنان بن ایا سب کے دونوں تک قواریخ کی کتابوں میں لکھے جائے تھے، اس کے علاوہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ سرداروں کی فہرست نجیاہ کے زمانہ میں کتاب قواریخ میں موجود

رسی ہو اور پھر بعد میں سمجھا اور سخریغات کے اُس سے بھی حذف کر دیا گیا ہو ۱۲ ات .

لئے پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ ۶۴

۲۔ کتاب اعمال سیلمان جس کا تذکرہ کتابتہ ملکیتیں المأول باب آیت ۲۱ میں موجود ہے، اس کے علاوہ یہ بات ناظرین کو معلوم ہی ہے کہ یوسیف نے حزقیال کی مشہور کتاب کے علاوہ دو کتابیں ان کی طرف اور منسوب کی ہیں، اور یہ شخص میساٹیوں کے نزدیک معترضور خ ہے، اس طرح گشۂ اور ناپید ہو جانے والی کتابوں کی تعداد بائیس ہو جاتی ہے، فرقۂ پروٹستنٹ کو بھی اس کے انکار کی مجال نہیں ہو سکتی، علماء کتبخواک میں سے طامس انگلش نے اپنی کتاب مرآۃ الصدق میں جوار دوز بان میں ہے اور ۱۸۵۶ء میں چھپی ہے لکھا ہے کہ :-
 ” تمام دنیا کا اس امر پر اتفاق ہے کہ وہ کتابیں جو کتب مقدسہ میں سے گم اور ناپید ہو گئیں، ان کی تعداد بیس سے کم نہیں ہے ۔“

ضروری نوٹ

بعض بشارتیں جو اہل کتاب سے منقول ہیں قدیم اسلامی کتابوں میں موجود ہیں مگر وہ آج بھل ان کی مسلم کتابوں میں نہیں ملتیں، غالباً وہ ان گشۂ کتابوں میں موجود ہوں گی، البتہ یوسیف کی شہادت سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس کے زمانہ میں پاپخ کتابیں موسائی کی جانب منسوب تھیں، مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ پاپخ کتابیں وہی ہیں جو آج بھل موجود اور مردوج ہیں، بلکہ ظاہراً اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے کیونکہ موجود کتابیں ان کے مخالف ہیں، جیسا کہ قارئین کو مقصد کی شہادت نہ را، ۲ میں معلوم ہو چکا ہے، چونکہ یہ شخص متعصّب یہودی ہے، اس لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ توریت کو خدا کا کلام مانتے ہوئے بغیر محنت مجبوری کے اس کی مخالفت کرے،

مغالطہ کا تیر اجواب اتنی سرے اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں، کہ یہ مرد جبکہ کتابیں سیع علیہ السلام کے زمانہ میں موجود تھیں، اور سیع اور ان کے حواریوں نے ان کی نسبت شہادت بھی دی ہے، تب بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کی شہادت کا مقتضی تو صرف اس قدر ہے کہ یہ کتابیں اس زمانہ کے یہودیوں کے پاس موجود تھیں، خواہ وہ انھیں اشخاص کی تصنیف ہوں، جن کی طرف ان کو منسوب کیا گیا ہے، یا ان کی تصنیف نہ ہوں، اور خواہ

وہ حالات جو ان میں درج ہیں سچے ہوں اور کچھ بھجوئے، اس شہادت کا مقتضی یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ ہر کتاب منسوب الیہ کی تصنیف ہے، اور ہر کتاب میں جو واقعات درج ہیں وہ قطعی سچے ہیں، بلکہ اگر مسیح اور حواری ان کتابوں کے حوالہ سے کچھ نقل بھی کرتے تو بھی شخص ان کے نقل کرنے سے یہ بات لازم نہیں آسکتی کہ منقول عنصر اس قدر صحیح ہے کہ اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں۔

البتہ اگر مسیح اس کے کسی جزو میں یا کسی حکم میں یہ بات صاف کر دیتے کہ یہ منجانب اثر سے اور اسکی یہ تصریح تو اتر سے ثابت بھی ہو جاتی تو بیشک سمجھی مانی جاتی، اس کے سوا تو جو کچھ ہو گا وہ تحقیق کا محتاج ہو گا، یہ بات ہم محض اپنے قیاس و اجتہاد سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ فرقہ پروٹستانٹ کے محققین نے بھی آخر کار اسی رائے کی طرف رجوع کیا ہے، ورنہ ان لوگوں کے ہاتھوں بڑی بُری گت بنتی، جن کو یہ محمد و بد دین کہتے ہیں، اور ان سے پچھا چھڑانے کے لئے اور کہیں ان کو پناہ نہ ملتی، جو آج یہود پک کے تمام مکون میں برستی میںندک کی طرح پھیلے چڑے ہیں، فرقہ پروٹستانٹ کا محقق پیلی اپنی کتاب مطبوعہ ۱۸۵۰ء لندن، قسم ۲ باب میں یوں کہتا ہے کہ:-

”اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے شیفع کا قول ہے کہ قدیت خدائی کتاب تھی، اور میں یہ بات مستبعد سمجھتا ہوں کہ اس کا آغاز اور وجود خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوا بالخصوص اس بناء پر کہ یہودی جو مہربی میلان کے مرد اور دوسرا کاموں شلا فنوں جنگ وصلح میں طفیل مکتب تھے، وہ توجید سے چھٹے ہوئے تھے، ان کے سائل خدا کی ذات و صفات کی نسبت بہتر ہیں ہیں، بخلاف دوسرے لوگوں کے جو بے شمار مجبودوں کے قائل تھے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے شیفع نے ہمید علیت کے اکثر کا تبروں کی بتوت بھی تسلیم کی ہے، ہم عیاشی لوگوں کا فرض ہے کہ ہم اسی حد تک جائیں

(صفحہ گذشتہ کے حاشیے ملاحظہ ہوں)

لہ ”گیادہ سیمان کے احوال کی کتاب میں درج نہیں ہے“

۶۷ ملاحظہ ہو صفحہ ۶۵، جلد ہذا کم دیکھئے صفحہ ۶۲۴-۶۱۹ جلد ہذا

رہی یہ بات کہ عہدِ حق غنیق نگل کی نگل یا اس کا ہر ہر فقرہ حق و صلح ہے، اور اسکی ہر کتاب کی کوئی اصل ضرورت ہے، یا یہ کہ اس کے مولفین کی تحقیق و اجتب نہیں ہے، اگر ان معاملات میں مسیحی مذہب کو مدعی بنایا جائے تو میں اُس سے زیادہ پچھہ عرض نہیں کر دیں گا کہ اس شکل میں پورے سلسلہ کو بلا ضرورت مصیبت میں ڈالنا پڑے گا، یہ کتابیں ممکنًا پڑھی جاتی تھیں، اور جو یہودی ہمارے شیفع کے ہمصر تھے، وہ ان کو مانتے تھے حماری اور یہودی ان کی طرف رجوع کرتے، اور عمل کرتے تھے، مگر اس رجوع و استعمال سے اس نتیجہ کے سوا اور کوئی بات اخذ نہیں کی جاسکتی، کہ جب مسیح ملیہ السلام کسی بشارت کی نسبت صراحت کے ساتھ یہ فرمادیں کہ یہ منجانب اللہ ہے تب قبیشک اس کا الہامی ہونا ثابت ہو جائے گا، ورنہ صرف اتنی بات ثابت ہو گی کہ یہ کتاب میں اس عہد میں مشہور و مسلم تھیں، لہذا اس صورت میں ہماری کتب مقدسه یہ تو کتابوں کیلئے سبھتر مثابر ثابت ہوئیں، مگر اس شہزادگی خاصیت کو سمجھنا ضروری ہے اور یہ خصیت اس اخلاقیت کے بر عکس ہے جس کو میں نے بعض اتفاقات بیان کیا ہے، کہ ہر واقعہ کی ایک مخصوص ملت اور فطرت ہوتی ہے جو اس کے ثبوت کو مستحکم کرتی ہے، یہ فطرت اگرچہ مختلف ہوتی ہے لیکن تمام گوشوں پر نگاہ کیجئے تو چیز ایک ہی ہے۔ مثلاً یعقوب اپنے خط میں سمجھتا ہے کہ «تم نے ایوب کے صبر کا حال شناہیے اور پرد دگار کے مقصود کو جانا ہے»؛ حلانکہ مسیحی علماء کے درمیان کتاب ایوب کی خانیت بلکہ اس کے وجود کی نسبت نزاع و اختلاف چلا آتا ہے، یعقوب کی شہادت نے صرف اس قدر سمجھا دیا کہ کتاب اپنے وقت میں موجود تھی، اور یہودی اس کو تسلیم کرتے تھے، پوس تین شخص کے نام و دمرے خط میں کہنا ہے کہ "جس طرح یہیں اور یہیں نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی اسی طرح یہ لوگ بھی حنفی کی مخالفت کرتے ہیں" حلانکہ دلوں نام عہدِ حق میں موجود نہیں ہیں، اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ پوس نے ان دونوں ناموں کو حجھوڑی لئے یعقوب ۱۱ موجودہ اردو ترجمہ کی عبادت یہ ہے۔ "تم نے ایوب کے صبر کا حال تو مٹا ہی ہے، اور خداوند کی طرف سے جو اس کا نجام ہوا اُسے بھی معلوم کر دیا" ۱۲ ات ۷۵ باب ۸ آیت

کتابوں سے نقل کیا ہے۔ یا روایت کی بناء پر معلوم کیا ہے۔ لیکن کوئی شخص بھی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ اگر یہ واقعہ تکھا ہوتا تو پوسس کو کتاب سے نقل کرتا، اور خود اپنے کو روایت کی سچائی ثابت کرنے کے لئے تمی نہ بنانا، چہر جائیکہ وہ ان سوالات کے چکر میں اس طرح پھنستا کہ اس کی تحریر اور خط دونوں س صحیق پرستوقوف ہو گئے کہ نہیں اور یہ بڑی نے مولیٰ عکی مخالفت کی تھی یا نہیں؟

اس تقریب سے یہ ری غرض یہ نہیں ہے کہ یہودیوں کی تواریخ کے فتوزوں کے لئے کوئی شہادت ایوب کی تاریخ اور نہیں اور یہ بڑی نہیں ہے بلکہ میں ایک دوسرے پہلو اور جدید نظریہ سے سوچتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ہدایت عینیت کے کسی فقرہ کے ہدایت جدید میں نقل کئے جانے سے اس فقرہ کی اس درجہ سنجائی لازم نہیں آتی، کہ اس کے معتبر ماننے میں کسی خارجی دلیل کے اعتبار کرنیکی ضرورت نہ رہے، جو تحقیق کی بنیاد ہے، اور یہ بات جائز نہیں ہو سکتی، کہ یہودی تواریخ کے لئے یہ قاعدہ مان لیا جائے کہ ان کی ہر بات سچی ہے، ورنہ پھر تو ان کی تمام کتابیں جھوٹی ہو جائیں گی، یکون کہ یہ قاعدہ کسی دوسری کتاب کے لئے ثابت نہیں۔ میں اس امر کی توضیح ضروری سمجھتا ہوں اس لئے کہ ولی ڈر اور اس کے سوچنے کا وصیہ روانہ سے یہ طریقہ رہا کہ وہ یہودیوں کی بغل میں گھستے تھے، پھر مذہب عیسوی پر مدد آور ہوتے، ان کے بعض اعتراضات کامن شاء تو یہ ہے کہ معانی کی تشریح واقعہ کے خلاف کی گئی، اور بعض اعترافات کا منتاء محض مبالغہ ہے، مگر ان اعتراضات کی بنیاد اس پر ہے کہ مسیح اور قدیم معلیمین کی شہادت، مولیٰ عکی اور دوسرے پیغمبروں کی رسالت پر گویا یہودیوں کی تواریخ کے ہر ہر قول اور ہر جز کی تصدیق ہے، اور ہر اس واقعہ کی صفات مذہب عیسوی پر وابستہ ہے، جو یہ ہدایت عینیت میں درج ہے۔

اب قاریٰ ملاحظہ فرمائیں کہ اس محقق کا کلام ہمارے دعوے کے مطابق ہے یا نہیں؟ وہی یہ بات کہ اُس نے یہ کہا ہے کہ اس کتاب ایوب کی خفایت بلکہ اس کے وجود کی نسبت علماء نصاریٰ میں نہ اس نے ہے، یہ درحقیقت ایک بڑے اختلاف کی جانب اشارہ

کیا گیا ہے، کیونکہ رب ملکی دین جو ایک شہر ہے وہی عالم ہے، اسی طرح میکائیل اور نیکلک اور سمل و استاک وغیرہ نے کہا ہے کہ ایوب محض ایک فرضی نام ہے، جس کا مقصود اُن کسی زمانہ میں نہیں ہوا، اور اس کی کتاب محن سمجھوتے انسانوں کا مجموعہ ہے، کامنہ اور وائل وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ شخص واقعہ میں موجود تھا، پھر اس کے وجود کو تسلیم کرنے والے اس کے زمانہ کی تعین میں سات مختلف رائیں رکھتے ہیں،

بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ موسنی علیہ السلام کا ہم عمر تھا، بعض کا قول ہے کہ یہ قاضیوں کے زمانہ میں یو شعاع کے بعد ہوا ہے، بعض کا خیال ہے کہ یہ اشتی روں یا ارد شیر شاہ ایران کا ہم عمر ہے، بعض کا قول ہے کہ یہ اس زمانہ کا شخص ہے جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نہیں آئئے تھے، بعض کی رائے ہے کہ عقوبہ کا ہم صدر ہے، بعض کا فیصلہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ہم زمانہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے زمانہ کا ہے، فرقہ پروتستان کا محقق ہورن کہتا ہے کہ ان خیالات کا ہلکا پن ان کی کمزوری کی دلیل ہے،

اسی طرح اس کی جائے پیدائش غوطہ کے باڑہ میں اختلاف ہوا ہے، جس کا ذکر اس کی کتاب کے باب ایت امیں آیا ہے، یہ جگہ کس ملک میں واقع ہے، اس میں تین قول ہیں چنانچہ بوجارٹ اور استرام و کامنہ وغیرہ کہتے ہیں، کہ یہ ملک عرب میں ہے، میکائیل اور الجن کی رائے یہ ہے کہ یہ دمشق کے علاقہ میں تھا، بوڑا اور ماجی اور ہیلز، وکوفہ اور بعض متاخرین کا دھوی یہ ہے کہ غوطہ اور میرہ کا نام ہے،

اسی طرح کا اختلاف اس کتاب کے مصنف میں بھی پایا جاتا ہے، کہ وہ یہودی ہیں یا ایوب یا سلیمان یا اشیاء یا کوئی مجھوں الاسم شخص جو بادشاہ مختار کا ہم عمر تھا، پھر آخری قول کے قائلین میں اختلاف چلا، بعض متقدیم کے نزدیک اس کو موسنی ہے نے عبرانی زبان میں آنیت

لے، قاضیوں کا زمانہ "تشریح کے لئے" دیجھے، صفحہ، بہ کا حاشیہ ۱۲ ت سے قدیم عربی تراجم میں اس کا نام "غوطہ" کہی مذکور ہو گا، لیکن عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۹۵ء میں "سوس" اور بوجوہ اور دو ترجمہ میں "سون" لکھا ہے، سے تمام عربی نسخوں میں یہ نام "اسیام" ہی لکھا ہے، مگر انگریزی مترجم نے اُسے SPANNHEIM لکھا ہے ان دونوں ناموں کے کسی عالم کے حالات ہمیں معلوم نہ ہو سکے ۱۲ ت سے الجن ALGEN اٹھا رہوں صدی کا مشہور حقیقت

کیا تھا، آ۔ یہ جن کہتا ہے کہ انہوں نے سریانی سے عبرانی میں ترجمہ کیا تھا، اسی طرح کتاب کے اختمام کی جگہ میں بھی اختلاف ہے، جیسا کہ مقصد نمبر ۲ کی شہادت نمبر ۱۲ میں معلوم ہو چکا ہے کہ اس طرح ۲۴ قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے،

یہ اس دعاویٰ کی کافی دلیل ہے کہ اہل کتاب کے پاس اپنی کتابوں کے لئے کوئی سند متصل نہیں ہے، بلکہ جو کچھ سمجھی کہتے ہیں محض قیاس دگان ہی کے طور پر کہتے ہیں، پادری تیہود در نے جو پا پنجویں صدی میں گذرائے، اس کتاب کی سخت مذمت کی ہے، دارود گیتو لوگ نے نقل کیا ہے کہ فرقہ پروٹست کے پیشوائے اعظم جناب لوٹھر نے کہا ہے کہ :-
” یہ کتاب محض ایک کہانی ہے ”

غور کریجئے کہ یہ کتاب جو فرقہ پروٹست اور کیتو لوگ کے بیان مسلم کتابوں میں شمار ہوتی ہے رب مانی دیز، میکا یلیس، لیکلر ک، سمل اور رستاک وغیرہ کی تحقیق کے مطابق محض ایک جھوٹا قصہ اور باطل افسانہ ہے، اور تیہود ڈور کے نزدیک قابل مذمت اور فرقہ پروٹست کی رائے کے مطابق ناقابل التفات ہے، اور ان کے مخالفین کے قول کی بناء پر اس کا مصنف کوئی متعین شخص نہیں ہے، بلکہ تیاسی طور پر اس کو مختلف اشخاص کی طرف نسب کرتے ہیں، پھر اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ تیہود کی یا منسا کے زمانہ کی کسی مجہول الاسم شخص کی تصنیف ہے تو اس کا اہمی ہونا ثابت نہیں ہو سکتا،

ادھر مقصد نمبر ۲ شہادت نمبر ۱ میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ کتاب آسٹر مقصود میں عیاٹیوں کے بیان ۲۵۳ء میں غیر مقبول اور ناپسندیدہ رہی ہے، اس کے مصنف کا نام بھی یقینی طور پر معلوم نہیں، ملیتو، گری نازی زن اور انہمائی شیس نے اس کو رد کیا ہے، اور ایم فیلو کیس نے اس پر شبہ ظاہر کیا ہے،

یہی حال کتاب تشید الانشاد کا ہے جس کی بے حد مذمت پادری تیہود در نے اسی طرح کی ہے جن طرح کتاب ایوب کی، اور سیمن، لیکلر اس کی سچائی کا انکار کرتے ہیں، وسٹن اور بعض متاخرین کا بیان ہے کہ یہ بد کاری والا گانا ہے، اس کا اہمی کتابوں سے خارج کیا جانا ملے سمجھیں ہیں آتا کہ اس کے باوجود فرقہ پروٹست اسے کتب مسلم میں کیوں شامل قرار دیتا ہے؟ ۱۲ ات

ضروری ہے،

سملک کہتا ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ یہ جعلی کتاب ہے، وارڈ کیتھولک نے کاستیلیو کا قول نقل کیا ہے کہ اس کتاب کا عہدہ حقیق سے نکالا جانا ضروری ہے، یہی حال دوسری کتابوں کا ہے، پس اگر مسیح علیہ السلام اور حواریوں کی شہادت عہدہ حقیق کے پر ہر جزو کو ثابت کرنے والی ہوتی، تو اس قسم کے شرمناک اختلافات کی مسیحی علماء کے درمیان الگوں میں بھی اور چھپلوں میں بھی گنجائش نہ ہوتی، اس لئے انصاف کی بات یہی ہے کہ پیلی نے جو کچھ کہا ہے وہ اس سلسلہ میں بالآخری بات ہے اور اس کے قول کے مطابق اعتراف کئے بغیر، ان کے لئے اقرار کی کوئی جگہ نہیں رہی،

ادھر مقصد اشہادت نمبر ۶ میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ علماء مسیحیین اور علماء یہود دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ عرب راءؓ نے کتاب تواریخ اول میں غلطی کی ہے، اور یہ کتاب بھی ان کتابوں میں شامل ہے جن کی حقانیت کی شہادت ان کے خیال کے مطابق مسیح ع نے دی ہے، اب اگر یہ لوگ پیلی کی تحقیق کو تسلیم نہ کریں تو اس غلطی کی تصدیق کی نسبت کیا فرمائیں گے؟

معاشرہ کا چوتھا جواب پھر چلتے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بطور فرض محال یہ بات تسلیم کر لیں کر مسیح اور حواریوں کی شہادت ان کتابوں کے ہر ہر جزو اور ہر قول کی تصدیق ہے، تب بھی یہ ہمارے لئے مفرض نہیں ہو گا، کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جمیو علماء مسیحیین اور معتقد پین میں سے جتن، اگلے تاشن، گریز اسٹم کا مسلک اور تمام فرقہ کیتھولک، اور علماء پرولٹٹٹھ میں سے سلیبر جیسیں، ڈاکٹر کریب اور والی سیکراوری کلارک اور ہم فری اور والسن کا مسلک یہ ہے کہ یہودیوں نے مسیح اور حواریوں کے بعد ان کتابوں میں تحریف کی ہے، جیسا کہ تفصیلی طور پر ہدایت نمبر ۳ میں معلوم ہو چکا ہے، اور تمام علماء پرولٹٹٹھ بھی اکثر مقامات میں یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہودیوں نے تحریف کی ہے، جیسا کہ پچھلے تینوں مقاصد میں معلوم ہو چکا ہے،

واب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ مقامات جن میں ان کو تحریف کا اعتراف ہے کیا عیسیٰ

او رحواریوں کے زمانہ میں محرف تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے ان کتابوں کے ہر ہر قول اور بہر ہر حبیز کی سچائی کی شہادت دی، یا اس وقت محرف نہ تھے، بلکہ ان کے بعد تحریف کی گئی، کوئی دیانتدار شخص پہلی بات کہنے کی جڑات نہیں کر سکتا وسری شکل شہادت کے منافی نہیں ہے، اور یہی ہمارا مقصود ہے، اس لئے یہ شہادت اس تحریف کے لئے مضر نہیں ہے جو اس کے بعد واقع ہوئی ہے،

رہا ان کا یہ کہنا کہ اگر یہودیوں کی جانب سے تحریف ثابت ہوتی تو مسیح اس حرکت پر ان کو الزام دیتے، ہم کہتے ہیں کہ جہوں متفہین نصاریٰ کے مذاق کے مطابق تو یہ کہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ تحریف انہی کے زمانوں میں ہوئی ہے، اور وہ ان کو الزام بھی دیتے تھے، اور طامت بھی کرتے تھے، اور اگر ہم ان کے مذاق سے ہجے پشم پوشی بھی کر لیں تب بھی کہہ سکتے ہیں کہ الزام دنیا ان کے مسلک کی بناء پر قطعی ضروری نہیں ہے، یہ بات تو ہبہایت واضح ہے کہ عربانی اور سامری نسخوں میں اکثر مقامات کی نسبت ایسا شدید اختلاف پایا جاتا ہے جو ایک کے یقینی طور پر محرف ہونے کا مقتضی ہے، ان ہی مقامات میں سے ایک موقع وہ ہے جس کا ذکر مقصد نمبر اشہادت نمبر ۳ میں گزر چکا ہے، اور دونوں فریق کے درمیان سلف میں بھی اور خلف میں بھی نزاع چلا آتا ہے، دونوں میں سے هر فریق دوسرے کو محرف قرار دیتا ہے، ڈاکٹر گنی کاٹ اور اس کے پیر داس کے قائل ہیں کہ سامری حق پر ہیں اور جہوں علماء پر ٹسٹنٹ کی رائے یہ ہے کہ یہودی حق پر ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ سامراً لوں نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے پانچ سو سال بعد اس مقام میں تحریف کر دیا، گویا یہ تحریف ان کے دعوے کے بوجبہ سامراً لوں سے رائے قم میں صادر ہوئی ہے،

او مسیح اور ان کے حواریوں نے تو سامراً لوں کو مجرم قرار دیا، نہ یہودیوں کو، بلکہ ایک سامری عورت نے خصوصیت سے اس سلسلہ میں مسیح سے سوال بھی کیا، تب بھی مسیح لئے مطلب یہ ہے کہ اگر یہودیوں نے حضرت مسیح اور حواریوں کے بعد تحریف کی ہے تو ان حضرات کے کتب مقدسر کی حقانیت پر ٹوہری دینے سے یہ استدلال نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کتابیں اب بھی داخل تبلیغیں ہیں، کیونکہ ان حضرات کے بعد ان میں تحریف ہو چکی ہے اس لئے دیکھئے مص ۶۲۳، ۶۲۴ العدد ۹۳،

نے اس کی قوم پر الزام عائد نہیں کیا، بلکہ خاموش رہے، اس وقت کی ان کی یہ خاموشی سامریوں کی تائید کرتی ہے، اسی لئے ڈاکٹر کنی کاٹ نے اس کوتے استدلال کرتے ہوئے کہ مکمل طور پر تحریف نہیں کی، بلکہ یہودیوں نے کی ہے، جیسا کہ مقصد نمبر ۲ کی شہادت نمبر ۲ میں معلوم ہو چکا ہے، اسی طرح ان مقامات میں سے یہ موقع بھی ہے کہ سامری نسخہ میں ایک حکم احکام عشرہ سے زائد پایا جاتا ہے، جو عبرانی میں نہیں ہے، اس میں بھی، ہمیشہ اگلوں پچھلوں میں نزاع چلا آتا ہے اور مسیح اور حواریوں نے اس سلسلہ میں بھی دونوں فرقی میں سے کسی کو بھی الزام نہیں دیا،

اہل کتاب بھی دیانت دار تھے

تیسرا مغالطہ

تیسرا مغالطہ یہ ہے کہ یہودی اور عیائی بھی ایسے ہی دیانت دار تھے جیا تم اپنے حق میں دعویٰ کرتے ہو، تو پھر یہ بات بعید ہے کہ دیانت دار لوگ ایسی شرمناک حرکت کی جسارت کریں،

ہم کہتے ہیں کہ اس کا جواب ان لوگوں پر روشن اور ظاہر ہے جنہوں نے تینوں مقامات اور مغالطہ نمبر ۲ کے جواب کا مطالعہ کیا ہے، اور جب تحریف بالفعل یقینی طور پر واقع ہو چکی ہے، اور علماء پر وثیقہ نہ ہے، اگلوں نے بھی اور پچھلوں نے بھی اعزاز کر لیا ہے تو پھر اب اس مغالطہ کی گنجائش کب باقی ہے، اس لئے یہ بات بعید ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی ہٹ دھرمی کرے، بلکہ یہ حرکت تو متقدیں یہود و نصاری میں اُس مشہور مقولہ کے مطابق جس کا ذکر ہدایت نمبر ۲ کے قول نمبر ۲ میں گذر چکا ہے، دینی مستحبات میں شمار کی جاتی تھی،

لئے دس حکم یا احکام عشرہ **COMMANDMENTS** دہ دس حکم ہیں جو کہ سیدنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا الفصیلی ذکر خروج ۲۰: ۱۷ میں آیا ہوا اور اجمالاً استثناء ۱۰: ۳۶ و خروج ۲۲: ۲۲ میں مذکور ہے ۱۲ تھے یعنی یہ کہ با اوقات جھوٹ بھی مستحب ہو جاتا ہے ۱۲ تھے

یہ کتاب میں شہرت پاچکی تھیں ”

چورقا مغالطہ

”کتب مقدسہ کے نئے مغرب و مشرق میں پھیل چکے تھے، اس لئے کسی شخص کے نئے ان میں تحریف کرنا ایسا ہی ناممکن تھا، جس طرح تمہاری کتاب میں تحریف ناممکن ہے“ ہم کہتے ہیں کہ اس کا جواب ان لوگوں پر خواب واضح ہے، جنہوں نے تینوں مقاصد اور مغالطہ نمبر اکے جواب کا مطالعہ کیا ہے جب ان کے افرار سے تحریف بالفعل ثابت ہو چکی ہے تو پھر اس کے ناممکن ہونے کی بحث کیسی؟

رہا ان کتابوں کو فرآن مجید پر قیاس کرنا سوچ بالکل قیاس مع الفارق ہے۔ کیونکہ یہ کتاب میں فن طباعت کی ایجاد سے پہلے تحریف کی صلاحیت رکھتی تھیں، ان کی شہرت اس درجہ کی نہیں تھی کہ وہ تحریف سے اائع بن جاتی۔ دیکھ لیجئے کہ مشرقی بدینوں اور بیویوں نے کس طرح تحریف کر دیا، جس کا افسرار و اعزاز فرقہ پر و لٹٹٹ اور فرقہ کیتھولک والے دونوں یونانی ترجمہ کی نسبت کر رہے ہیں، حالانکہ مشرق و مغرب میں جو شہرت اس کو نصیب ہوئی وہ عبرانی سے کہیں زیادہ بڑھ کر رہے، اور ان کی تحریف کس قدر موثر ہوئی؟ یہ آپ کوہداہیت نمبر ۲ کے قول نمبر ۱۹ میں مغالطہ نمبر اکے جواب میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے، بخلاف قرآن مجید کے ماکیونکہ ہر قرن میں اسکی شہرت و قوایت تحریف سے مانع بنے ہئے دوسرے فرآن کریم پر طبقہ میں جس طبع صحیبوں میں محفوظ رہا، اسی طرح اکثر مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ رہا؟

اب بھی جس شخص کو اس کی صحت میں شک ہو دہ اس زمانہ میں بھی تحریف کر سکتا ہے، کیونکہ ایسا شخص اگر مصر کے مدارس میں سے صرف جامعہ ازہر کو دیکھئے تو اس کو هر وقت وہاں ایکہزار سے زیادہ ایسے اشخاص میں گے جو با تجوید حافظ قرآن ہوں گے، اور مصر کے اسلامی دیہات میں سے کوئی چھوٹا سا گاؤں بھی حفاظت سے خالی نہ ملے گا، حالانکہ تمام یورپیں ملکوں میں تنہا جامعہ ازہر کے حفاظت کے برابر بھی انجلیں کے حافظوں کی تعداد

نسل سے گئی، حالانکہ دو فارغ البال اور خوش عيش ہیں، اور صنعتوں کی طرف انہیں پوری توجہ ہے، اور ان کی تعداد مسلمانوں سے کافی زیادہ ہے، بلکہ ہمارا دھرمی ہے کہ مجموعی طور پر تمام یورپی مالک میں انگلی کے حافظوں کی تعداد دس کے عدد تک بھی نہیں پہنچ سکتی، ہم نے موجودہ دور میں کسی ایک شخص کی نسبت کبھی یہ نہیں سننا کہ وہ صرف انگلی ہی کا حافظ ہے چہرہ جائیکہ توریت اور دوسری کتابوں کا بھی حافظ ہو،

غرض یورپ کے تمام عیاسی مالک مل کر کبھی اس معاملہ میں مصر کی ایک سچھوٹی سی لبستی کے برابر نہیں ہو سکتے، اس خاص معاملہ میں تو بڑے بڑے عیاسی پادری مصر کے گھرے اور خپر کھنے والے لوگوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے، اہل کتاب میں هرف عذر آئے پیغمبر کی یہ تعریف کی جاتی تھی کہ وہ توریت کے حافظ ہیں، حالانکہ امت محمدیہ کے اس طبقہ میں بھی باوجود یہ اسلام اکثر مالک میں کمزور ہے تمام عالم اسلام میں ایک لاکھ سے زیادہ قرآن کے حافظ موجود ہیں، یہ امت محمدیہ اور ان کی کتاب کی کھلی ہوئی فضیلت اور ان کے نبی کا معجزہ ہے، جسے ہر زمانہ میں کھلی آنکھوں دیکھا جا سکتا ہے،

ایک عجیب واقعہ [ایک مرتبہ ایک انگریز حاکم شہر سہارنور (انڈیا) کے پھون کے میں شغل دیکھا، حاکم نے اسٹاد سے سوال کیا کہ یہ کونسی کتاب ہے؟ اُس نے بتایا کہ قرآن مجید ہے، پھر حاکم نے سوال کیا کیا اُن میں سے کسی نے پورا قرآن حفظ کیا ہے؟ اسٹاد نے کہا ہاں، اور چند لوگوں کی طرف کی اشارہ کیا، اس نے جب قرآن مسناتو اُسے بڑا تعجب ہوا، اور کہنے لگا ان میں سے ایک لڑکے کو بلاؤ، اور قرآن میرے ہاتھ میں دے دو میں امتحان لوں گا، اسٹاد نے کہا آپ خود جس کو چاہیں طلب کیجئے، چنانچہ اس نے خود ایک لڑکے کو بلاؤ، جس کی عمر ۱۳ یا ۱۴ سال کی تھی، اور چند مقامات میں اس کا امتحان لیا، جب اُسے کامل یقین ہو گیا کہ یہ پورے قرآن کا حافظ ہے تو متعجب اور جبراں ہوا، اور کہنے لگا کہ میں شہزاد دیتا ہوں کہ جس طرح قرآن کے لئے تو اڑنا بہت ہے، کسی بھی کتاب کو ایسا تو اڑتے میسر نہیں ہے، محض ایک بچہ کے سینہ سے پورے قرآن کا صحت الفاظ اور ضبط اعراب

کے ساتھ لکھا جانا ممکن ہے، حتم اس موقع پر آپ کے سامنے چند چیزیں جن سے اہل کتاب کی کتابوں میں تحریف واقع ہونے کا استبعاد دور ہو سکتا ہے پیش کرتے ہیں،

کتب مقدسہ میں امکان تحریف کے تاریخی دلائل

پہلی دلیل

بیت المقدس کے دور حکومت تک تورات کی حالت [موسیٰ علیہ السلام نے توریت کا نسخہ لکھ کر علماء یہود اور بنی اسرائیل کے بڑے لوگوں کے حوالہ کر کے اس کی حفاظت کی تاکید کی تھی] اور حکم دیا تھا کہ اس کو صندوق شہزادت میں رکھا جائے، اور هرسات سال کے بعد عید کے روز بنی اسرائیل کو سندلے کے لئے خواہ کے سامنے نکالا جائے، چنانچہ یہ نسخہ اس صندوق میں رکھا رہا، اور پہلا طبقہ موسیٰ علیہ السلام کی وصیت پر عامل رہا، اس طبقہ کے ختم ہو جائے پر بنی اسرائیل کی حالت میں تغیر پیدا ہوا، ان کی حالت یہ تھی کہ کبھی مرتد ہو جاتے اور کبھی مسلمان بن جلتے، داؤد ملیک علیہ السلام کے دور حکومت تک ان کا یہی حال رہا، واوہ صندوق علیہ السلام کے بہذ میں ان کا طبقہ بہتر ہو گیا، اور سليمان علیہ السلام کے بعد حکومت کی ابتداء میں اچھا ہے، اور یہ لوگ بہر حال ایمان والے رہے، مگر مذکورہ انقلابات کے سبب وہ نسخہ جو صندوق میں رکھا ہوا تھا، ضائع ہو چکا تھا، اور یہ بھی یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا کہ کس دور میں ضائع ہوا سليمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں جب اس

لئے صندوق شہزادت (THE ARK OF THE COVENANT) یہ بنی اسرائیل کا ایک مقدس منصب تھا جسے بنانے کا حکم ہتوں تورات اشرتفاعی اسے دیا تھا، لہذا کی جزوی تفصیلات تک بتائی تھیں، یہ کیکر کی مکڑی کا تھا، اور اس کا سر پوش سونے کا تھا (خردج ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸)، اس میں بنی اسرائیل نے انبیاء کے تبرکات بھی رکھے تھے، یہ دسی «تابوت» ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے بھی سورہ لقہہ میں کیا ہے، اسکی ایک لمبی تاریخ ہے، ضرور تہتو تو پیشہ ۱۵۰۳، ۱۴۰۱، ۱۳۰۱، ۱۰۱۱: ۶۔ سو میل ۳: ۱۱ و باب ۶، سو میل باب ۹، ۱۵۰۴، ۲۹۱۲، ۰۲۹۱۲، اتوار باب

ضندوق کو کھولنا تو اس میں سے سوائے دو تختیوں بکھر جن میں فقط حکایتِ عشرہ بکھر تھے، اور کوئی چیز نہیں نکلی، جیسا کہ کتاب سلاطینِ اول یا شہ آیت ۹ میں اسکی تصریح موجود ہے کہ:-
۰ اُس ضندوق میں سوا پھر کے اور ان دونوں کے جیسی کو دہانِ موسیٰ بنے خوب میں رکھ دیا تھا، جس وقت کو خداوند نے بنی اسرائیل نے جب دلکشِ نصر میں نکل آئے ہے باندھا تھا۔

پھر سلیمان علیہ السلام کے آخری دور میں وہ زبردست القلا بامہ پیش آئے، جن کی شہادت کتب مقدسہ میں رہی ہیں، یعنی سلیمان علیہ السلام رَنْعَوْذَ بَاشْ زندگی کے بالکل آخری اوقات میں بعض بیویوں کی ترغیب کے ماتحت مرتد ہو گئے، اور بت پرستی شروع کر دی، اور بت خانے تعمیر کر کر، اب چونکہ وہ خود بنت پرست مرتد بن چکے تھے اس لئے اُن کو قورات سے کوئی مطلب باقی نہ رہا تھا، اور ان کی وفات کے بعد تو اس سے بھی بڑا انقلاب رونما ہوا، کیونکہ بنی اسرائیل کے تمام خاندان اور قبائل بکھر گئے، اور منتشر ہو گئے، اور بجائے ایک سلطنت کے وہ سلطنتیں ہو گیں دش خاندان ایک جانب اور ایک طرف، یورپیان دش خاندان کا پادشاہ بن گیا، اس سلطنت کا نام «سلطنتِ اسرائیلیہ» قرار پایا، اور سلیمان علیہ السلام کا پیٹا رجعام و خاندانوں پر حکمران ہوا، جس کا نام «سلطنتِ یهوداہ» تجویہ ہوا، اور دو لوں سلطنتوں میں کفر و ارتداد کا بازار گرم رہا، اس لئے کہ یورپیان تو تختِ شہزادی پر مستکن ہوتے ہی مرتد ہو گیا، اور اس کی دیکھی دیکھا پوری رعایا یعنی دش خاندان بھی مرتد ہو کر بت پرستی کرنے لگے تھے، ان میں جو لوگ توریت کے ملک پر باقی رہ گئے تھے اور کہاں کہاں کہاں تھے انہوں نے یہوداکی سلطنت میں ہجرت کر لی، اس طرح پر تمام خاندان اُس زمانہ سے ڈھائی سو سال (صفو گذشتہ کے حاشیے) تک یہ حکم استثناء ۱۳۱، ۲۶۱ میں مکور ہے ہاتھ تکہ کتاب قضاۃ پورہ یہی اُن کی نافرمانیوں سے بھر پوہے، بالخصوص دیکھئے قضاۃ ۱۲، ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۴۱۰، ۳۴۱۱، ۳۴۱۲، ۳۴۱۳، ۳۴۱۴، ۳۴۱۵، ۳۴۱۶، ۳۴۱۷، ۳۴۱۸، ۳۴۱۹، ۳۴۲۰، ۳۴۲۱، ۳۴۲۲، ۳۴۲۳، ۳۴۲۴، ۳۴۲۵، ۳۴۲۶، ۳۴۲۷، ۳۴۲۸، ۳۴۲۹، ۳۴۲۱۰، ۳۴۲۱۱، ۳۴۲۱۲، ۳۴۲۱۳، ۳۴۲۱۴، ۳۴۲۱۵، ۳۴۲۱۶، ۳۴۲۱۷، ۳۴۲۱۸، ۳۴۲۱۹، ۳۴۲۲۰، ۳۴۲۲۱، ۳۴۲۲۲، ۳۴۲۲۳، ۳۴۲۲۴، ۳۴۲۲۵، ۳۴۲۲۶، ۳۴۲۲۷، ۳۴۲۲۸، ۳۴۲۲۹، ۳۴۲۳۰، ۳۴۲۳۱، ۳۴۲۳۲، ۳۴۲۳۳، ۳۴۲۳۴، ۳۴۲۳۵، ۳۴۲۳۶، ۳۴۲۳۷، ۳۴۲۳۸، ۳۴۲۳۹، ۳۴۲۳۱۰، ۳۴۲۳۱۱، ۳۴۲۳۱۲، ۳۴۲۳۱۳، ۳۴۲۳۱۴، ۳۴۲۳۱۵، ۳۴۲۳۱۶، ۳۴۲۳۱۷، ۳۴۲۳۱۸، ۳۴۲۳۱۹، ۳۴۲۳۲۰، ۳۴۲۳۲۱، ۳۴۲۳۲۲، ۳۴۲۳۲۳، ۳۴۲۳۲۴، ۳۴۲۳۲۵، ۳۴۲۳۲۶، ۳۴۲۳۲۷، ۳۴۲۳۲۸، ۳۴۲۳۲۹، ۳۴۲۳۳۰، ۳۴۲۳۳۱، ۳۴۲۳۳۲، ۳۴۲۳۳۳، ۳۴۲۳۳۴، ۳۴۲۳۳۵، ۳۴۲۳۳۶، ۳۴۲۳۳۷، ۳۴۲۳۳۸، ۳۴۲۳۳۹، ۳۴۲۳۳۱۰، ۳۴۲۳۳۱۱، ۳۴۲۳۳۱۲، ۳۴۲۳۳۱۳، ۳۴۲۳۳۱۴، ۳۴۲۳۳۱۵، ۳۴۲۳۳۱۶، ۳۴۲۳۳۱۷، ۳۴۲۳۳۱۸، ۳۴۲۳۳۱۹، ۳۴۲۳۳۲۰، ۳۴۲۳۳۲۱، ۳۴۲۳۳۲۲، ۳۴۲۳۳۲۳، ۳۴۲۳۳۲۴، ۳۴۲۳۳۲۵، ۳۴۲۳۳۲۶، ۳۴۲۳۳۲۷، ۳۴۲۳۳۲۸، ۳۴۲۳۳۲۹، ۳۴۲۳۳۳۰، ۳۴۲۳۳۳۱، ۳۴۲۳۳۳۲، ۳۴۲۳۳۳۳، ۳۴۲۳۳۳۴، ۳۴۲۳۳۳۵، ۳۴۲۳۳۳۶، ۳۴۲۳۳۳۷، ۳۴۲۳۳۳۸، ۳۴۲۳۳۳۹، ۳۴۲۳۳۳۱۰، ۳۴۲۳۳۳۱۱، ۳۴۲۳۳۳۱۲، ۳۴۲۳۳۳۱۳، ۳۴۲۳۳۳۱۴، ۳۴۲۳۳۳۱۵، ۳۴۲۳۳۳۱۶، ۳۴۲۳۳۳۱۷، ۳۴۲۳۳۳۱۸، ۳۴۲۳۳۳۱۹، ۳۴۲۳۳۳۲۰، ۳۴۲۳۳۳۲۱، ۳۴۲۳۳۳۲۲، ۳۴۲۳۳۳۲۳، ۳۴۲۳۳۳۲۴، ۳۴۲۳۳۳۲۵، ۳۴۲۳۳۳۲۶، ۳۴۲۳۳۳۲۷، ۳۴۲۳۳۳۲۸، ۳۴۲۳۳۳۲۹، ۳۴۲۳۳۳۳۰، ۳۴۲۳۳۳۳۱، ۳۴۲۳۳۳۳۲، ۳۴۲۳۳۳۳۳، ۳۴۲۳۳۳۳۴، ۳۴۲۳۳۳۳۵، ۳۴۲۳۳۳۳۶، ۳۴۲۳۳۳۳۷، ۳۴۲۳۳۳۳۸، ۳۴۲۳۳۳۳۹، ۳۴۲۳۳۳۳۱۰، ۳۴۲۳۳۳۳۱۱، ۳۴۲۳۳۳۳۱۲، ۳۴۲۳۳۳۳۱۳، ۳۴۲۳۳۳۳۱۴، ۳۴۲۳۳۳۳۱۵، ۳۴۲۳۳۳۳۱۶، ۳۴۲۳۳۳۳۱۷، ۳۴۲۳۳۳۳۱۸، ۳۴۲۳۳۳۳۱۹، ۳۴۲۳۳۳۳۲۰، ۳۴۲۳۳۳۳۲۱، ۳۴۲۳۳۳۳۲۲، ۳۴۲۳۳۳۳۲۳، ۳۴۲۳۳۳۳۲۴، ۳۴۲۳۳۳۳۲۵، ۳۴۲۳۳۳۳۲۶، ۳۴۲۳۳۳۳۲۷، ۳۴۲۳۳۳۳۲۸، ۳۴۲۳۳۳۳۲۹، ۳۴۲۳۳۳۳۳۰، ۳۴۲۳۳۳۳۳۱، ۳۴۲۳۳۳۳۳۲، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳، ۳۴۲۳۳۳۳۳۴، ۳۴۲۳۳۳۳۳۵، ۳۴۲۳۳۳۳۳۶، ۳۴۲۳۳۳۳۳۷، ۳۴۲۳۳۳۳۳۸، ۳۴۲۳۳۳۳۳۹، ۳۴۲۳۳۳۳۳۱۰، ۳۴۲۳۳۳۳۳۱۱، ۳۴۲۳۳۳۳۳۱۲، ۳۴۲۳۳۳۳۳۱۳، ۳۴۲۳۳۳۳۳۱۴، ۳۴۲۳۳۳۳۳۱۵، ۳۴۲۳۳۳۳۳۱۶، ۳۴۲۳۳۳۳۳۱۷، ۳۴۲۳۳۳۳۳۱۸، ۳۴۲۳۳۳۳۳۱۹، ۳۴۲۳۳۳۳۳۲۰، ۳۴۲۳۳۳۳۳۲۱، ۳۴۲۳۳۳۳۳۲۲، ۳۴۲۳۳۳۳۳۲۳، ۳۴۲۳۳۳۳۳۲۴، ۳۴۲۳۳۳۳۳۲۵، ۳۴۲۳۳۳۳۳۲۶، ۳۴۲۳۳۳۳۳۲۷، ۳۴۲۳۳۳۳۳۲۸، ۳۴۲۳۳۳۳۳۲۹، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۰، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۱، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۲، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳، ۳۴۲۳۳۳۳۳۴، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۵، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۶، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۷، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۸، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۹، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۱۰، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۱۱، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۱۲، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۱۳، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۱۴، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۱۵، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۱۶، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۱۷، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۱۸، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۱۹، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۲۰، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۲۱، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۲۲، ۳۴۲۳۳۳۳۳۲۳، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۲۴، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۲۵، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۲۶، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۲۷، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۲۸، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۲۹، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۰، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۱، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۲، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۴، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۵، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۶، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۷، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۸، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۹، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۱۰، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۱۱، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۱۲، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۱۳، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۱۴، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۱۵، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۱۶، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۱۷، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۱۸، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۱۹، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۲۰، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۲۱، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۲۲، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۲۳، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۲۴، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۲۵، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۲۶، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۲۷، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۲۸، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۲۹، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۰، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۱، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۴، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۵، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۶، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۷، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۸، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۹، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۱۰، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۱، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۲، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۳، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۴، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۵، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۶، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۷، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۸، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۹، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۰، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۱، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۲، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۴، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۵، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۶، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۷، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۸، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۹، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۰، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۴، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۵، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۶، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۷، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۸، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۹، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۰، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۱، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۲، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۳، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۴، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۵، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۶، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۷، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۸، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۹، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۰، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۱، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۲، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳، ۳۴۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۴،

بعد تک کافروں پر سرتیپ آتے تھے، آخر خدا نے ان کو اسر طرح بر باد اور ختم کیا کہ سوریوں کا ان پر تسلط قائم ہوا، جنہوں نے ان کو قید اور مختلف ملکوں کی جانب جلا وطن کر دیا، اور اس ملک میں سوائے ایک چھوٹی سی حقيقة جماعت کے ان کا وجود باقی نہ رکھوڑا، اور اس ملک کو پوت پرستوں سے بھر دیا، تو یہ پونٹی بقا یا جماعت بھی ان بُت پرستوں کے ساتھ کھل مل گئی تھی، اور ان کے آپس میں شادی بیاہ، تو والد و ناسل کا سلسلہ جاری ہوا، اس مخلوط جوڑے سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ سامری کہلائے، غرض یور بعام سے لیکر اسرائیلی سلطنت کے آخری دور تک ان لوگوں کو توریت سے کوئی سرد کار یا داسط نہیں رہا اور اس ملک میں توریت کا وجود غفاء کی طرح تھا،

یہ نقشہ تو ان دس خاندانوں اور اسرائیلی سلطنت کا تھا، دوسری جانب سليمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہودا تخت سلطنت پر ۲۳ سال کے عرصہ میں یہکے بعد دیگرے بیٹے سلاطین مٹنگ ہوئے، ان بادشاہوں میں مرتد ہوئے والوں کی تعداد مومنین کی نسبت زیادہ رہی، بہت پستی کا عام رواج تو رجعام کے عہد ہی میں ہو چکا تھا ہر درخت کے نیچے ایک بُت نصب تھا، حسین کی پستش کی جاتی تھی تھی، آخر کے دور میں یہ حالت ہو گئی کہ یروشلم کے ہر گوشہ اور کوئی میں بعل کی قدر بانگا ہیں تعییر ہو گئیں، بیت المقدس کے دروانے بند کر دیئے گئے،

اس کے دور حکومت سے قبل یروشلم اور بیت المقدس دو مرتبہ مت چکا تھا، پہلی بار تو شاہ مصر کا تسلط ہوا، جس نے بیت اللہ کی تمام عورتوں اور محلات شاہی کی تمام بیجھات کو خوب ہی توڑا، دوسری مرتبہ اسرائیل کا مرتد بادشاہ سلطنت ہو گیا، اور بیت اللہ کی خواتین اور محلہ شاہی کی عورتوں کو بے انتہا توڑا، یہاں تک کہ منشائے عہد سلطنت میں کفر بڑی شدت سے پھیلا، حسین کے نتیجہ میں مملکت کے اکثر باشندے

لئے دیکھئے۔ سلاطین ۱۴: ۲۳ تا ۲۴، ۳۵: سو یہ قویں خدا نے سے بھی ڈرانی رہیں اور اپنی کھودی ہوئی سورتوں کو جسی پوجتی رہیں ۱۴: ۲۴۔ سلا ۱۴: ۲۱: ۳۱) لئے دیکھئے ۱۔ سلاطین ۱۴: ۲۳، ۲۴، ۲۵: ۲۶، ۲۷: ۲۸ تا ۲۹، ۳۰: ۲۱: ۲۲ تا ۲۳،

۳۱: ۲۴ تا ۲۵، ۳۲: ۲۶ تا ۲۷، ۳۳: ۲۷ تا ۲۸، ۳۴: ۲۸ تا ۲۹،

بُت پرست بن گئے، اس بادشاہ نے بیت المقدس کے صحن میں بتوں کی قبر بان گھا ہیں تغیر کرائیں، اور جس خاص بیت کی وہ خود پرستش کرتا تھا اس کو بیت المقدس میں لارکھا۔ اس کے بیٹے آمون کے دور سلطنت میں کفر کی بھی ترقی دگر بزاری رہی، البتہ اس کا بیٹا یوسیا بن آمون جبکہ ری آڑائے سلطنت ہوا تو اس نے پچھے دل سے توبہ کی، اور خدا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اور اس کے ارکین سلطنت شریعت موسوی کے رواج دینے کی طرف متوجہ ہوئے کفر و شرک کی رسماں کو مٹانے میں بڑی جدوجہد کی، مگر اس کے باوجود اس کے ابتداء حکومت سے سترہ سال تک نہ کسی نے توریت کی شکل دیکھی، اور نہ کسی نے توریت کے نسخے کے باوجود کی خبر سنی۔

یوسیاہ کے زمانہ میں توریت کی دریافت | البتہ جلوش سلطنت کے اشعار ہویں سال میں خلقیاہ کا ہن نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے بیت المقدس میں توریت کا نسخہ ملا ہے اور یہ نسخہ اس نے سافنِ نشی کو دے دیا پھر اس نے اس کو یوسیاہ کے سامنے پڑھا، یوسیاہ نے اس کا مضمون سن کر بنی اسرائیل کی نافرمانی کے عنم میں اپنے کڑے پھاڑ ڈالے، جس کی تصریح کتاب سلطین ثانی باب ۲ میں اور کتاب تواریخ ثانی کے باب ۳ میں موجود ہے،

مگر نہ تو یہ نسخہ لائی اعتبر ہے، اور نہ خود خلقیاہ کا قول لاٹق اعتماد کیونکہ بیت المقدس آخذ کے ہبہ سے پہلے دو مرتبہ لوٹا جا چکا تھا، جس کے بعد وہ بیت الاصنام (ربکده) بن چکا تھا اور بتوں کے مجاہرین روزانہ اس میں داخل ہوتے، اور پھر کسی نے سترہ سال کے طویل و صدر میں توریت کو نہ دیکھا رہا۔ حالانکہ بادشاہ اور تمام ارکین سلطنت اور موسوی شریعت کے پھیلائے اور رد اجحیہ میں ایسی چوٹی کا ذریعہ لگاتے رہے، اور کامن روزانہ داخل ہوتے رہے تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ توریت کا نسخہ بیت المقدس میں موجود ہو، اور اتنی

ٹھہ ۲۔ سلطین ۱۷۱ تا ۱۷۲، ۲۵۰ - سلطین ۱۷۲ تا ۱۷۳، ۲۰۱

ٹھہ ۲۔ سلطین ۱۷۲ تا ۱۷۳، ۲۰۱

ٹھہ "اور یوسیاہ کے اشعار ہوں برس ایسا ہوا المز" رہ ۲۔ سلطین ۱۷۲ تا ۱۷۳، ۲۰۱

مدت کسی کو نظر نہ آئے، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ نسخہ خلقیاہ کا تراشیدہ اور من گھر تھا، یکوئی کو اس نے جب بادشاہ اور امرا و سلطنت کی عام توجہ ملیت موسوی کی طرف دیکھی تو یہ نسخہ ان شنی سنائی زبانی روایتوں اور قصوں کو جمع کر کے مرتب کیا، جو تمام لوگوں کی زبانی اس تک پہنچنے تھے، خواہ وہ پہنچے ہوں یا جھوٹے، اور یہ سارا وقت اس نے اس کی جمع و تالیف میں گزارا، جب حسب منشاء نسخہ جمع اور مرتب ہو گیا تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف مسوب کر دیا، اور اس قسم کا افترا، اور جھوٹ دین و مذہب کی ترقی اور اشاعت کی غرض سے متاخرین پہنچ دا اور پھر یہ عیا یوں کے نزدیک دینی مسجدات میں شمار ہوتا تھا۔

یوسیاہ بنخت نصر تک مگر اس موقع پر ہم اس سے صرف نظر کرتے ہوئے رکھتے ہیں کہ توریت کا نسخہ یوسیاہ کی تخت نشینی کے اٹھار ہو یہ سال میں دستیاب ہوا ہے، اور تیرہ سال اسکی مدت حیات تک وہ مستعمل اور رائج رہا۔ اسکی وفات کے بعد جب اس کا بیٹا یہو آنحضرت نشین ہوا تو وہ مرتد ہو گیا، اور کفر پھیل گیا، جس کے نتیجہ میں شاہ مصر اس پر مسلط ہو گیا، جس نے اس کو نظر بند کر کے اس کے بھائی کو تخت نشین کیا، یادہ بھی اپنے بھائی کی طرح مرتد تھا، اس کے مرنے پر اس کا بیٹا جانشین ہوا، یہ بھی اپنے باپ اور چھاکی طرح مرتد تھا، بنخت نصر نے اس کو اور بنی اسرائیل کی کافی تعداد کو قید کیا، بیت المقدس اور شاہی خزانوں کو خوب لوٹا، اور اس کے چھاپ کو تخت نشین کیا، یہ بھی بھتیجے کی طرح مرتد تھا۔

یہ تمام تفصیل جان لیئے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہودیوں میں توریت کا توازن یوسیاہ کے دور سلطنت سے قبل منقطع تھا، اور جو نسخہ اس کے عہد میں دستیاب ہوا وہ ناقابل اعتبار ہے، نہ اس سے توازن کا ثبوت ہو سکتا ہے، اور وہ بھی کل تیرہ سال مستعمل اور مروج رہا، اس کے بعد اس کی حالت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، ظاہر یہی ہے کہ اس کے بعد جب پھر کفر وار تداد یوسیاہ کی اولاد میں پھیلا تو گذشتہ حالت توت آتی، اور توریت حادثہ بنخت نصر سے پہلے غائب ہو چکی تھی، اور اس قلیل حرمت کا وجود اور تداد کے زمانوں

لہ ان دادعات کی تفصیل کے ملاحظہ ہو، سلاطینی ۲۳: ۲۱ تا ۲۳: ۱۷

کے درمیان بالکل طہر مختل کی طرح تھا، اور اگر ہم اس توریت کو یا اس کی نقل کو باقی بھی فرض کر لیں تب بھی بخت نصر کے حادثہ یہیں اس کا ضائع ہو جانا قیاس کے مطابق ہے، اور یہ حادثہ تو پہلا حادثہ ہے،

بخت نصر کا دوسرا حملہ
لشیں کیا سمجھا، خدا اُس کے خلاف بغاوت کی، تو
دوسری دلیل
بخت نصر نے اُس کو قید کر کے اس کی اولاد کو اس

کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، پھر اس کی آنکھیں نکلو کر زنجروں میں بند ہوا یا، اور بابل بھجو دیا، بہت اسدا اور شاہی محلات اور یروشلم کے تمام مکانات اور ہر بڑی عمارت اور تمام بڑے لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالا، یہ یروشلم کی چهار دیواری کو سمیار کر دیا، بنی اسرائیل کے تمام غاذاؤں کو گرفتار اور قید کیا، اور اس علاقہ میں مساکین، غرباء اور کاشتکاروں کو آباد کیا،

یہ بخت نصر کا دوسرا حادثہ ہے، اس موقع پر توریت معدوم ہو گئی، اسی طرح عہدِ عتیق کی دہ تمام کتابیں جو اس حادثہ سے قبل تصنیف ہوئی تھیں صفحہ عالم سے قطعی مٹ گئیں، اور یہ صورت حال بھی اہل کتاب کو تسلیم ہے، جیسا کہ مقصد شہادت نمبر ۱۶ میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے،

انیسوکس کا حادثہ
جب عزراء علیہ السلام نے میاں یوں کے نظریہ کے مطابق عہدِ عتیق کی کتابوں کو دوبارہ لکھا، تو ایک دوسرا حادثہ پیش آیا، جس کا ذکر مکاہیوں کی پہلی کتاب کے باب میں اس

طرح کیا گیا ہے:

«انیسوکس شہنشاہ فرنگستان نے یروشلم کو فتح کر کے عہدِ عتیق کی کتابوں کے جتنے نئے

لئے یعنی صدقیاہ، ان واقعات کی تفصیل کے لئے دیکھئے ۲ تواریخ ۲۱ تا ۱۱: ۳۶ و ۲۱ سلطین ۲۵، آتا ۲۷ ویر میاہ ۳۹: آتا ۲۷، ۲۵ دیکھئے صفحہ ۶۳۳ و ۶۳۵ جلد ۴۳

تلہ تعارف کے لئے دیکھئے صفحہ ۳۳۲ جلد اول،

بچاں سے اسے لے پھاڑ کر جلا دیئے، اور حکم دیا کہ جس کے پاس کوئی کتاب عہدِ عتیق کی نکلنے گی، یادہ مشریعیت کی رسم بجا لادے گا اور ڈالا جائے گا، اور ہر مہینہ میں تحقیق اس کی عمل میں آتی تھی، اور جس کے پاس کوئی کتاب عہدِ عتیق کی نکلتی یا ثابت ہوتا کہ وہ رسم شریعت کو بجا لایا وہ مارا جاتا تھا، اور کتاب تلف کی جاتی تھی بلے

یہ حادثہ میسح علیہ السلام کی ولادت سے ۱۶۱ سال قبل پیش آیا، اور سارہ ہے تین سال تک جاری رہا، جس کی تفصیل عیانیٰ تو ارتخی میں کبھی موجود ہے اور یوسف کی تایبۃ الرحم میں کبھی نہیں اس حادثہ میں وہ تمام نسخے جو عزراہ علیہ السلام نے لکھے تھے قطعی ناپید ہو گئے جیسا کہ مقصد اشتہادت نمبر ۱۶ میں جان کیتھوں کل ملز کے کلام سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ—
”جب اسکی صحیح تعلیم عزراہ کے ذریعہ ظاہر ہوئیں تو یہ نقلیں بھی انتیوکس کے حادثہ میں صنائع ہو گئیں“

پھر جان ملز کہتا ہے:-

”پھر توان کتابوں کی سچائی کی شہادت اس وقت تک میسر نہیں ہو سکتی جب تک

له مکاہیں کی کتاب کا رد و ترجیح چونکہ ملے پاس نہیں ہے، اس لئے ہم نے یہاں اس عبارت کا وہ ترجیح نقل کر دیا ہے جو خود مصنف نے اعجاز عیسوی میں صفحہ ۲۹ پر مذکورہ کتاب سے لکھا ہے، ہمارے پاس مکاہیں کی کتاب انگریزی میں ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں۔۔۔

“NEVER A COPY OF THE DIVINE LAW BUT WAS TURNED UP AND BURNED;
IF ANY WERE FOUND THAT KADT THE SACRED RECORD OR OBEYED THE
LORD'S WILL, HIS LIFE WAS FORFEIT TO THE KING'S EDICT
MONTH BY MONTH SUCH DEEDS OF VIOLENCE WERE DONE.”

(1. MACABEES 1. 59,61)

یعنی قانون خداوندی کا کوئی نسخہ ایسا نہ تھا جسے پھاڑا اور جلا یا نہ گیا ہو، اگر کوئی شخص یا ملت انس کے پاس یہ مقدس فرشتہ محفوظ ہے یا وہ خدا تعالیٰ احکام کی پیری کرتا ہو تو بادشاہ کے حکم کے مطابق اسے مار ڈالا جاتا، ہر مہینہ یہ تشدیکی کارروائی ہوتی تھی ۔۔۔ (۱۔ مکاہیں ۱:۵۹ تا ۶۱)

سیع علیہ السلام اور اس کے خاری شہادت نہ دین ۔

هم کہتے ہیں کہ اس شہادت کی پوری پوزیشن مخالفت نمبر ۲ کے جواب میں واضح کی جا چکی ہے، طبیطو شاہزادم کا حملہ اس عظیم اثاث حادثہ کے بعد یہودیوں پر شہان فرنگ کے پانچھوں اور سبھی مختلف اور متعدد حوادث واقع ہوئی جن میں عزرا بن ائمہ کی نقلیں معدوم ہو گئیں، ان میں سے ایک

حادثہ طیموس رومی کا ہے، یہ ایک بڑا زبردست حادثہ تھا، جو سیع علیہ السلام کے عروج سے ۳ سال بعد پیش آیا، جو بڑی تفصیل سے یوسفینس کی تاریخ اور دوسری تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، اس حادثہ میں صرف یہ دشلم اور بمحقرہ ملاقوں میں لاکھوں یہودی فاقہ اور آگ اور نوار اور سولی کے ذریعہ ہلاک ہوئے، اور ستانوںے ہزار یہودیوں کو قید کر کے مختلف ملکوں میں فروخت کیا گیا، اور یہودی سرزمیں میں بے شمار گروہ اور جماعتیں ہلاک ہوئیں،

عبرانی نسخہ کی چیزیت متقدم میں عیسائی عہدِ عتیق ہی سے عبرانی نسخہ کی جانب متوجہ نہیں تھے، بلکہ جمہور عیسائی اس کی تحریک کے پانچھویں دلیل معتقد تھے ان کے نزدیک یونانی ترجمہ معتبر تھا، باخصوص

دوسری صدی کے آخر تک، کیونکہ اس دوران میں کبھی کوئی عیسائی اس نسخہ کی طرف قطعی متوجہ نہیں ہوا، اور پھر یہ ترجیح نہیں یہودی عبادت خانوں میں کبھی پہلی صدی کے آخر تک رائج رہا، اس بناء پر عبرانی کے نسخے بہت ہی کم تھے، قلیل ہونے کے علاوہ یہودیوں کے پاس تھے جیسا کہ آپ کوہایت نمبر ۲ مخالفت نمبر ۲ کے جواب کے ذیل میں معلوم ہو چکا ہے

خود یہودیوں نے نسخے ناپید کئے یہودیوں نے وہ تمام نسخے جو سالتوں یا آٹھویں صدی میں لکھے گئے تھے ناپید کر دیئے تھے مجھنے اس لئے کہ وہ ان کے نسخوں کے مخالف تھے، اسی چھٹی دلیل

بناء پر عہدِ عتیق کی تصحیح کرنے والوں کو ایک نسخہ بھی ایسا نہ مل سکا جو ان دو صدیوں کا ہے تعارف کے لئے دیکھئے جائیں، جلد ۲ کا حاشیہ ۲۷۵ انجاز صیوی وص ۲۰۰ میں مصنف نے مقتول یہودیوں کی تعداد گیارہ لاکھ کھی ہے، نقی ۲۸۶ دیکھئے صفحہ ۲۵۵ و ۲۶۷، جلد ہذا،

نکھا ہوا ہو، یہودیوں کی اس حرکت کے بعد ان کے پاس صرف ان کے من پسند بخش باقی رہ گئے تھے جن میں ان کو تحریف کرنے کی بڑی آسانیاں اور گنجائش حاصل تھی جیسا کہ ہدایت نمبر ۲ قول نمبر ۲۰ میں معلوم ہو چکا ہے،

سماں دلیل

عیاشیوں کے ابتدائی طبقات میں بھی ایک چیز نہیں کی قلت کا سبب تھی، اور تحریف کرنے والوں کی تحریف کا موجب، کیونکہ ان کی تواریخ اس امر کی شہادت نے رہی ہے کہ متواتر تین سو سال تک ان پر مصادیب اور حوادث کے پہاڑ توستے رہے اور وہاں مرتبہ قتل عام سے ان غربیوں کو واسطہ پڑا، جن کی تفصیل یہ ہے:-

عیاشیوں پر پڑنے والے مٹے حوادث اور قتل عام،

پہلا حادثہ یہ حادثہ شاہ نیرو کے عہد میں ۱۷۳۰ء میں پیش آیا، جس میں پطرس حواری اور اسکی بیوی اور پوسن دوریہ قتل دار سلطنت دایالانہ میں واقع ہوا، یہ کیفیت اس بادشاہ کی زندگی تک قائم رہی، عیاشیوں کے لئے اپنی میہجیت کا اظہار و اعتراف سخت ترین جرم شمار ہوتا تھا،

دوسرہ حادثہ یہ حادثہ شاہ ڈومشیان کے دری سلطنت میں پیش آیا، یہ بادشاہ بھی نیرو کی طرح ملت عیشوی کا جانی دشمن تھا، اس نے عیاشیوں کے قتل عام کا لہ فرمان جاری کر دیا، اور اس قدر خون بھایا گیا، کہ اس دین کے قطعی مت جانے کا خطرہ

لئے دیکھنے صفر ۱۷۵۰ء، جلوہ ہذا، لئے تمام نہیں ملیا بھی ہے، امیاز میسوی میں بھی یہی نام لکھا ہے مگر مشہور شاہ نیرون NERON ہے برٹانیکا اور مقدمہ ابن خلدون میں بھی اسے نیرون ہے کہا گیا ہے، جو روحاں کا بادشاہ (اگر کہ ماشیتہ) رہا ہے، پانچواں قیصر تھا، مشہور فلسفی یونیکا کا شاگرد ہے، عیاشیوں پر ظلم و تمذہانے کی بناء پر یہ اپنی بربادیت میں صرب المثل ہے، اپنے ششم عشرتے ۱۷۰۰ء تک ملاحظہ ہو مقدمہ ابن خلدون طبع بیروت میں ۱۷۹۰ء پر ذیل شرح اسم ابaba والبطرک والکوہن ۱۲۰۰ء تک شاہ ڈومشیان DOMITION NERON ایک مدت تک رہیں

کا بادشاہ دشتم عشرتے ۱۷۹۶ء رہا ہے اپنے آخر دور میں اس پر قتل عام کا جنون سا طاری ہو گیا تھا (برٹانیکا)

ہو گیا، یوختا حواری جلاوطن کیا گیا، اور فیلپس کلیمونس بھی قتل کیا گیا،
تیسرا حادثہ یہ حادثہ شاہ ترجمان کے عہد میں پیش آیا، جس کی ابتداء سال ۱۳۰۸ء سے ہوئی
 الگناشس اور روم کا اسقف کلینٹ اور شلیم کا اسقف شمعون مارا گیا،
چوتھا حادثہ یہ واقعہ شاہ مرقس ایتو نیٹس کے عہد میں پیش آیا، جس کی ابتداء سال ۱۳۰۹ء
 میں ہوئی، دش سال سے زیادہ یہی کیفیت رہی، اور قتل عام مشرق و مغرب
 میں چیل گیا، یہ بادشاہ مشہور فلسقی اور متعصب بُت پرست تھا،
پانچواں حادثہ یہ حادثہ شاہ سویرس کے عہد میں پیش آیا جس کی ابتداء سال ۱۳۱۰ء سے
 کار تیجع میں ایسا شدید قتل عام کیا گیا کہ عیائی یہ خیال کرنے لگے کہ یہ زمانہ دجال
 کا زمانہ ہے،

چھٹا حادثہ یہ واقعہ شاہ مکیمن کے عہد میں پیش آیا، جس کی ابتداء سال ۱۳۱۱ء میں ہوئی
 اس کے حکم سے اکثر علماء مسیحی قتل کئے گئے، کیونکہ اس کو گان ہوا کہ وہ
 علماء کے قتل کے بعد عوام کو بڑی سہولت کے ساتھ اپنا تابع فرمان بناسکے گا، اس قتل عام
 میں پوپ پونتیا نوس بھی مارا گیا، اور پوپ انٹر وس بھی،

لے اسے ٹراجانوس (TRAJAN) بھی کہتے ہیں (پنجم سال ۱۳۱۲ء)، یہ سال ۱۳۱۲ء تک بادشاہ رہا ہے
 باریوں کے مقابلہ میں اسکی شامدار فتح مشہور ہے، اس نے بیسا ٹوں پر بہت ظلم و ستم ڈھائے رہا (انیکا) ۱۴۷
 تھے "اسقف" کلیسا کا ایک عہدہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا "پاپا" (دیکھئے سال ۱۳۱۳ء) مختلف شہروں
 میں اپنے نائب مقرر کرتا ہے جسے اپنے اپنے شہریں "پاپا" کے سے اختیارات ہوتے ہیں، اس نائب کو "اسقف"
 کہتے ہیں، تیس کا درجہ اس سے نیچا ہے، (از مقدمہ ابن خلدون جلد اول) اسی کو انگریزی میں بشپور
 ۱۳۱۳ء میں بھی کہتے ہیں، مختلف کلیساؤں میں اس کے فرائض منصبی کے لئے دیکھئے بر ما نیکا مقابلہ
 پشپ ۱۲ ترقی

سوانحادثہ

یہ حادثہ بادشاہ ڈی شس کے زمانہ میں ۲۵۳ھ میں پیش آیا، اس

بادشاہ نے تو مذہب عیسوی کی بیخ کنی کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، چنانچہ اس کے فرمان صوبوں کے گورزوں کے نام اس سلسلہ میں صادر ہوئے، احسانوں میں بہت سے عیسائی مرتد ہو گئے، مصر، افریقہ، اٹلی، اور مشرق و مقامات ہیں جہاں اس کا مسلم عام رہا،

آٹھواں حادثہ | یہ واقعہ پادشاہ ولیان کے عہد میں ۲۵۴ھ میں پیش آیا، جس میں ہزاروں عیسائی قتل کئے گئے، پھر اس سلسلہ میں اس کے احکام نہایت سخت صادر ہوئے، کہ اسقفوں، پادریوں اور دینِ مسیح کے خادموں کو قتل کیا جائے، اور عزت و آبرو والوں کی آبروریزیاں کی جائیں، ان کے مال لوٹے جائیں، اس کے بعد بھی اگر عیسائیت پر قائم رہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے، اور شریف عورتوں کے اموال لوٹ کر ان کو جلاوطن کر دیا جائے، اور باقی عیسائیوں کو غلام بنایا جائے، اور قید کر کے ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر سرکاری بیگار میں استعمال کیا جائے،

نواں حادثہ | یہ حادثہ بادشاہ اریمین کے زمانہ میں پیش آیا، جس کی ابتداء ۲۵۵ھ میں ہوئی، اگرچہ قتل عام کے لئے اس کا فرمان صادر ہو چکا تھا مگر اس سلسلہ میں عیسائی زیادہ قتل نہ ہو سکے، یونکہ بادشاہ خود مارا گیا،

دوسری حادثہ | یہ واقعہ ۲۵۶ھ میں پیش آیا، اس قتل عام میں مشرق و مغرب کی زمینیں لالہ زار بن گئیں، شہر فربیجیا پورا کا پورا دفعہ جلا دیا گیا، اور اس میں ایک سبھی عیسائی زندہ نہ رہا،

اگر یہ واقعات صحیح ہیں تو ان میں توریت کے نسخے کی کثرت کا تو کوئی امکان ہی نہیں، اور نہ کتابوں کے محفوظ رہنے کی کوئی امکانی شکل، اور نہ ان کی تصحیح و تحقیق کی کوئی صورت، نیزا یا یہ ناخوشگوار حالات میں تحریف کرنے والوں کی تو چاندی ہو گی، مغالطہ نہ رکھے جواب میں آپ کو معلوم ہو چکا، کہ بہت سے بدعتی عیسائی فرقے پہلی صدی میں موجود تھے، جن کا شغل ہی تحریف کرنا تھا۔

ڈیو کلیشین کا حادثہ آٹھویں دلیل

بادشاہ ڈیو کلیشین نے چاہا تھا کہ چھپلی کتابوں کا وجود صفحہ ۳۷ سے مٹا دے، اس سلسلہ میں اس نے بڑی جدوجہد کی اور ۲۰۳ میں گر جوں کے مسامار کرنے اور کتابوں کے جلانے اور عبادت کے لئے عیسائیوں کے آکٹھانہ ہونے کا فرمان صادر کیا، چنانچہ اس کی تعمیل ہوئی، اور گر بھے گردیئے گئے، اوپر وہ کتاب جو اُسے چھان بین اور تلاش سے مل سکی، جلا دی گئی، اور جو عیسائی بھی تعمیل سے انکار کرتا، یا اس کی نسبت بادشاہ کو یہ گمان ہو جاتا کہ اس کے پاس کوئی کتاب چھپی ہوئی ہے اس کو سخت اور شدید سزا دی جاتی، اس طرح عیسائی اجتماعی عبادت کرنے سے محروم ہو گئے، جس کی تصریح عیسائی تواریخ میں موجود ہے، لارڈ زراپنی تفسیر کی جلد، صفحہ ۲۲ میں کہتا ہے کہ:

«ڈیو کلیشین کا حکم صادر ہوا کہ گر بھے مسامار کئے جائیں، اور کتب مقدسہ حبلائی، جائیں، پھر کہتا ہے کہ:-

”یوسی بیس بڑے دردناک پیرا یہ میں بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے گر جوں کا گرا یا جاتا اور کتب مقدسہ کا بازار دن میں جلایا جانا دیکھا ہے“

hum یہ ہرگز نہیں کہتے کہ اس کے مٹانے سے تمام شے صفوٰۃ عالم سے مت گئے، لیکن اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ ان کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی، اور بے شمار صحیح اور نفیس فتح خصائص ہو گئے، کیونکہ اس کی سلطنت اور ملک میں خود عیسائیوں اور ان کی کتابوں کی طے ڈیو کلیشین OCTETIAN دروم کا مشہور بادشاہ جو ۲۸۴ سے ۲۹۳ تک حکمران رہا، کلیسا کا بڑھتا ہوا اقتدار اس کو اپنے لئے ایک عظیم خطرہ محسوس ہوا جس کی بناء پر اس نے عیسائیوں پر ظلم و ستم ڈھانے دتفصیل کیلئے دیکھئے برٹانیکا، صفحہ ۹۳ جلد ۲) اس کے زمانہ کو عیسائی حضرات «عہد شہداء»

تعداد جتنی زیادہ تھی اس کا دسوائی حصہ بھی دوسرے مالک میں نہ تھا اور تحریف کا دروازہ کھل چکا تھا،

اس میں ذرا بھی تعجب نہیں ہو سکتا کہ کوئی کتاب ایسی بھی ہو جو بالکل معدوم ہو گئی ہو، اور اس کے بعد اس کے نام سے ایسی کتاب وجود میں آگئی ہو، جو قطعی جعلی اور اس سے مختلف ہو، کیونکہ ایسا ہونا طباعت کی ایجاد سے قبل کچھ بھی مستبعد نہیں تھا جیسا کہ آپ کو ہدایت نمبر ۲۰ مغالطہ نمبر اک کے جواب میں معلوم ہو چکا ہے، کہ یہودیوں کے من پسند شخوں کے مخالف جس قدر نسخے تھے وہ آٹھویں صدی کے بعد ان کے ناپسید و معدوم کر دینے کی وجہ سے بالکل ناپسید ہو گئے تھے،

آدم کلارک اپنی تفسیر کے مقدمہ میں یوں کہتا ہے کہ:-

”جو تفسیر قیشون کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اس کی اصل ناپسید ہو چکی ہے اور جس تفسیر کی نسبت اس کی طرف اس زمانہ میں کی جاتی ہے، وہ علماء کے نزدیک مشکوک ہے، اور ان کا شک بالکل صحیح ہے“

والسن اپنی کتاب کی جلد ۳ میں لکھتا ہے کہ:-

”جو تفسیر قیشون کی طرف منسوب ہے وہ تھیودورٹ کے زمانہ میں موجود تھی، اور ہرگز جا میں پڑھی جاتی تھی، مگر تھیودورٹ نے اس کے تمام نسخے ناپسید کر دیئے تاکہ اس کی جگہ انخلیل کو رکھے“

دیکھئے کہ تھیودورٹ کے صالع کرنے سے یہ تفسیر کس طرح صفوئہ عالم سے مٹ گئی، اور عیسائیوں نے اس کے بعد اس کی جگہ اسی نام کی دوسری تفسیر گھڑلی، اس میں کوئی شک نہیں کہ فرنگیوں کے شہنشاہ ڈیو کلیشین کی طاقت یہودیوں کی طاقت سے زیادہ تھی، اور اس کے ناپسید کرنے کا زمانہ بھی یہود کے معدوم کرنے سے زیادہ نزدیک ہے،

لئے تھیودورٹ THEODORET مشہور بیشپ اور مورخ ہے اس نے باشیل کی مختلف کتابوں پر مختصر شرحیں بھی لکھی ہیں، اور مذہب کی تاریخ بھی، صحیح تاریخ وفات معلوم، ایک اندازہ کے مطابق خمسہ بیک یہ زندہ رہا ہے (برٹانیکا) ۱۶۸

اسی طرح اسکی طاقت بھی تھیوڈورٹ کی طاقت سے زیادہ تھی، تو پھر اس میں ذرا بھی بعد نہیں معلوم ہوتا، کہ عہدِ جدید کی بعض کتابیں ڈیوکلیشین کے حادثہ میں ضائع ہو گئی ہوں اور ان حادثہ میں برپا ہو گئی ہوں جو مذکورہ سلطنتیں کے عہد میں پیش آئے، پھر اس کے بعد اسی نام سے ان کی جگہ من گھرہت کتابیں وجود میں آگئی ہوں، جس کا نقشہ آپ فیشن کی تفسیر میں دیکھو چکے ہیں،

عہدِ جدید کی بعض کتابوں کے گھڑنے کا اہتمام ان کے یہاں تفسیر مذکورہ کے گھڑنے سے زیادہ ضروری تھا، اور وہ مشہور و مقبول مقولہ جس کا ذکر ہدایت نمبر ۴ کے قول نمبر ۶ میں مخالف نہ رکھا کے جواب میں گذر چکا ہے، وہ اس اختراع اور افترا اور جھوٹ کے مستحق اور مستحب ہونے کا فیصلہ کر رہا ہے،

گذشتہ آٹھ نمبروں میں جن حادث کی نشان دہی کی گئی ہے ان کی وجہ سے انہی کتابوں کی اسائید متصل بھی اس حد تک ضائع ہو گئیں کہ اب ان کے پاس عہدِ متفق اور عہدِ حدیذ کی کسی کتاب کی سند متصل موجود نہیں ہے، نہ عیساً یوسف کے پاس اور نہ یہودیوں کے یہاں، ہم نے بارہا بڑے بڑے پادریوں سے سند متصل کا مطالبہ کیا، مگر وہ پیش کرنے سے عاجز ہوئے، ایک پادری نے اس مناظرہ میں جو میرے اور عیساً یوسف کے دینا ہوا تھا اس کا یہ غدر پیش کیا کہ ہمارے نزدیک اسناد کے معدوم ہونے کا سبب وہ فتنے اور مصادب ہیں جن میں تین سو تیزہ سال تک عیائی مبتلا رہے، ہم نے خود بھی ان کی اسناد کی کتابوں کا پورا جائز لیا، مگر ان میں قیاس و نظر کے سوا کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی، اور یہ چیز سند کی چیزیت سے قطعی ناکافی ہے،



عبد بنو می سے قبل کے نسخے اب تک موجود ہیں

پانچواں مخالفتہ

کہا جاتا ہے کہ کتب مقدسہ کے وہ نسخے جو عبد بنو می سے قبل کے لکھے ہوئے ہیں آج تک عیسائیوں کے پاس موجود ہیں، اور یہ نسخے ہمارے موجودہ نسخوں کے مطابق ہیں، اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ اس مخالفتہ میں درحقیقت دو دعوے کئے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ نسخے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے لکھے ہوئے ہیں، دوسرے یہ کہ یہ ہمارے نسخوں کے مطابق ہیں، حالانکہ دونوں دعوے غلط ہیں، پہلا تو اس لئے کہ ہدایت نمبر ۲۰ کے قول نمبر ۲۰ میں مخالفتہ نمبر اکے جواب میں قارئین کو معلوم ہو چکا ہے کہ عبد عیتیق کی تصحیح کرنے والوں کو کوئی ایک نسخہ بھی عبرانی ایسا نہ مل سکا جو ساتویں یا آٹھویں صدی کا سمجھا ہوا ہو چکا بلکہ ان کو ایسا بھی کوئی کامل نسخہ عبرانی کا میسر نہ ہو سکا جو دسویں صدی کے پہلے کا ہوا، کیونکہ کنی کاٹ کو جو سب سے زیادہ پڑانا نسخہ دستیاب ہوا، جس کا نام کوڈ کس لاڈیانو شک ہے، اس کی نسبت کنی کاٹ کا دعوے ہے کہ وہ دسویں صدی میں لکھا گیا تھا، موشیودی رو سی کا خیال ہے کہ گیارہویں صدی کا لکھا ہوا ہے، واندر ہوت نے جب عبرانی نسخہ کامل تصحیح کے دعوے کے ساتھ طبع کیا ہے تو اس نسخہ کے چودہ ہزار مقامات صرف توریت کے دو ہزار سے زیادہ مقامات کے مخالف نکلنے اس سے آپ اس کی اغلاط کی کثرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

بائل کے قدیم نسخوں کی حقیقت اب رہے یونانی ترجمہ کے نسخے، تو اس کے تین نسخے تو عیسائیوں کے یہاں بہت پڑانے شمار کئے جاتے ہیں، کوڈ کس اسکندر یا نوس، کوڈ کس دا طیکا نو شہ، کوڈ کس افریمی، ان میں سے پہلا ترجمہ ملے دیکھئے، صفحہ ۵۶، د ۵۷ جلد بذاء، ملے کوڈ کس (CODEX) نسخہ کو کہتے ہیں، اس

لندن میں موجود ہے، یہی نسخہ تصحیح کرنے والے حضرات کے پاس پہلی بار موجود تھا جس پر پہلے ہونے کی علامت لگی ہوئی تھی، دوسرا نسخہ روما ملک آٹھلی میں موجود ہے، جو دوسری مرتبہ تصحیح کرنے والوں کے پاس موجود تھا، جس پر دوسرا ہونے کی نشانی لگی ہوئی ہے، تیسرا نسخہ پیرس میں موجود ہے، جس میں صرف عہدِ جدید لکھا ہوا ہے، اور جہدِ عقیق کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے، اب تینوں نسخوں کی پوزیشن بیان کرنا ضروری ہے:- ہورن نے اپنی تفسیر کی جلد ۲ میں کوڑاکس اسکندر یا نوس کا حال بیان کرتے ہوئے کہا ہے:-

”یہ نسخہ چار جلدوں میں ہے، پہلی تین جلدیں میں عہدِ عقیق کی سمجھی اور جھوٹی دلوں کی تائیں موجود ہیں، جلد ۴ میں عہدِ جدید اور کلینڈٹ کا پہلا خط کر نہیں کے نام اور جھوٹی زبور جو سلیمان علیہ السلام کی جانب مسوب ہے“ پھر کہتا ہے کہ:-

”اور زبور سے قبل اتہانی شیس کا ایک خط ہے، اس کے بعد شب دروز کے ہر ہر گھنٹہ کی نمازوں میں جو پیسز پڑھی جاتی ہے اسکی فہرست ہے، اور چودا زبوریں ایمانی ہیں جن میں سے گیارہویں زبور میں مریم علیہ السلام کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں، بعض تو ان میں بالکل جھوٹی ہیں اور بعض انہیں سے باخوذ ہیں، یوسی بیس کے دلائل زبردوں پر اور اس کے قوانین انہیلوں پر لکھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے اس نسخہ کی تعریف میں مبالغہ کیا ہے اس طرح بعض نے اس کی بڑائی میں حد نہیں چھوڑی، اس کا سب سے بڑا دشمن دلستین ہے اسکی قلامت میں بھی چرمیگوئیاں کی گئی ہیں، کریب اور شلنگ کی رائے تو یہ ہے کہ یہ نسخہ شاید چھوٹھی صدی کے آخر کا لکھا ہوا ہے، میکالمس کاظمیہ یہ ہے کہ پرسب سے زیادہ پرانا نسخہ ہے، اور کوئی نسخہ اس سے بڑھ کر قدیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتہانی شیس کا نسخہ اس میں موجود ہے، اور ڈن کہتا ہے کہ یہ دسویں صدی میں لکھا گیا ہے، دلستین کا قول ہے کہ

یہ پانچویں صدی کا تحریر شدہ ہے، اس کا خیال یہ بھی ہے کہ غالباً یہ نسخہ ان نسخوں میں سے ایک ہے جو ۱۵۱۷ء میں اسکندر یہ میں سریانی ترجیح کے لئے اکٹھے کئے گئے تھے، مذکورہ سلسلہ صحیح تھے کہ یہ ساتویں صدی کا تحریر شدہ ہے، موٹ فاکن کی رائے یہ ہے کہ کسی نسخہ کی نسبت خواہ دہ اسکندر یا نوس کا ہوا، یادوں سے یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ پھٹی صدی کے پہلے کا لکھا ہوا ہے، میکاٹیس کہتا ہے کہ یہ اسی زبان کا لکھا ہوا ہے جب کہ مصری لوں کی زبان عربی بن چکی تھی، گو یا اسکندر یہ پر مسلمانوں کے تسلط کے ایک سو یادوں سال بعد، اس لئے کہ اس کا تاب اکثر جگہوں میں میم کو باعثے اور باء کو میم سے بدل دیتا ہے، جیسا کہ عربی زبان کا دستور ہے، اس سے اس نے استدلال کیا ہے کہ یہ نسخہ آٹھویں صدی سے قبل کا نہیں ہو سکتا، واپس کا خیال ہے کہ یہ چوتھی صدی کے درمیان یا آخر کا لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ قدیم نہیں ہو سکتا، سیزدھ اس میں ایک طرف ابواب و فصول ہیں، تو دوسری جانب اس میں یوسفی بیس کے قوانین منقول ہیں اسپاٹن نے دائیں کے دلائل پر اعزاز کیا ہے، اور اس امر کے دلائل کے یہ چوتھی پانچویں صدی میں لکھا گیا ہے حسب ذیل ہیں:-

① پولس کے خطوط میں ابواب کی تقسیم موجود نہیں ہے، حالانکہ یہ تقسیم ۳۹۶ء میں ہو چکی۔

② اس میں کلینٹ کے دہ خطوط موجود ہیں جن کے پڑھے جانے کی ممانعت لودھ اور کار تیجی کی مجالس کر چکی تھیں، شلنے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ نسخہ ۱۵۱۷ء سے پہلے لکھا گیا ہے،

③ شلنے ایک اور نئی دلیل سے استدلال کیا ہے، وہ یہ کہ زبور ایمانی نمبر ۱ میں ایک فقرہ ایسا موجود ہے جو ۱۵۱۷ء و ۱۵۲۲ء میں موجود تھا، لامحالہ یہ نسخہ ان رسالوں سے مقدم ہی ہو سکتا ہے، دشمن کا ہنلہ کے کہ یہ جیروم کے ہمدرد سے پہلے کا لکھا ہوا ہے، یونہ کہ اس نے اس میں یونانی متن کو قدیم اسلامی ترجیح سے بدلتا لایا تھا، اور اس کے تاب کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ اہل عرب کو ہمکاری میں بولتے ہیں، اس لئے کہ اس نے

اکاراؤ کے بد لے «اکاراؤ» لکھ دیا، دوسروں نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ کتاب کی غلطی ہے،
بیونکہ دوسری آیت میں اکاراؤ لان کا لفظ آیا ہے، میکا ٹیس کہتا ہے کہ ان دلائل سے کوئی بھی
بات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ یہ نسخہ لازمی طور پر کسی دوسرے نسخے سے نقل کیا گیا ہے،
اس تقریر ہے ان تمام دلائل کا تعلق منقول عنہ نسخے سے ہو سکتا ہے، نہ کہ اس نسخے سے،
البتہ اس معاملہ کا تھوڑا بہت تفصیلی رسم الخط، حروف کی شکلوں اور اواہ کی عدم موجودگی سے
کیا جاسکتا ہے،

چوتھی صدی کے لکھے ہوئے نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ڈاکٹر سمل کا خیال ہے کہ اہمیتیں
کا خط زبور دی کی خوبیوں کے بیان میں اس کے اندر موجود ہے، ظاہر ہے کہ اس کا اپنی زندگی
میں داخل کرنا محال ہے اور ان نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ نسخہ دسویں صدی کا لکھا ہوا
ہے کیونکہ یہ خط چھوٹا ہے، اور اس کا گھرنا اس کی زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ اور اس جعل کا
دوسویں صدی میں دفعہ ہونا قوی ہے؟

پھر ہورن اسی جلد میں واطیکانوس کے کوڈکس کے بیان میں یوں کہتا ہے کہ:-
«یونانی ترجمہ مقدمہ یہ جو نہ ۷۵۰ء کا طبع شدہ ہے یہ لکھا ہے کہ یہ نسخہ ۳۸۸ء سے
قبل لکھا گیا ہے، یعنی چوتھی صدی میں، مونت فاکس اور پلین جیسی کہتے میں کہ پانچویں یا
چھٹی صدی میں لکھا گیا، ڈیوین کا قول ہے کہ ساتویں صدی کا لکھا ہوا ہے، ہک کی رائے ہے
کہ چوتھی صدی کی ابتداء میں لکھا گیا ہے،

مارش کا خیال ہے کہ پانچویں صدی کے آخر کا معلوم ہوتا ہے، اور ہمدر عینی اور عہبر
جدید کے کسی بھی دو نسخوں میں اتنا فرق موجود نہیں ہے جتنا فرق اسکندر یانوس کے
کوڈکس اور اس نسخے میں پایا جاتا ہے؟

پھر کہتا ہے کہ:-

«کتنی کاٹ نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ یہ نسخہ اسی طرح اسکندر یانوس کا نسخہ نہ تو ایریجن
کے نسخے سے منقول ہے، اور نہ اسکی ان نقلوں سے جو اس کے قریبی زمانہ میں کی گئیں، بلکہ
یہ دونوں ان نسخوں سے منقول ہیں جن میں آریجن کی علامات نہیں ہیں، یعنی اس دور میں

جب کہ نقولوں میں اس کی علامات ترک کر دی گئی تھیں؟

پھر جلد مذکور میں افریمی کی کوڈکس کے بیان میں کہنا ہے کہ ۔۔۔

”وَلَشِينَ كَا خِيَالٍ يَہُے كَيْ يَنْسَخَ انْسُخُونَ مِنْ سَبَبِهِ جَوَاسِكَنْدَرِيَہِ مِنْ سَرِيَانِيَہِ تَرْجِمَهُ
کی تصحیح کے لئے جمع کئے گئے تھے، مگر اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور اس نے اس
حاشیہ سے استدلال کیا ہے جو عربانیوں کے نام باث آیت، پر لکھا ہوا، کہ یہ نسخہ ۲۰ھـ
سے قبل کا لکھا ہوا ہے، مگر میکائیلیں اس کے استدلال کو مضبوط نہیں سمجھتا، اور صرف اس
قدر کہنا ہے کہ یہ قدیم ہے، مارش کا کہنا ہے کہ ساتویں صدی میں لکھا گیا“

فارثین پر یہ ظاہر ہو گیا ہو گا کہ اس دعوے کی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے، کہ یہ
نسخے فلان سستہ میں لکھے گئے ہیں، جیسا کہ عموماً اسلامی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اصرف
عیسائی علماء مختص اس قیاس کی بنیاد پر جن کا مشاء بعض قرائیں ہوتے ہیں، کہہ دیتے
ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ شاید یہ نسخہ فلان فلان صدی میں، یا فلان فلان صدی میں لکھا گیا
ہے، اور خالی قیاس و مگان مخالفت کے مقابلہ میں ذرا بھی صحبت نہیں ہو سکتا، آپ کو معلوم
ہو چکا ہے کہ جو لوگ اس کے فائل میں کراسکندر یا لوسن والا نسخہ چوتھی یا پانچویں کا لکھا
ہوا ہے، ان کے دلائل کس قدر کمزور ہیں، سملر کالمان بھی بعید ہے، گیونکہ ایک ملک
کی زبان کا دوسرا ملک کی زبان سے قلیل مدت میں بدل جاتا عادت کے خلاف
ہے، حالانکہ اسکندریہ پر بروں کا تسلط ساتویں صدی عیسوی میں ہوا ہے، اس لئے
کہ صحیح روایت کے مطابق اسکندریہ پر مسلمانوں کا قبصہ ۲۰ھـ میں ہوا پاں یہ ممکن ہے کہ
اسکی مراد اسی صدی کا آخر ہو، البته میکائیلیں کی دلیل مضبوط ہے، اور اس پر
کوئی اعتراض بھی وارد نہیں ہوتا، اس لئے اس کا تسلیم کرنا ضروری ہے، نتیجہ ظاہر ہے کہ
اس نسخہ کا آٹھویں صدی سے قبل لکھا جانا ممکن نہیں ہے، اور ڈن کے قول کے مطابق
اغلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کتابت دسویں صدی عیسوی میں ہوئی جب کہ تحریف
کا سمندر اپنی پوری طغیانی پر تھا،

اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اس میں وہ تین کتابیں بھی شامل ہیں جو جھوٹی

ہیں، اس لئے ظاہر ہی ہے کہ یہ فرمی دور تھا جس میں سچے جھوٹے کا امتیاز دشوار ہو گیا تھا، یہ صفت علی وجہہ ایکمال دسویں صدی کی ہے،

اسی طرح چودہ سو سال یا اس سے زیادہ تک کاغذ اور حروف کا باقی رہنا عادتاً مستبعد ہے، خصوصاً جب کہ ہمارے پیش نظر یہ بھی ہے کہ حفاظت اور کتابت کے طریقے پہلے طبقات میں کچھ اپنے نہیں تھے، میکانلمس نے دلشیں کے استدلال کو افرمی کوڈکس کی نسبت روکیا ہے،

مونٹ ناکس اور گنی کاٹ کا قول بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے، دلوین کا قول و ایلیکا نوس کی کوڈکس کی نسبت اور مارش کی رائے افرمی کی کوڈکس کی نسبت آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ یہ دونوں سالوں صدی کی تھی ہوئی ہیں۔

ثابت ہو گیا کہ پہلا دعویٰ تسلیم شہادت ہے، اس لئے کہ ظہور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پھٹی صدی کے آخر میں ہوا ہے، اور جب کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اسکندر یا نوس کی کوڈکس چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اور بعض لوگوں نے اس کی انتہائی مذمت کی ہے، احمد دلشیں ان مذمت کرنے والوں کا سر برآ ہے، اور ایسا شدید اختلاف عہد عتیق وجہیہ کے دو نسخوں میں بھی نہیں پایا جاتا، جس قدر شدید دلشیں نوس کی کوڈکس اور اس کی کتابیں پایا جاتا ہے، تو ظاہر ہوا کہ دوسرا دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے،

پھر دوسرے ہم اپنی اس رائے سے قطع نظر کرتے ہوئے اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تینوں نسخے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل لکھے جا چکے تھے کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں، میکونکہ ہم نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ کتب مقدسہ میں ظہور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تحریف نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے بعد ہی ہوئی ہے،

بلکہ ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ کتابیں ظہور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل موجود تھیں، مگر بغیر سند متصل کے موجود تھیں، اور یقینی طور پر اس سے قبل بھی ان میں تحریف ہو چکی تھی، اور بعض مقامات میں بعد کو تحریف کی گئی،

اگر ظہور محمدی سے قبل بے شمار نسخوں کا ثبوت مل جائے تو بھی یہ بات ہمارے

دعوے پر اثاب مدار نہ ہوگی چہ جائے کہ صرف تین نسخوں کا ثبوت ملتا، بلکہ اگر اسکندر یا نوس
جیسے ہزاروں نسخوں کا وجود بھی ثابت ہو جائے تو بھی ہماسے لئے مضر نہیں، بلکہ اس
اعتبار سے مفید ہو گا کہ یہ نسخے یقینی طور پر جعلی کتابوں پر شامل ہیں، اور ان کے درمیان
بائی شدید اختلاف ہے، جس کی نظر اسکندر یا نوس کی کوڑکس اور الپیڈ نوس کی
کوڑکس پے، جو ان کے اسلاف کی تحریف کی سب سے بڑی دلیل بن سکے گی، غرض
قدامت کے لئے صحت کسی طرح ضروری اور لازم نہیں ہے، جس کی زندہ مثال یہ ہے
کہ اسکندر یا نوس کی کوڑکس میں کئی صحقوٹی کتابیں شامل ہیں ہے ۴



باب سوم

نسخ کا ثبوت

نسخ مختلف شریعتوں میں _____
_____ نسخ ایک ہی شریعت میں

ہم
 جس آیت کو بھی نسخ کرتے یا بحلا تے ہیں
 اُس سے بہتر یا اُس حبیی آیت نازل کر دیتے ہیں

نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ عَلَىٰكَ أَنْتَ مُصَدِّقٌ لِّمَا
 بَيْنَ يَدَيْكَ وَنَاهِيٌ عَنِ الْمُجْرِمِينَ

قیسرا باب

نسخ کا ثبوت

لُغت میں "نسخ" کے معنی زائل کرنا، مژادیتا ہیں، مسلمانوں کی اصطلاح میں کسی عملی حکم کی مدت کی انتہا کا بیان کرنا، جو تمام شرائط کو جامع ہو، "نسخ" کہلاتا ہے، کیونکہ ہمارے زندگی فی الواقع و قصص یا امور قطعیہ عقلیہ میں نسخ ممکن نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ خداوندِ عالم موجود ہے۔ اسکی نسخ نہیں ہو سکتا، اسی طرح امور حسیہ میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ مشلان دن کی روشنی، رات کی تاریکی، اسی طرح دعاؤں میں اور ان احکام میں جو اپنی ذاتی حیثیت سے واجب ہیں، مثلاً افہنوا۔ وَلَا تُشْرِكُوا اسی طرح ان احکام میں بھی نسخ ممکن نہیں جو داعی اور ابدی ہیں جیسے لَا تَقْبِلُوا لِهُمْ شَهَادَةً أَبْدَأُوا۔ ان کی گواہی کو قبول نہ کرو۔ اور ان احکام میں جن کا وقت متعین ہے، اس معین وقت کی آمد سے قبل نسخ کا امکان نہیں ہے، جیسے

لہ یعنی اہمان لا ۱۲ ۲۰ یعنی خدا کے ساتھ کسی کو مشریک نہ ٹھہراؤ ۱۲

یہ قرآن کریم کی اس آیت میں ان لوگوں کی سزا بتائی جائی ہے جو کسی پاک دامن انسان پر زنا کی تہمت لگائیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی گواہی کسی معاملہ میں کبھی قبول نہ کی جائے، تو پونکہ اس حکم میں خود اس کے دامنی اور ابدی ہونے کی تصریح کر دی گئی ہے،

اس لئے یہ حکم منسوخ نہیں ہو سکتا ۱۲

فَاعْقُلُوا وَاصْفَحُوا أَخْتَى بَيْانِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ «پس تم معاف اور درگذر کرد، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے ۔»

بلکہ نسخ صرف ان احکام میں واقع ہو سکتا ہے جو عملی اور وجہ عدم دونوں کا احتمال رکھتے ہوں، نہ ذاتی ہوں اور نہ کسی وقت کے ساتھ مخصوص کئے گئے ہوں، ایسے احکام کو «احکام مطلقہ» کہا جاتا ہے، ان میں یہ بات ضروری ہے کہ زمانہ اور مختلف اور صورت متعدد ہوں۔ بلکہ تینوں میں اختلاف ہو، یا بعض میں،

نسخ اصطلاحی کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ پہلے خدا نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دے دیا، مگر اس کا انجام خدا کو معلوم نہ تھا، پھر خدا کی رائے اس کے خلاف قائم ہوتی، اس لئے پہلے حکم کو ختم کر دیا، کنوز باشد خدا کا جاہل ہونا لازم آئے یا پہلے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا، پھر ان کو تینوں باتوں میں اتحاد کے باوجود فسخ کر دیا، اگرچہ ہم یہ کہیں کہ خدا کو انجام معلوم تھا تب بھی اس سے خدا کی شان میں قباحت کی نسبت لازم آتی ہے، والیاذ منہ باشد، چنانچہ ایسا نسخ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، اللہ کی شان اس عجیب سے بلند و بالا ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ خدا کو پہلے سے یہ بات معلوم تھی کہ یہ حکم انسانوں پر فلاں وقت تک باقی رہے گا پھر منورخ کر دیا جائے گا، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اشد تعالیٰ دوسرا حکم بھیج دیتا ہے، جس سے کمی یا بیشی ہونی یا بالکل حکم ختم ہو جانا معلوم ہوتا ہے تو درحقیقت یہ صرف پہلے حکم کی مدت و انتہاء کا بیان و اظہار ہے، مگر چونکہ بندوں کے سامنے پہلے حکم میں وقت اختتام کو ذکر نہیں کیا گیا، اس لئے دوسرے حکم کے آنے پر ہم اپنی کوتاہی فہم کی بناء پر یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ حکم میں تبدیلی ہوئی ہے۔

اہ یہ بھی زندگی میں مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے، کہ کفار کے ظلم و ستم کا کوئی جواب نہ دوتا و قتیک جہاد کا حکم نازل نہ ہو جائے ۱۲

یہ مطلب ہے کہ جس زمانہ میں جس شخص کو جن سعورت کے ساتھ ایک کام کا حکم دیا گیا یہ ناممکن ہے کہ اسی زمانہ میں اسی شخص کو اسی صورت میں منع کر دیا جائے بلکہ نسخ میں یا زمانہ جملے گایا وہ شخص یا صورت یا تینوں

بلاشبیہ اس کی مثال ایسی سمجھو لیجئے کہ آپ اپنے کسی اپنے خادم کو جس کے حالات سے آپ پورے طور پر باخبر ہیں کسی خدمت کا حکم دیتے ہیں، اور اپنے دل میں یہ ارادہ اور نیت کر لیتے ہیں کہ اس کام پر مثلاً اس کو ایک سال رکھوں گا، اور آئندہ سال مجھ کو اس سے دوسرا کام کرانا ہے۔ مگر آپ نے اپنی اس نیت اور ارادے کو خادم پر ظاہر نہیں کیا، اب ایک سال پورا ہونے پر جب آپ نے دوسری خدمت کا اس کو حکم دیا تو ظاہر ہیں خادم کے نزدیک بھی اور پر اپنے شخص کے نزدیک جس کو آپ کے ارادے اور نیت کا حال معلوم نہیں ہے آپ کا یہ دوسری حکم ترمیم و تبدیلی سمجھا جائے گا، لیکن حقیقت میں اور آپ کے نزدیک یہ پرگز تبدیلی نہیں ہے، اس معنی کے لحاظ سے نہ تو خدا کی ذات کی نسبت اور نہ اس کی کسی صفت کے لئے استحالة لازم آسکتا ہے، پس جس طرح موسموں کے بدلتے ہیں کہ کبھی بہادر ہے کبھی خستا، کبھی سردی ہے کبھی گرمی، بے شمار حکمتیں ہیں، دن رات کی تبدیلی اور انسان کے حالات بدلتے ہیں، ننگستی، دولت مندی، بیماری و صحت کے آنے جانے میں خدا کی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، خواہ ہم کو ان کا علم ہو یا نہ ہو، بالکل اسی طرح احکام کی منسوخی میں خدا کی بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں مختلفین اور زمان و مکان کے حالات کے پیش نظر ہوتی ہیں،

دوسری مثال یوں سمجھئے کہ ماہر حکیم داؤں اور غذاوں میں تغیر و تبدل کرتا ہے جس کا منشاء مرضیں کے حالات اور دوسرے اسباب ہوتے ہیں، جو مصلحتیں اس وقت ملتے ہوتی ہیں ان کے پیش نظر طبیب کے اس فعل کو کوئی بھی عقلمند بیکار اور فضول اور اس حکیم کو جاہل اور بیوقوف کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا، پھر کوئی شخص دار انسان اس حکیم مطلق کی نسبت جو اپنے قدیم ازلی و ایدنی علم کی بدولت اشیاء کے تمام احوال کو جانتا ہے یہ تصور کیسے کر سکتا ہے؟

بائب کے جھوٹے واقعات | یہ بات سمجھنے کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عہدِ حق اور جدید میں درج شدہ کوئی واقعہ منسوخ نہیں ہے البتہ ان میں سے بعض واقعات قطعی جھوٹے ہیں مثلاً یہ کہ :-

۱۔ وطیبہ الاسلام نے اپنی دو بیٹوں سے زنا کیا تھا، اور ان دونوں کو اپنے باپ کا حس رہ گیا۔ جس کی تصریح پیدائش باب ۱۹ میں موجود ہے:

۲۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا نے اپنے بیٹے کی بیوی تم سے زنا کیا اور اس کو محل رہ گیا، اور اس سے دو بخڑاداں لڑکے فارص اور زارج پیدا ہوئے جس کی تصریح کتاب فد کو کے باب ۳۸ میں موجود ہے۔ حالانکہ داؤڈ، سليمان اور عیسیٰ صب کے سب اسی فارص کی اولاد سے ہیں، جس کی تصریح انجیل مشی باب اول میں ہے۔

۳۔ داؤد علیہ السلام نے اور یاگی بیوی سے زنا کیا تھا، اور وہ ان سے حاملہ ہوئیں، پھر داؤد نے اس کے شوہر کو دھوکہ اور فریب سے مردا دیا، اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنایا، جس کی تصریح سمو تیل شانی باب میں موجود ہے،

۴۔ سلیمان علیہ السلام اپنی آخری عمر میں مر تر ہو گئے تھے، اور مر تر ہونے کے بعد بُت پرستی کرتے رہے، اور بُت خانے تحسیر کئے، جس کی تصریح سلاطین اول باب میں موجود ہے۔
۵۔ ہارون علیہ السلام نے گوسالہ پرستی کے لئے عبادت گاہ بنائی تھی، اور خود بھی بچھڑے کی پوچاکی، اور بنی اسرائیل کو بھی گوسالہ پرستی کا حکم دیا، جس کی تصریح سفر خروج باب میں موجود ہے:

ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام واقعات قطعی باطل اور جھوٹی ہیں۔ ہم ان کو منسوخ نہیں مان سکتے، اسی طرح امور قطعیہ حسیہ یا عقلیہ اور احکام واجبہ و احکام مؤبدہ اور احکام وقتیہ کا اپنے مقررہ وقت سے قبل منسوخ ہونا، اور وہ احکام مطلقاً جن میں زمانہ اور مکلف اور صوت ایک ہی ہواں میں سے کسی میں بھی نسخ ممکن نہیں کہ قیاحت لازم آئے، اسی طرح دعائیں منسوخ نہیں ہو سکتیں، اسی طرح وہ زبور جو خالص دعاوں کا مجموعہ ہے اصطلاحی معنی کے لحاظ سے منسوخ نہیں ہے، اور نہ ہم یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ توریت کے لئے.....
ناسخ تھی اور خود انجیل سے منسوخ ہو گئی، جب کہ میزان الحق کے مصنف نے مسلمانوں پر یہی بہتان باندھا ہے، اور کہا ہے کہ اس کی تصریح مسلمانوں کے قرآن اور تفہیم و نہیں پائی جاتی ہے،

اور ہم نے زبور اور دوسری عبید عتیق و جدید کی کتابوں پر عمل کرنے سے جوانکار کیا ہے وہ اس لئے کہ یہ سب کتابیں انسانیہ متصدیہ کے ہیں جائے جانے اور تحریف لفظی کی تمام قسموں کے ان کتابوں میں واقع ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر مشکوک ہیں، جیسا کہ بابت میں معلوم ہو گیا ہے، اور مذکورہ احکام کے علاوہ دوسرے "احکام مطلقة"، جن میں نسخ کی صلاحیت موجود ہے، ان میں نسخ ممکن ہے،

پس ہم اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ توریت و انجیل کے وہ بعض احکام جن میں نسخ کی صلاحیت ہے شریعت محمدیہ میں منسوخ ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہرگز نہیں کہ توریت و انجیل کے جملہ احکام منسوخ ہیں، اور یہ بات کس طرح ہو سکتی ہے جیکہ توریت کے بعض احکام یقیناً منسوخ نہیں ہیں، مثلاً :-

جھوٹی قسم، قتل، زنا، لواط، چوری، بھوتی شہادت، پڑوسی کے مال میں خیانت کرنے، اور اس کی آبرو میں خیانت کرنے کی حرمت، والدین کی تعظیم کا واجب ہونا، باپ دادا بیٹوں، ماوں، بیٹیوں، چھاؤں، پچھوپھیوں، ما موؤں، خالاؤں سے نکاح کا حرام ہونا، اور دو حقیقی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت وغیرہ بے شمار احکام ہیں، جو یقینی طور پر غیر منسوخ ہیں،

اسی طرح انجیل کے بعض احکام یقیناً منسوخ نہیں ہوئے، مثلاً انجیل مرقس باب ۲۹ میں یوں ہے کہ :-

"یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل مُن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور ساری اپنی طاقت سے محبت رکھ، دوسرا یہ کہ تو اپنے پڑوی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان پسے بڑا کوئی اور حکم نہیں" (آیات ۳۱ تا ۲۹)

یہ دونوں حکم ہماری شریعت میں بھی بڑی تاکید کے ساتھ موجود ہیں، اور منسوخ ہرگز نہیں ہیں، اور پھر بات یہ ہے کہ نسخ کوئی ہمدردی شریعت کے ساتھ تو مخصوص نہیں ہے بلکہ گذشتہ شریعتوں میں بھی کثرت سے اپنی دونوں قسموں سمیت پایا جاتا ہے، یعنی ایک

وہ نسخ کہ جو کسی نئے نبی کی شریعت میں کسی پہلے نبی کی شریعت کے حکم کی نسبت ہو، اور دوسرا وہ نسخ جو خود اسی نبی کی شریعت کے کسی سابقہ حکم کی نسبت جاری ہو، ان دونوں قسم کے نسخ کی مثالیں عہدِ حقیق و حبہ میدونوں میں بے شمار موجود ہیں۔ ہم اس جگہ صرف بعض مثالوں پر اکتفاء کرتے ہیں، پہلی قسم کے نسخ کی مثالیں حسب ذیل ہیں:-

كتب مقدمة میں نسخ کی پہلی قسم -

بھائی بہنوں میں شادی | آدم علیہ السلام کے عہد میں سچائی بہنوں کے درمیان شادیاں ہوئیں، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ بھی ان کی علاقی بہن تھیں۔ جیسا کہ ابراہیم کے اس قول سے جو پیدائش باب ۲ آیت ۱۲ میں درج ہے، سمجھیں آتا ہے

پہلی مثال

آیت مندرجہ ذیل ہے:-

” اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے، کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے، اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں، پھر وہ میری بیوی ہوئی ”

حالانکہ بہن سے نکاح کرنا خواہ وہ حقیقی سگی بہن ہو، یا صرف باپ شریک ہو، یا صرف ماں شریک ہو، مطلقاً حرام اور زنا کے برابر ہے، اور نکاح کرنے والا ملعون ہے، اور ایسے میاں بیوی کو قتل کر دینا واجب ہے، چنانچہ کتاب احbar باب ۱۸ آیت ۹ میں کہا گیا ہے کہ:-

” تو اپنی بہن کے پدن کو چاہے وہ نیرے باپ کی بیٹی ہو چاہے نیری ماں کی اور خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو، خواہ کہیں لور بے پردہ نہ کرنا ”

ڈی آئلی اور رچرڈ مینٹ کی تفسیر میں اس آیت کی شرح کے ذیل میں یوں کہا گیا ہے کہ:-
” اس قسم کا نکاح زنا کے برابر ہے ”

نیر کتاب احbar ہی کے باب ۲ آیت ۱ میں کہا گیا ہے کہ:-

” یعنی باپ شریک ۱۲ نقی ”

” اور اگر کوئی مرد اپنی بہن کو جو اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہو ملے کہ اس کا بدن دیکھنے تو یہ شرم کی بات ہے، وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کئے جائیں، اس نے اپنی بہن کے بدن کو بے پرداہ کیا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا؛ ”

نیز کتاب استغنا، باب ۲۲ آیت ۲۲ میں کہا گیا ہے کہ :-

” لعنت اس پر جو اپنی بہن سے مباشرت کرے، خواہ وہ اس کے باپ کی بیٹی ہو خواہ ماں کی اور سب لوگ کہیں آیں ۔ ”

اب اگر آدم علیہ السلام اور ابrael ہیم علیہ السلام کی شریعتوں میں اس قسم کے نکاح کو جائز نہ مانا جائے تو تمام انسانوں کا زنا کی اولاد ہونا اور شادی کرنے والوں کا زنا ہونا اور واجب القتل ہونا اور ملعون ہونا لازم آتا ہے، پھر انبیاء علیہ السلام کی شان میں ان باتوں کا کیونکر تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس سے لامحالہ یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ایسا نکاح دونوں کی شریعت میں جائز تھا، پھر منسوخ ہو گیا،

عربی مترجم کی تحریف عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۱۸ء کے مترجم نے پیدائش بابت آیت ۱۲ کا ترجمہ کس دلیری اور بے باکی سے یوں بگاطر کر کیا ہے کہ :-

” یہ میرے باپ کی رشتہ دار ہے نہ کہ میری ماں کی ۔ ”

ظاہر یہی ہے کہ یہ تحریف جان بوجھ کر اس لئے کی گئی ہے کہ سارہ کے نکاح کے اعتبار سے نسخ لازم نہ آسکے، کیونکہ باپ کی رشتہ دار میں چھا کی بیٹی پھرپی کی بیٹی اور دوسری عورتیں بھی ہو سکتی ہیں،

حیوانات کی حلت دوسری مثال

کتاب پیدائش باب آیت ۳ میں اللہ کا قول فوج علیہ السلام اور ان کی اولاد کو خطاب کرتے ہوئے ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۹۲۵ء و ۱۹۲۶ء میں اس طرح مذکور ہے کہ :-

” پھر چلتا پھرتا جاندار تھا کے کھانے کو ہو گا، پھر سبزی

لے یہ موجودہ اردو ترجمہ کی عبارت ہے جو مصنف کی نقل کردہ عبارت کے مطابق ہے اس ت

نر کاری کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا۔

معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کی شریعت میں سبزیوں، نر کاریوں کی طرح تمام حیوانات حلال تھے، حالانکہ شریعت موسویہ میں بہت سے جانور جن میں خنزیر بھی کہے جسرا م کر دیئے گئے، جس کی تصریح کتاب الاحبار باب ۱۰ میں اور کتاب استثناء باب ۱۱ میں موجود ہے ایک اور تحریف ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۱۱ء کے مترجم نے اس مقام پر بھی تحریف کی، آیت مذکورہ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ :-

”ہر پاک زندہ جانور کو تھا سے لئے حلال ہے، اسی طرح جس طرح ساگ سبزی“

اس مترجم نے اپنی جانب سے ”پاک، کالفظ بڑھا دیا، تاکہ ان حیوانات کو شامل نہ ہو سکے جو شریعت موسویہ میں حرام ہیں، کیونکہ توریت میں اپنے جانوروں کو ناپاک کہا گیا ہے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی دو خالہ زادہ ہنوں دو بہنوں سے بیک وقت شادی تیسری مثال

حالانکہ اس قسم کا نکاح شریعت موسویہ میں حرام کر دیا گیا، کتاب الاحبار باب ۱۸ آیت ۱۸ میں یوں کہا گیا ہے کہ :-

”تو اپنی سالی سے بیاہ کر کے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنانا، کہ دوسری کے جیتے جی اس کے پدن کو بھی بے پردہ کرے“

اب اگر یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں کے نکاح میں جمع کرنے کو جائز تسلیم نہ کیا جائے تو لازم آئے گا کہ دونوں کی اولاد ولد الذنا قرار دی جائے (خدکی پناہ جب کہ اللہ پیغمبر انہی کی اولاد ہیں،

لہ مثلاً اور سور کو کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں، پھر وہ جگائی نہیں کر سکتا، وہ بھی تھا سے لئے ناپاک ہے، تم ان کا گوشت نہ کھانا،“ (احبار ۱۱: ۲)

لہ مثلاً ان میں سے جگائی کرنے ہیں یا ان کے پاؤں چرے ہوئے ہیں تم ان کو یعنی اونٹ، خرگوش اور سافان کو نہ کھانا،“ (استثناء ۱۲: ۲)، لہ بالخصوص دیکھئے آیات ۳۰۰ تا ۳۲۳۔

پھوپی سے نکاح پھوپی مثال

مقصد کی شہادت نمبر ایں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ عمران شاہ کی بیوی پوکید اس کی پھوپی تھی، عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۶۲۵ شمسیہ و شناخت کے مترجم نے اس میں عیب پوشی کے لئے جان بو جھ کر تحریف کی، عرض موسیٰ علیہ السلام کے دالد نے اپنی پھوپی سے نکاح کیا تھا، حالانکہ شریعت موسویہ میں ایسا نکاح حرام کر دیا گیا، چنانچہ کتاب الاحبار باب آیت ۱۷ میں یوں کہا گیا ہے کہ :-

”تو اپنی پھوپی کے بدن کوبے پر دہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے“
اسی طرح سفر مذکور بابت آیت ۱۹ میں بھی کہا گیا ہے۔

اب اگر اس قسم کا نکاح شریعت موسویہ سے قبل ناجائز نہ مانا جائے تو نعوف بالشہ لازم آئے گا کہ حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ اور دونوں کی بہن مریم، زنا کی اولاد تھے، اور یہ بھی لازم آئے گا کہ دس پشتول تک ان میں کوئی شخص خدا کی جماعت میں داخل نہ ہو سکے گا، جس کی تصریح کتاب استثناء باب ۲۳ آیت ۳ میں موجود ہے، اور اگر ایسے حضرات خدا کی جماعت سے نکالے جانے کے لائق ہو سکتے ہیں تو پھر وہ کون ہے جو اس میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھ سکے؟

مثال نمبر ۵ | کتاب پرمیاہ باب ۱۳ آیت ۳۱ میں ہے کہ :

”دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے کے ساتھ نیا ہمدرد باندھوں گا اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا، جب میں نے ان کی دستیگیری کی تاکہ ان کو ملک مضر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا، اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے“

اس میں نے عہد سے مراد جدید شریعت ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ شریعت لہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ۱۲

تلہ“ اور تو اپنی خالہ یا پھوپی کے بدن کوبے پر دہ نہ کرنا تھا، تھے تفصیل کے لئے صفحہ ۳۳۳ حج اد بیکھئے۔

جدید شریعت موسویہ کی ناسخ ہوگی، عیسائیوں کے مقدس پولس نے عبرانیوں کے نام پنے خط میں دعویٰ کیا ہے کہ اس شریعت کا مصدق عیسیٰؑ کی شریعت ہے، اس کے اس اعتراف کے مطابق شریعت عیسیٰؑ موسیٰؑ کی شریعت کے لئے ناسخ ہوئی، یہ پہنچ مثالیں تو بہودیوں اور عیسائیوں پر مشترکہ الزام قائم کرتی ہیں، باقی خالص عیسائیوں پر الزام قائم کرنے کے لئے دوسری مخصوص مثالیں موجود ہیں:-

**طلاق کی حلت
چھٹی مثال**

موسیٰؑ شریعت میں جائز تھا کہ ہر شخص اپنی بیوی کو کسی بھی وجہ سے طلاق دے سکتا ہے، اور یہ بھی جائز تھا کہ اس مطلقہ سے پہلے شوہر کے گھر سے نکلنے ہی دوسرਾ شخص فوراً انکا حکم سکتا تھا جس کی تصریح کتاب الاستثناء کے باب ۲۳ میں موجود ہے، حالانکہ شریعت عیسیٰؑ میں سوائے زنا کے ارتکاب کے عورت کو طلاق دینے کی اور کوئی معقول درجہ تسلیم نہیں کی گئی، اس طرح شریعت عیسیٰؑ میں مطلقہ سے نکاح کرنا زنا کے برابر قرار دیا گیا ہے، چنانچہ انجلی میں باب ۱۹ آیت ۱۵ میں تصریح ہے کہ جب فریبی معرضہ نے حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام پر اس مسئلہ میں اعتراض کیا تو ان کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ:-

”مومنی نے تھاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، مگر ابتداء سے ایسا نہ تھا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرنا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے“

اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکم میں دو مرتبہ نسخ دا قع ہوا، ایک مرتبہ شریعت موسوی میں، پھر دوبارہ شریعت عیسیٰؑ میں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی کبھی کوئی حکم لئے دیکھئے عبرانیوں، تا ۱۷ آیات میاہ کی مذکورہ عبارت نقل کرنے کے بعد اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”جب اس نے بیاہ کیا تو پہلے کوچرا ناٹھرا یا، اور جو چیز پڑتی اور مت کی ہو جاتی ہے دہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے“ (۸:۱۲) تا ۲۰ آیات اور ۲۰ تا ۲۷ آیات یعنی یہودی علماء،

محض بندوں کے حالات کے تقاضے کی بنا پر جاری ہوتا ہے، اگرچہ وہ واقع میں اپھانہ ہو۔

سال تو میں مثال | بہت سے جیوانات کا استعمال شریعت موسوی میں حرام تھا لیکن کے فتویٰ کے مطابق تو عام اباحت ثابت ہو گئی، رو میوں کے نام پولس کے خط کے باب آیت ۱۲ میں کیا گیا ہے کہ :-

”مجھے معلوم ہے، بلکہ خداوند یسوع میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذاتہ حرام نہیں سیکن جو اُسے حرام سمجھتا ہے اس کے لئے حرام ہے“

نیز طفیل کے نام خط باب آیت ۱۵ میں ہے کہ :-

”پاک لوگوں کے لئے سب چیزیں پاک ہیں، مگر گناہ آلوہ اور بے ایمان لوگوں کے لئے کچھ سمجھی پاک نہیں بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلوہ ہیں“

یہ دونوں اصول بھی عجیب و غریب ہیں کہ کسی شے کو ناپاک سمجھنے والے ہی کے لئے وہ چیز ناپاک ہو، اور یہ کہ پاک لوگوں کے لئے ہر چیز پاک ہے، شاید غریب بنی اسرائیل پاک نہیں تھے اسی لئے ان کی قسمت میں عام اباحت نہیں ہوئی، اور عیاں سب کے سب پاک تھے، اس لئے ان کو اباحت کی نعمت عطا فرمائی گئی، کہ ہر چیز ان کے لئے پاک کر دی گئی، مقدس پولس نے اباحت عامہ والے مسئلہ کی اشاعت کے لئے بے انہاگوش کی، اس لئے تیمظیں کے نام اپنے پہلے خط کے باب آیت ۳ میں لکھتا ہے کہ :-

”میونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے، اور کوئی چیز انکار کے لاٹق نہیں پڑھیکہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، اس لئے کہ خدا کے کلام اور دعاء سے پاک ہو جاتی ہے۔ اگر تو بھائیوں کو یہ بائیں یاد لائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا، اور ایمان اور اس اچھی باتوں کی تعلیم سے جس کی توضیر دی گرتا آیا ہے پورش پانی ہے گا“ (آیت ۴۷ تا ۴۸)

لہ یعنی ہر چیز حلال ہو گئی،

عید اور سببیت کے احکام آٹھویں مثال

کی نسبت اسی باب کی آیات ۳۱، ۲۱، ۲۰، ۱۹ میں ایسے الفاظ موجود ہیں، جو ان کا دامنی طور سے دا جب ہونا بتا رہے ہیں،

نیز موسوی شریعت میں سبتوں (شنبہ کے دن) کی تغظیم کا حکم دائمی تھا، اور کسی شخص کو بھی اس روز ادنیٰ اور معمولی کام کرنا جائز نہ تھا۔ اور جو شخص بھی اس روز کوئی کام کرتا یا اس کی پابندی نہ کرتا تو وہ شرعاً واجب القتل ہوتا تھا، اس حکم کا بیان اور تاکید عہدِ عقین کی کتابوں سے بیشتر مقامات میں بار بار ہوتی ہے، مثلاً کتاب پیدائش باب آیت ۳ میں اور کتاب خروج کے باب ۲۰ آیت ۸ تا ۱۱، اور سفر خروج باب ۲۳ کی آیت ۲ میں اور اسی کتاب کے باب ۳۴ آیت ۲۱ میں، اور سفر احبار کے باب ۱۹ آیت ۳ میں اور اور باب ۲۳ کی آیت ۳ میں اور کتاب الاستثناء باب ۱۵ آیت ۱۲ تا ۱۵ میں اور کتاب یرمیاہ کے باب ۱ میں، اور کتاب یسعیاہ کے باب ۵۶ و ۵۸ میں اور کتاب نحیاہ کے باب ۹ میں اور کتاب خنزیل کے باب ۲۰ میں اور کتاب خروج کے باب ۱۳ آیت ۱۳ میں کہا گیا ہے کہ:-

و تو بني اسرائيل سے یہ بھي کہر دینا کہ تم ميرے سبتوں کو ضرور مانا، اس لئے کہ یہ ميرے اور تھار سے درمیان تھاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تھارا پاک کرنے والا ہوں، پس تم سببت کو مانا، اس لئے کوہ تھارے لئے مقدس ہے، جو کوئي اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا

جائے، جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ پچھہ دن کام کا ج کیا جائے لیکن ساتواں دن آلام کا سبب ہے، جو خداوند کے لئے مقدس ہے، جو کوئی سبب کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے، پس بنی اسرائیل

۱۲۔ تھاڑی سکونت کا ہوں میں پیشہ درپشت یہی آئین رہے گا۔^{۱۲}

لہ لیکن پوس نے ان احکام کو منسوخ کر دیا جیسا کہ نویں مثال میں اس کی عبارت آرہی ہے ۱۲ ت

سبت کو میں، اور پشت در پشت اُسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں، سیرے اور بنی اسرائیل کے در بیان یہ چمیشہ کے لئے ایک نشان رہے گا، اس لئے کچھ دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا (زایات ۲۷)

اور کتاب خروج یا بیت ۲ میں ہے کہ:-

”پچھے دن کام کا ج کیا جائے، لیکن ساتویں دن تمہارے لئے روز مقدس یعنی خداوند کے لئے آرام کا سبب ہو، جو کوئی اس میں کوئی کام کرے وہ مارڈا لا جائے تم سبب کے دن اپنے گھروں میں کہیں بھی آگ نہ جلانا“ (آیات ۳۲ تا ۳۴)

کتاب گنتی باب ۱۵ آیت ۳۲ میں ایک واقعہ اس طرح مذکور ہے:-

”اور جب بنی اسرائیل بیان میں رہتے تھے ان دنوں ایک آدمی ان کو سبب کے دن مکڑیاں جمع کرتا ہوا صلا وہ اُسے موسیٰ علیہ السلام اور ہاروئں اور ساری جماعت کے پاس لے گئے، انھوں نے اُسے حوالات میں رکھا، کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گی تھا کہ اُسے کی کرنا چاہئے، تب خداوند نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرور جان سے مارا جائے، ساری جماعت شکرگاہ سے باہر اُسے سنگار کرے، چنانچہ جب خداوند نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا اس کے مطابق ساری جماعت نے اُسے شکرگاہ سے باہر لے جا کر سنگار کیا اور وہ مر گیا“ (آیات ۳۶ تا ۳۲)

اس کے علاوہ خود مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں جو یہودی تھے وہ اس وجہ سے بھی آپ کو اذ نہیں دیتے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے کہ آپ ”یوم السبت“ کی بی حرمتی کرتے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو رسول برحق مانتے سے انکار پر ان کی ایک دلیل یہ بھی تھی کہ یہ سینچر کے روز کام کرتے ہیں، چھٹی نہیں مناتے، چنانچہ انجلیل یو حنا باب آیت ۱۶ میں ہے کہ:-

”اس لئے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبب کے دن کرتا تھا“ اور انجلیل یو حنا باب ۹ آیت ۱۶ میں ہے کہ:-

”لیں بعض فریبی کرنے لگے کہ یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ سبب کے دن

کو نہیں مانتا؟

یہ بات معلوم ہونے کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مقدس پوس کے ان احکام کو مثال نمبر ۹، ۸ میں مذکور ہیں منسوخ کر دیا اور بیان کیا کہ یہ سب کام مگر ہی واسطے تھے چنانچہ کلستیوں کے نام اس کے خط باٹ آیت ۱۶ میں ہے کہ:-

”پس کھانے پینے پا عبد یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی ختم پر الزام نہ لگائے،

کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں، مگر یہ مسجع کا ہے“ (آیات آتا)

ڈی آئلی اور رچرڈ منٹ کی تفسیر میں آیت ۱۶ کی شرح کی ذیل میں لکھا ہے کہ:-

”برکت اور ڈاکٹروٹ بی کہتا ہے کہ یہودیوں کے یہاں عبد میں تین قسم کی تھیں

ایک سالانہ، دوسری ماہانہ، تیسرا ہفتہوار، پھر یہ سب منسوخ ہو گئیں

بلکہ یوم السبت بھی منسوخ ہو گیا، اور عیسائیوں کا سبت اس کے قائم مقام ہوا“

لشیپ ہارسلی آئٹھے مذکورہ کی شرح کے ذیل میں کہتا ہے کہ:-

”یہودیوں کے گر جا کا سبت ختم ہو گیا، اور عیسائیوں نے اپنے سبت کے عمل میں

فریضیوں کی طفلا نہ رسوم کو اختیار نہیں کیا“

ہنسی و اسکات کی تفسیر میں یوں کہا گیا ہے کہ:-

”و جب عیسیٰ نہ رسوم والی شریعت کو منسوخ کر چکے ہیں تو پھر کسی کو یہ حق نہیں کہ

۔۔۔ اصل نہیں الیا ہی ہے، مگر صحیح بات ہے کیونکہ یہ عبارت اسی میں ہے ۱۲۴

۔۔۔ یہ بونا فی اور قدیم عربی ترجیح کے الفاظ ہیں، انگریزی ترجیح میں بھی الیا ہی ہے، لیکن موجودہ اردو ترجیح

کے الفاظ یہ ہیں“ مگر اصل چیز مسجع کی ہیں ۱۲۴

۔۔۔ سالانہ جیسے عبد فسح ماہانہ جیسے نیا چاند NEW MOON کہ ہر ماہ کے شروع میں جب نیلپا

دھائی دے تو اسکی خوشی میں کچھ قربانیاں دینے کا حکم تھا (گنتی ۱۱:۲۸) اور ہفتہوار جیسے سبت ۱۲۴

۔۔۔ نیزد CONCORD BIBLE OXFORD میں جو کئی عیاذ محققین کی مشترک تالیف

ہے واضح طور سے لکھا ہے کہ ”اس ممانعت (یعنی سبت میں کام کرنیکی ممانعت) کی تفصیل جلا وطنی کے بعد کے

دور میں بہت ناقابل برداشت اور غیر حقیقی ہو گئیں جس کے نتیجہ میں ہمارے خداوند نے ان کے خلاف احتجاج کیا۔

وہ دوسری قوموں کو ان کا پاس نہ کرنے پر الزام دے، باسوبہ دلیا کہتا ہے کہ اگر یوم السبت کی پابندی سب لوگوں پر واجب ہوتی، اور دنیا کی تمام قوموں کے لئے لازم ہوتی تو اس کا منسون ہونا ممکن نہ تھا، جس طرح کہ اب حقیقت منسون ہو چکی ہے، اسی طرح عیسائیوں پر نسل بعد نسل اس کی پابندی لازم ہوتی، جس طرح متروع یہودیوں کی تعظیم اور ان کو خوش کرنے کے لئے وہ بھی کرنے تھے ॥

مقدس پوس کا یہ دعویٰ کہ یہ مگر ہی وارے احکام ہیں تو ریت کی عبارت کے موافق ہیں کیونکہ خدا نے جیوانات کی حرمت کا سبب بیان کر دیا ہے کہ ”وہ ناپاک ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں بھی پاک ہوں“ جس کی تصریح کتاب احوار کے باب میں موجود ہے، اور عیید فطیر کی علت یہ ہے کہ ۔۔۔

”کیونکہ میں اسی دن تھمارے جتھوں کو طلب مھر سے نکالوں گا، اس لئے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل ماننا“ ॥

جس کی تصریح کتاب خروج باب ۱۲ میں موجود ہے، اور عیید خیام کی علت یوں بیان ہوئی ہے۔

لئے ناپاک ہونے کا ذکر آیت نمبر ۳۴ میں ہے ”تم ان کا گوشت نہ کھانا، اور ان کی لاشوں کو نہ چھوڑنا وہ تھا سے لئے ناپاک ہیں“ اور آیت ۳۳ میں ”اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں“ ۔

تلہ عیید فطیر ^{EAST OF UNLEAVENED BREAD} میں یہودیوں کا ایک تھوار تھا، جو ۱۵ اگسٹ (اپریل) سے سات دن تک منایا جاتا تھا، ”فطیر“ یہ خمیر کی روٹی کو کہتے ہیں، جب بھی اسرائیل مہربوں کی غلامی سے نکلنے میں توجہ دی جائے تو جلدی میں آٹے کو خمیر دیجئے بغیر کھلایا تھا (خرود ۱۲: ۳۳، ۱۳: ۳۳) یہ عیید اسی واقعہ کی یاد میں منائی جاتی تھی جس میں خمیری روٹی کھانا مندرج تھا خروج ۱۲: ۳۳ بعد میں یہودیوں نے اس عیید کو عیید فصح رد کیجئے (۱۲: ۳۳) کے ساتھ ضم کر دیا ۱۲ تھی تلہ عیید خیام ^{TAHER NACLES} ایک تھوار تھا جو ۵ اکتوبر سے شاندار منایا جاتا تھا احمد ۲۲: ۳۳، ۲۲: ۳۳ میں کئی قرآنیاں کی جاتی تھیں جن کی تفصیل گنتی ۱۲، ۲۲ تا ۲۳ مذکور ہے، بعد میں اس عیید کے ساتھ اور بہت سے دلچسپیاں مثلاً چراگاں اور رقص مرود مل گئے، بیان تک کہ یہودیوں کی پڑی لطف نرین عیید بن گئی، یہ عیید دراصل اس واقعہ کی یاد میں منائی جاتی ہے، کہ بھی اسرائیل کو ایک عرصہ تک بیابانوں میں گھومنے کے بعد اس دن خیمے نصب ہوئے تھے۔

دو تاکہ تھاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لار پا سخا تو میں
نے ان کو سائبان میں طکایا تھا،

جس کی تصریح سفر اجبار کے باب ۲۳ میں ہے، اور اکثر مقامات پر تعظیم سنت کی علت
یوں بتائی گئی ہے کہ :-

”کیونکہ خداوند نے پچھے دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں
ہے بنایا اور سانوں دن آرام گیا،“

ختنه کا حکم ایسا ہیم علیہ السلام کی شریعت میں ختنہ کا حکم دوامی تھا، جس
کی تصریح پیدائش باب، میں موجود ہے، اسی لئے یہ حکم اسماعیل اور رحمت
وسیں مثال کی اولاد میں باقی رہا، اور شریعت موسوی میں بھی باقی رہا، چنانچہ
سفر اجبار کے باب ۲۱ آیت ۳ میں ہے کہ :-

”اوہ آٹھویں دن لاطئے کا ختنہ کیا جائے“

خود عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ختنہ کی گئی، جس کی تصریح ایخیل لوقا کے باب ۲ آیت ۲۱ میں موجود ہے، میا یوں میں آج تک ایک مخصوص نماز ہے، جس کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ختنہ کے دن بطور
یہ آنکہ راکرتے ہیں، اور یہ حکم عیسیٰ علیہ السلام کے عروج تک باقی رہا، منسوخ نہیں ہوا تھا
 بلکہ حماریوں نے اس حکم کو اپنے زمانہ میں منسوخ کیا، اسی کی وجہ پر اسی وضاحت اعمال المحواریں
باب ۱۳ میں موجود ہے، اور مثال ۱۳ میں آنے والی ہے، مذکور پوس اس حکم کی منسوخی
کی یہی تکیید کرتا ہے، گلبتیوں کے نام خط کے باب میں لکھتا ہے کہ :

”ذی ذیل پوس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو سیع سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، بلکہ میں

ہر ایک ختنہ کرنے والے شخص پر پھرگو ہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض

ہے، تم جو شریعت کے دستیلہ سے راست باز پھرنا چاہتے ہو سیع عن میں ایک ہو گئے، اور

لئے آیت ۲۳، ۲۵ دیکھئے خود ج ۲۰: ۱۱

تھے ”تمھارے ہاں پشت در پشت ہر روز کے کا ختنہ جب وہ آٹھ روڑ کا ہو کیا جائے“ (بدر: ۱۲)

یہ ”جب آٹھ دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا دقت آیا المز“ (۲۱: ۲)

فضل سے محروم، کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی آمید پر آنے کے منتظر ہیں، اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ کچھ کام کا ہے نہ نامختونی، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر برداشت ہے، (آیات ۱۷-۱۸)

اور اسی خط کے باب ۶ آیت ۱۵ میں ہے کہ :

”کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ نامختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا“

ذبح کے احکام	موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ذبح کے بہت سے احکام تھے اور داعیٰ تھے، جو سب کے سب شریعت عیسیٰ میں منسوخ کر دیئے گیا رہوں مثال
--------------	---

سردار کا ہن کے احکام	بہت سے احکام جو خاندانِ آرون کے ساتھ مخصوص تھے، مثلاً کہانت اور خدمت کے وقت کا لباس وغیرہ سب ابدی اور دادمی تھے، جو شریعت عیسیٰ میں منسوخ فراز کی
----------------------	---

توریت کے سب احکام منسوخ	حواریوں نے کامل مشورہ کے بعد توریت نے جملہ عملی احکام منسوخ کر دیئے سوائے چار احکام کے، یعنی بُت کا ذبحیشہ، خون،
-------------------------	--

تیر ہوں مثال	گلا گھوٹا ہوا جانور، زنا، ان چاروں کی حرمت باقی رکھی، اس سلسلہ میں تمام گروں کو ہدایت دے دی گئیں جو کتاب اعمال کے باب ۱۵ میں منقول ہیں اور اس کی بعض آیات یہ ہیں :- ”پونکہ ہم نے سُنابے کے بعض نے ہم میں سے جن کو ہم نے حکم نہ دیا تھا وہاں جا کر تمہیں اپنی باتوں سے گھبرا دیا اور تمہارے دلوں کو ٹلٹ دیا، (یہ کہہ کر کہ تم پر ختنہ کرنا واجب ہے، اور ناموس کی حفاظت ہڑوڑی ہے)“ (آیت ۲۳)
--------------	--

چند سطروں کے بعد ہے :-

وہ کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سواتم پر اور بوجھ لہ انہار الحق اور قدیم عربی دانگریزی ترجوں میں ایسا ہی ہے، مگر جدیدار دا اور دانگریزی ترجوں میں قویں کی عبارت حذف کر دی گئی ہے، پہ شاید تحریف حصی کی تازہ ترین مثال ہے ۱۲ ترقی،
--

نہ ڈالیں کہ تم بتوں کی فسر بائیوں کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جاتنوں
اور حرام کاری سے پر ہیز کرو، اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت
رجو گے، وسلام ۲۸ آیت (۲۹ تا ۲۸)

اور ان چاروں چیزوں کی حرمت بھی صرف اس لئے باقی رکھی گئی کہ وہ نو مرید یہودی جو
ابھی ابھی عیسائی ہوئے تھے بالکل متنفر نہ ہو جائیں، جو توریت کے احکام اور اس کے
طریقوں کو اب بھی محظوظ جانتے تھے، پھر جب کچھ عرصہ کے بعد پولس نے یہ اطمینان
کر لیا کہ اب یہ رعایت ضروری نہیں ہے، تو پہلے تین احکام کو بھی اسی عام اباحت کے
فتاویٰ کے ذریعہ منسوخ کر دیا، جس کا ذکر مثال نمبرے میں گذر چکا ہے، اور جسیں پر تمام
پر و ٹھست لوگوں کا اجماع ہے، اب توریت کے عملی احکام میں سے زنا کی حرمت
کے علاوہ کوئی اور حکم باقی نہیں رہا، اور چونکہ شریعت عیسیٰ میں زنا کے لئے کوئی شرعی
مزراً مقرر نہیں کی گئی ہے، اس لئے عملیاً یہ بھی منسوخ ہی ہو گیا نیجہ نیجہ شریعت عیسیٰ
کے ذریعہ ان تمام عملی احکام کا نسخ مکمل ہو گیا، جو شریعت میں چلے آرہے تھے، خواہ
وہ ابدی اور دوامی ہوں یا غیر ابدی،

توریت سے نجات [غلیتوں کے نام خط بابت آیت ۲۰ میں پولس کہتا ہے کہ:-]
پودھوں مثال ”میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا، بلکہ
مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جواب جسم میں زندگی گذارتا

ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گذارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی ہے
اور اپنے آپ کو میرے لئے موت کے حوالے کر دیا، میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں
کرتا، کیونکہ راستبازی اگر شریعت کے وسیلے سے ملتی تو مسیح کا منزاعت ہوتا“ ڈاکٹر ہمند آیت ۲۰ کی شرح میں کہتا ہے کہ:-

”میرے لئے اپنی جان دے کر مجھ کو موسیٰ علی شریعت سے رہائی بخشی“
اور آیت ۲۱ کی شرح کرنے ہوئے کہتا ہے کہ:-

”له شریعت سے مراد یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یعنی توریت ہے جیسے کہ عربی ترجیوں سے معلوم ہوتا ہے“ ترقی

”اس نے اس آنادی کو اسی لئے اختیار کیا، اور مجھ کو بخات کے معاملہ میں مومنی کی شریعت پر کوئی اعتماد نہیں ہے اور میں مومنی کے احکام کو ضروری نہیں سمجھتا، لیکن کہ یہ چیزیں انجیل کو بنے فائزہ بنانے والی ہے“

ڈاکٹر ڈوٹ بی آبیت ۲۱ کی شرح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

”اور اگر ایسا ہوتا تو بخات کو موت کے ذریعہ خریدنا ضروری نہ ہوتا، اور نہ الیسی موت میں کوئی خوبی ہو سکتی ہے؟“

اور یا میں کہتا ہے کہ:-

”اگر یہودیوں کی شریعت ہے، تو یہ ہماری بخات کا عوض ہے تو پھر میشیح کی موت اس کے لئے کافی نہ ہوگی؛ یہ تمام اقوال اس امر کی شہادت دے رہے ہیں کہ مومنی کی شریعت مکمل طور پر منسون ہو چکی ہے تو ریت پر عمل کرنے والا لعنتی“

اسی خط کے باست میں کہا گیا ہے کہ:-

”جتنے شریعت کے اعلیٰ پر تکمیل کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔“ ”شریعت کے

دستیل سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا۔“

”شریعت کو ایمان سے کچھ داسطہ نہیں کیا۔“ مسیح جو ہمارے لئے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مولیے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔

لارڈ اپنی تفسیر کی جلد ۹ کے صفحہ ۳۸ میں ان آیات کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ:-

”خیال یہ ہے کہ اس موقع پر حواری کا مقصد یہی ہے جس کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں، یعنی شریعت منسون ہو چکی ہے، یا کم از کم مسیح کی موت اور ان کے سولی پانے کی وجہ سے بیکار ہو گئی ہے۔“ پھر اسی جلد کے صفحہ ۳۸ پر کہتا ہے کہ:-

”حواری نے اس موقع پر صاف واضح کر دیا ہے کہ عینی ہی موت کا تیتجہ شریعت کے مقررِ احکام کی منسونی ہے۔“

تورات ایمان کے آنے تک تھی اسی خط کے بابت آیت ۲۳ میں پولس کہتا ہے کہ
”د ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماحتوی میں ہماری
نیکی بانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو غاہر

سولہویں مثال

ہونے والانہما ہم اس کے پابند رہے، پس شریعت مسیح تک پہنچانے میں ہمارا استاد بھی
نکر ہم ایمان کے سبب سے راستباز ہوئے، مگر جب ایمان آپ کا تو ہم اُستاد کے ماتحت
نہ رہے“ (آیت ۲۳ تا ۲۵)

اس میں مقدس پولس صاف کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ پر ایمان لانے کے بعد اب توریت کے
احکام کی اطاعت ضروری نہیں ہے، ڈی آئٹی اور رچرڈ منٹ کی تفسیر میں دین اتنا ہے
”ہو پ کا قول یوں نقل کیا گیا ہے کہ:-

”شریعت کے طریقہ، عیسیٰ ہم کی موت اور انجیل کے شائع ہونے پر منسوخ ہو گئے“

ستہارہویں مثال ”اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی دہ شریعت جس
کے حکم مخالفوں کے طور پر تھے موقوف کر دی“

شریعت کا بد لانا ضروری ہے عیرانیوں کے نام خط کے بابت آیت ۱۲ میں ہے:-
”او رجب کپانت بد لگئی تو شریعت کا
اٹھارہویں مثال بھی بد لانا ضروری ہے“

اس آیت میں امامت کے تبدل اور شریعت کے تبدل میں لزوم ثابت کیا گیا
ہے۔ اس تلازم کے پیش نظر اگر مسلمان بھی شریعت عیسیٰ کو منسوخ مانیں تو ان کی
یہ بات درست ہو گی نہ کر غلط، ڈی آئٹی اور رچرڈ منٹ کی تفسیر میں اس آیت کی شرح
کے ذیل میں ڈاکٹر میکنائٹ کا قول یوں نقل کیا گیا ہے کہ:-

”ذیحون اور طہارت وغیرہ کے احکام کی نسبت شریعت یقیناً تبدیل ہو چکی ہے،
یعنی منسوخ ہو چکی ہے،“

آنپیسویں مثال بابت مذکور کی آیت ۱۸ میں یوں کہا گیا ہے کہ:-

”عرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا۔“
اس آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ توریت کے احکام کی منسوخی کا سبب یہ ہے کہ وہ کمزور اور بے فائدہ ہو گئے تھے :

پندری و اسکاٹ کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ :-

”شریعت اور کہانت جن سے تکمیل حاصل نہیں ہوتی تھی منسوخ کر دی گئیں ، اور جدید کا پن اور عفو کھڑے ہوئے جن سے تپوں کی تکمیل ہوئی۔“

تورات ناقص اور فرسودہ تھی [عبرانیوں کے نام خط کے بابت آیت] میں پوس رقطراز ہے :-
بلیسوں مثال

”و یونانکہ لگ پہلا عہد یہ نقش ہوتا تو

دوسرے کے لئے موقع نہ ڈھونڈا جاتا یا“

پھر آیت ۱۲ میں لکھتا ہے :-

”جب اُس نے نیا عہد کیا تو پہلے کو پرانا تھہرا یا ، اور جو چیز پڑا فی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ ملنے کے قریب ہوتی ہے۔“

اس قول میں اس امر کی تصریح کی جاتی ہے کہ توریت کے احکام عیب دار ہیں اور فرسودہ ہونے کی وجہ سے منسوخ ہونے کے لائق ہیں ، ڈی آنگی اور رچرڈ منٹ کی تفسیر میں آیت ۱۳ کی شرح کے ذیل میں یا ایل کا قول یوں نقل کیا گیا ہے کہ :-

”یہ بات خوب اچھی طرح صاف اور واضح ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ پرانے اور ناقص کو جدید اور عمدہ پیغام کے ذریعہ منسوخ کر دے ، اس لئے یہودی مذہب کو مسیح کرتا ہے اور عیسوی مذہب کو اس کے فائم مقام بناتا ہے۔“

بلیسوں مثال [عبرانیوں کے نام خط کے بابت آیت ۹ میں ہے کہ :-

”عرض دہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔“

”عفو“ تمام شخصوں میں الیاہی ہے ، اس کا مطلب ہیں نہیں سمجھ سکا ، انگریزی مترجم نے بھی یہاں عفو کا لفظی ترجمہ ARDON کر دیا ہے ، کوئی تصریح نہیں کی ۱۲ ملک پہلے عہد سے مراد بالاتفاق تورات اور نئے عہد سے مراد نہیں ہے ، تھی

ڈی آئی اور رچرڈ منٹ کی تفسیر میں آیت ۹۰۸ کی تشریح کے ذیل میں یا یہ کا قول ہوں
نقل کیا گیا ہے کہ :-

”خواری نے ان دونوں آیتوں میں استدلال کیا ہے اور اس کا اظہار کیا ہے کہ
یہودیوں کے ذبیحے ناکافی ہیں، اسی لئے مسیح نے اپنے اوپر موت کو گوارا کیا، تاکہ اس
کی کمی کی تلافی کر دے، اور ایسکے فعل سے دوسرے کا استعمال منسوخ کر دیا۔“

ہر ما شعور انسان مذکورہ مثالوں سے مندرجہ ذیل نتائج برآمد کرے گا :

۱ — کسی آنے والی شریعت میں بعض احکام ممنسوخ ہونا مسلمانوں
کی شریعت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ایسا گز ششہ شریعتموں میں
بھی ہوتا رہا ہے،

۲ — شریعت عیسیٰ کے تمام احکام خواہ وہ ابدی اور دوامی ہوں، یا غیر ابدی
شریعت عیسیٰ میں سب ممنسوخ ہو گئے ہیں،

۳ — توریت اور اس کے احکام کی نسبت مقدس پولس کے کلام میں بھی نسخ
کا لفظ موجود ہے۔

۴ — مقدس پولس نے امامت کی تبدیلی اور شریعت کی تبدیلی میں تلازم
ثابت کیا ہے،

۵ — مقدس پولس کا یہ بھی دھوکی ہے کہ پربراہی بوسیدہ چیز ملنے والی ہے۔
اب ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ شریعت عیسیٰ شریعت محمدی کے مقابلہ میں پرانی ہے اس
لئے اس کا ممنسوخ ہونا کوئی مستبعد نہیں ہے، بلکہ چوتھے تینجہ کے ماتحت ضروری
ہے، جیسا کہ مثال نمبر ۱۸ میں معلوم ہو چکا ہے،

مقدس پولس اور عیسائی مفسرین نے توریت اور اس کے احکام کی نسبت اس
اعتراف کے باوجود کہ وہ اللہ کا حکم ہے، نہایت نامناسب اور ناپسندیدہ الفاظ
لئے عبرانیوں کے مطلب بھی ہے کہ کامن یا امام کی تبدیلی سے شرعی قوانین کی تبدیلی

بھی ضروری ہے ۱۲ ت

استعمال کئے ہیں۔

ساتواں نتیجہ ہمارے اصطلاحی معنی کے لحاظ سے توریت کے احکام کے منسوخ نظری کی گئی ہے کہ وہ دائمی ہیں، یا یہ کہ ان کی رعایت نسل بعد نسل ضروری ہے ان میں ضرور اشکال واقع ہوتا ہے لیکن یہ اعتراض ہم پر اس لئے نہیں پڑتا کہ اول تو ہم موجودہ توریت کو خدا کی نازل کردہ یا موسیٰ علیؑ کی تصنیف توریت تسلیم نہیں کرتے جیسا کہ باب اول میں بتایا جا چکا ہے،

دوسرے یہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ یہ تحریف سے محفوظ رہی ہے، جیسا کہ باب ایڈ میں اس دعوے کو دلائل سے مدلل کیا جا چکا ہے،

پھر تیسرا الزامی صورت پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداۓ تعالیٰ کو اپنے کسی حکم یا فعل کی نسبت "بداء" اور ندامت واقع ہوتی ہے، اس لئے اس لے رجوع کر لیتا ہے، اسی طرح کوئی دائمی وعدہ کرتا ہے پھر اس کے خلاف کر لیتا ہے، یہ بات ہم لوگ صرف الزامی طور پر سمجھتے ہیں، اس لئے کہ ہبہ دینیت کی کتابوں کے بعض مقامات سے یہی شہادت ہوتا ہے جیسا کہ غفریب معلوم ہو جائے گا، در نہ ہم اور تمام اہل سنت اس گندے اور

لہ یعنی کسی حکم کے بدلے میں یہ اعلان کہ اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، تاہم اس لئے مگر زمانوں اور حالات کی تبدیلی کی بناء پر احکام و قوانین میں تبدیلی کر دینا ایسی معقول ہت ہے کہ اس پر کوئی شہید نہیں کیا جاسکتا اور اس حقیقت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تاہم جب موجودہ توریت ہی مشکوک ہے تو ظاہر ہو رہے کہ جن احکام کو اس میں دائمی اور ابدی قرار دیا گیا ہے، ضروری نہیں کہ وہ دائمی دائمی اور ابدی ہوں، بلکہ یعنی ممکن ہے کہ انہیں دائمی قرار دینا بھی کسی کے "ذوق تحریف" ہی کا نتیجہ ہو، تقیٰ علیؑ بداء عربی زبان میں اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے ذہن میں پہلے کوئی رائے رہی ہو، بعد میں اچانک اس پر اس کی فلسفی واضح ہو جائے، اور وہ نئی رائے قائم کر لے ۱۲۵۹ آگے دو مثالیں آہری ہیں جن سے معلوم ہو گا کہ باطل کی رو سے خطا پہچنا بھی سکتا ہے، اور وعدہ خلافی بھی کر سکتا ہے (مبیناۃ و تعلیل عما یصیغون) توجہ باطل کا یہ عقیدہ ہے تو انہیں نسخ کے تسلیم کرنے میں کیوں اشکال ہوتا ہے؟

تجیدت عقیدہ سے پیزار اور بری ہیں،

المتن یہ اشکال ان عیسائیوں پر لازمی طور سے پڑتا ہے جو اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ یہ توریت خدا کی کتاب اور موسیٰ علی کی تصنیف ہیں، اور اس میں تحریف بھی کسی قسم کی نہیں ہوئی ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ "بداء" اور ندامت دونوں عیوب خدا کی شان میں محال ہیں۔

اور یہ لوگ ان الفاظ کی جوتاویں لٹھ کرتے ہیں وہ انصاف سے بعید اور بہت ہی رکیک ہے، کیونکہ ان الفاظ کی مراد ہر شے میں اس معنی کے لحاظ سے ہو گی جو اس کے مناسب ہیں، مثلاً جب ہم کسی خاص شخص کی نسبت یہ کہیں کہ وہ ہمیشہ الیار ہے گا تو اس "ہمیشہ" کے الفاظ سے مراد اس جگہ..... اس کی زندگی کے آخر تک کی مت ہو گی، کیونکہ ہم کو یقینی اور واضح طور پر معلوم ہے کہ یہ شخص دنیا کے خاتمه اور قیامت تک زندہ نہیں رہے گا، مگر جب یہ الفاظ کسی بڑی قوم کے لئے استعمال کئے جائیں جو فناۓ عالم تک باقی رہ سکتی ہے (اگرچہ اس کے افراد نسل بعد نسل پر بنتے چلے جائیں) اور یہ کہا جائے کہ یہ لوگ ہمیشہ الیا ہی کریں گے، تو اس کی ہمیشگی سے مراد بلاشبہ فناۓ عالم اور قیامت تک کا زمانہ مراد ہو گا، اس لئے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا بہت ہی مستبعد ہے، اس لئے عمار یہوداگھے بھی اور پچھلے بھی اس تاویل کو مستبعد قرار دیتے ہیں، اور ان کو گمراہ اور بے راہ کہتے ہیں،

سخن کی دوسری قسم

پہلی مثال خدا نے ابراہیم کو اسحق کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، پھر اس حکم کو عمل

لئے یعنی جن الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تورات کے احکام ابدی ہیں، ان کے بارے میں مثلاً یہ کہتے ہیں کہ اس میں "ہمیشہ" سے مراد قیام قیامت تک کا زمانہ نہیں، بلکہ عہدہ قدیم کی انتہاء تک کا زمانہ ہے ۱۲ تھیں اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ توریت میں کئی مقامات پر "ہمیشہ" کے لئے نسل بعد نسل کے الفاظ بھی مذکور ہیں، مثلاً پیدائش، ۱۲: ۱۲، خروج ۱۲: ۱۲، تقیؑ سے حاشیہ ۱۲: آئندہ صفحہ پر ہے

میں آنے سے قبل منسوخ کر دیا، جس کی تصریح کتاب پیدائش بابت میں موجود ہے،
کتاب سموئیل اول بابت آیت ۳۰۔

کہانت کا وعدہ منسوخ، دوسری مثال میں ایک بنی کاتولیکا ہٹھ کے
حق میں یوں نقل کیا گیا ہے کہ:-

”خداوند! اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھر انا اور تیرے باپ کا
گھر انا ہمیشہ میرے حضور پر چلے گا، پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ
وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحریر کرتے ہیں بے قدر
ہوں گے۔“

پھر آیت ۳۳ میں ہے کہ:

”اور میں اپنے لئے ایک وفادار کا ہن بر پا کروں گا“

دیکھئے کہ خدا کا وعدہ سخا کہ کہانت کا منصب ہمیشہ عیلیٰ کا ہن اور اس کے باپ کے
گھرانے میں رہے گا، پھر اس کے خلاف کر کے اس کو منسوخ کر دیا، اور اس کی جگہ دوسری کا ہن
مقسر کر دیا، ڈی آئی اور رچرد منت کی تفسیر میں فاضل یا ترک کا قول یوں نقل گیا ہے:-
”خدا بنے اس جگہ اس حکم کو منسوخ کر دیا، جس کا وعدہ اور اقرار کیا تھا کہ کاپنوں کا
سردار ہمیشہ تم میں سے ہو گا، اور یہ کامنصب ہاردن ہو کے بڑے لڑکے عازماً کو
کوڈ سے دیا، پھر ہاردن کے چھوٹے لڑکے تمر کو عطا کیا، عیلیٰ کا ہن کے رٹکوں کے گناہ

رگز شریعت صفحہ کا حاشیہ) ۳۷ہ یعنی ایک ہی شریعت میں سابقہ حکم کو منسوخ کر دینا ۱۲ ت

۳۸ عیلیٰ کا ہن THE PRIEST ۱۷۱۶ء بنی اسرائیل کے قدیم کاپنوں اور فاصلیوں میں سے ایک ہیں جنہوں
نے حضرت سموئیل ملیہ الاسلام کی پر درش کی، پائیل کے مطابق ان سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ ”کا ہن“
کا عہدہ اُن کے گھرانے میں رہے گا، مگر ان کے بیٹوں کی بیہودگیوں کی بناء پر ارشد نے یہ عہدہ اُن کے بعد
اُن کے خاندان سے ختم کر دیا را۔ سموئیل، بابت اد ۳۳)

۳۹ تمام نسخوں میں ایسا ہی ہے، لیکن ہمارے پاس بائیل کے نسخوں میں یہ آیت ۳۳ نہیں ہے،
غالباً یہاں کتابت کی غلطی ہوئی ہے ۱۲ ت

کے سبب یہ عہدہ عازار کا ہن کی اولاد کی طرف منتقل ہو گیا۔

گویا اس طرح جب تک موئی عکی شریعت باقی رہی خدا کے وعدہ میں دوبارہ خلاف درزی ہوئی، پھر شریعت عیسوی کے ظہور کے وقت تیسری مرتبہ خلاف درزی ہوئی اور اس نے اس منصب کا کوئی نشان..... عازار کی اولاد میں باقی سچھوڑا اور شتر کی اولاد میں وہ وعدہ جو عازار کے ساتھ کیا گیا تھا اس کی کتاب گنتی باب ۲۵ میں یوں کی گئی ہے کہ :-

”میں نے اس سے اپنا مسلح کا عہد باندھا اور وہ اس کے لئے اور اس کے بعد اسکی نسل کے لئے کہانت کا داشتی عہد ہو گا۔“

بائبل کی رو سے خدا پچھتا تا ہے | اہل کتاب کے مذاق کے مطابق خدا کی وعدہ خلافی پر ناظرین کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ عہدہ عینیک کی کتاب میں اس وعدہ خلافی کی شہادت دے رہی ہیں، اور اس امر کی صحیحی کہ خدائے تعالیٰ ایک کام کرنے کے بعد پھر پچھتا تا اور نادم ہوتا ہے، زبور نمبر ۸۸ یا ۸۹ (اختلاف تراجم کی بناء پر) کی آیت ۳۹ میں داؤد علیہ السلام کا قول خدا کو خطاب کرتے ہوئے یوں نقل کیا گیا ہے کہ :

”تو نے اپنے خادم کے عہد کو رد کر دیا، تو نے اس کے تاج کو خاک میں ملا دیا۔“
اور کتاب پیدائش بابت آیت ۶ میں ہے کہ :-

”تب خداوند میں پر انسان کو پیدا کرنے سے ملوں ہوا، اور دل میں غم کیا اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا دیں گا، انسان سے لیکر حیوان اور رینگنے والے جانور اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملوں ہوں۔“ (آیات ۶، ۷)

آیت نمبر ۶ اور قول کہ ”میں ان کے بنانے سے ملوں ہوں“ دونوں اس امر پر پلالت کرتے ہیں کہ خدا کو انسان کے پیدا کرنے پر نلامت اور افسوس ہوا، زبور نمبر ۱۰ آیت ۳ میں یوں ہے کہ :-

” تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی، اور اس نے ان کے حق میں اپنے ہدود کو یاد کیا، اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق نادم ہوا ۔ ۔ ۔ ”

کتاب سموئیل اول کے باب ۱۵ آیت ۱۱ میں خدا کا قول یوں بیان ہوا ہے کہ :-

” مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لئے مقرر کیا، کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا ہے، اور اس نے میرے حکم نہیں مانے ۔ ۔ ۔ ”

چھراںی باب کی آیت نمبر ۳۵ میں یوں ہے کہ :-

” سموئیل ساؤل کے لئے غم کھاتا رہا اور خداوند ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملوں ہوا ۔ ۔ ۔ ”

اس موقع پر ایک خدا شہ اور بھی ہے جس کو ہم فقط الزامی طور پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جب انسان کے پیدا کرنے اور ساؤل کے بادشاہ بنانے پر خدا کا شرمندہ اور نادم ہونا ثابت ہے تو ہو سکتا ہے کہ مسیح کے خدائی کا دعویٰ کرنے پر خدا کو مسیح کے بھیجنے اور رسول بنانے پر افسوس اور ندامت ہوئی ہے، اس لئے کہ ایک حادث انسان کے خدائی کا دعویٰ کرنے پر کا جرم ساؤل کے نافرمانی کے مقابلہ میں بہت بڑا اور سنگین ہے، اور جس طرح خدا کو (معاذ اللہ) معلوم نہیں تھا کہ ساؤل بادشاہ بننے کے بعد نافرمانی کرے گا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مسیح کے متعلق بھی خدا کو معلوم نہ ہو کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھیں گے یہ بات صرف الزامی طور پر کہی گئی ہے، کیونکہ ہم خدا کے فضل سے خدا کی ندامت کے یا عینی

لئے ”نادم ہوا“ یہ فقط انہار الحنفی میں عربی ترجمہ مطبوعہ شائع اور انگریزی ترجمہ قدیم کے مطابق لکھا ہے، عربی کی عبارت یہ ہے وندم حسب کثرۃ رحمۃت اور انگریزی الفاظ یہ ہیں :-

لیکن موجودہ اردو ترجموں میں اُسے یوں بدلتا گیا ہے :- ” اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھایا ۔ ۔ ۔ یہ شاید تحریف تبدیل کی تازہ مثال ہے ۱۲ نقی ۱۲ یہ موجودہ اردو ترجمہ کی عبارت ہے، مصنف نے جس ترجمہ سے نقل کیا ہے اس کے الفاظ ”ندمت المخ“، یہ جس کے معنی ہیں ” مجھے شرمندگی ہے “

کے دعویٰ خدائی کے ہر گز قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے عقیدہ میں خدائی کا میدان اور سیعی
کی بتوت کامیدان ان کدوں توں اور گندگیوں کے خس و غاشاں سے صاف ہے۔

السان کی نجاست سے روٹی پکانے کا حکم

کتاب حزقيل ایل باب آیت ۱۲ میں ہے:-
”اور تیر کھانا وزن کر کے بیس شفاف عنانہ
پہنچا جو تو کھائے گا“

مثال نمبر ۳

آیت نمبر ۱۲ میں ہے :-

”اور توجہ کے پھلے کھانا اور نوان کی آنکھوں کے سامنے انسان کی نجاست سے اُس کو پکانا“
پھر آیت ۱۳ میں ہے کہ :-

”تب میں نے کہا کہ ہائے خداوند خدا، دیکھ میری جان کبھی ناپاک نہیں ہوئی، اور اپنی جوانی
سے اب تک کوئی مردار چیز جو آپ ہی مر جائے۔ یا کسی جانور سے چھڑای جائے میں نے ہرگز نہیں
کھائی۔ اور حرام گوشت میرے منہ میں کبھی نہیں گی، تب اُس نے مجھ سے فرمایا دیکھ! میں انسان
کی نجاست کے عوض تجھ کو گور دیتا ہوں، سو تو اپنی روٹی اس سے پکانا“ (۱۳: ۱۵) ر آیات

گویا پہلے خدا نے انسانی پاخانہ میں روٹی کو لیتھڑنے کا حکم دیا تھا، پھر جب حزقيال
علیہ السلام نے بہت گریہ وزاری کی تو اس حکیم پر عمل ہونے سے پہلے ہی اس کو منسوخ
کروایا، اور یہ کہا کہ میں نے انسانی پاخانہ کی بجائے تجھے گور دے دیا ہے،

کتاب احبار باب آیت ۳ میں ہے کہ :-

”اسرائیل کے لھرنے کا جو کوئی شخص ہیل یا تڑہ یا بڑے
مقام کی تعیین کا مثال نمبر ۳

جانور ذبح کرنے کیلئے خاص

خیمه اجتماع کے در دارہ پر خداوند کے مسکن کے آگے خداوند کے حضور چڑھانے کو نہ لے
جائے، اس شخص پر خون کا الزام ہو گا کہ اس نے خون کیا ہے۔ اور وہ شخص اپنے لوگوں
میں سے کاثڈا لاجائے (آیات ۳: ۳)

اس کے برخلاف کتاب استثناء باب ۱۲ آیت ۱۵ میں ہے کہ :-

”لہ یہ موجودہ اردو ترجیح کی عبارت ہے، اطہارالحق میں جس عربی ترجیح سے نقل کیا گیا ہے اس کے الفاظ ہیں“ انسال

سے نکلنے والی نجاست سے اُسے نتیجہ نہیں“ ۳۷ خیمه اجتماع صفر مستقبل پر ہے۔

”پھر گوشت کو تو اپنے سب پھانکوں کے اندر اپنے دل کی رغبت اور خداوند اپنے خدا کی دی ہوئی برکت کے موافق ذبح کر کے کھا سکے گا۔“

آگے آیت ۲۰ میں ہے کہ :-

”وَجَبَ خَدَاوَنْدِ تِيرَاخْدَا اس وَعْدَهُ كَمَطَابِقِ جَوَّاسٍ نَّتَجَهَّسَ كَيْا ہے تِيرِي حَسَدِ كَوْ
بَلَّ حَلَّهُ اور تِيرِاجِي گوشت کھانے کو کرے اور تو ہکنے لگے کہ میں تو گوشت کھاؤں
گا تو تو جیسا تیرا جی چاہے گوشت کھا سکتا ہے، اور اگر دُجَّہ جسے خداوند نے اپنے
نَامَ کو دِہَانِ قَائِمَ کرنے کے لئے چُنَا ہو تیرے مکان سے بہت دور ہو تو تو اپنی گائے بیل
اور بھیڑ بھری میں سے جن کو خداوند نے تجھ کو دیا ہے کسی کو ذبح کر لینا اور جیسا
میں نے تجھ کو حکم دیا ہے تو اس کے گوشت کو اپنے دل کی رغبت کے مطابق اپنے
پھانکوں کے اندر کھانا بھیسے چکارے اور پرِن کو کھاتے ہیں ویسے ہی فرائے کھانا،
پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی اُسے یکسان کھا سکیں گے؟“ (آیات ۲۰-۲۳ تا ۲۴)

اس میں کتاب احبار کے حکم کو سفر استثناء کے حکم سے منسوخ کر دیا گیا، ہورن اپنی تفسیر کی جلد صفحہ ۲۱۹ میں ان آیات کو نقل کرنے کے بعد یوں کہتا ہے کہ :-

”بظاہر ان دونوں مقامات میں تعارض ہے، مگر جب یہ دیکھا جائے کہ شریعت موسویہ میں بھی اسرائیل کے حالات کے مطابق کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، اور وہ الیسی شریعت نہیں تھی کہ جس میں تبدیلی ممکن نہ ہو تو پھر تو یہ بہت آسان ہے“

پھر کہتا ہے کہ :-

”مومنیؑ نے ہجرت کے چالیسویں سال فلسطین کے داخلہ سے پہلے اس حکم کو سفر استثناء کے حکم سے صاف اور صریح طور پر منسوخ کر کے یہ حکم دیا تھا کہ فلسطین میں داخل ہونے کے بعد ان کے لئے جائز ہو گا کہ جس جگہ چاہیں گائے بھری ذبح کر دیں، اور کھائیں؟“

لہ مصر سے نکلنے کے بعد بھی اسرائیل کو خانہ بدشی کی زندگی میں خدا کی طرف سے ایک خیرہ بنانے کا حکم دیا گیا تھا، جو ایک نشیتی عبادت گاہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس وقت اُسے وہی اہمیت حاصل تھی جو بعد میں بیت المقدس کو ہوئی، اسی خیرہ کو بنانے اور قائم کرنے کے تفصیلی احکام کے لئے ملاحظہ ہو

غرض یہ مفسر فتح نا اعتراف کرتا ہے اور اس کا بھی کہ مشریعیت موسویہ میں بنی اسرائیل کے حالات کے لحاظ سے کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، تو پھر اہل کتاب پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسری مشریعیت کے اوپر اس قسم کی کمی بیشی پر اعتماد کس لئے کرتے ہیں اور یہ کیوں ہوتے ہیں کہ یہ خدا کے جاہل ہونے کو مستلزم ہے،

خیمہ اجتماع کے خرداں
کی تعداد مثال نمبر ۵
لئے ۱۹۴۷ سے ۱۹۷۸ سے اندھنہ ہوتا ہے

اور اسی کتاب کے باب کی آیات نمبر ۲۳، ۲۵، ۲۷ میں یہ لکھا ہے کہ :-

- سفرِ جبار بابگ میں ہے کہ :-

در جماعت کا کفارہ ایک بیش ہے؟

اور کتاب گنتی کے بات ۱۵ میں ہے کہ :-

اجتماعی خطہ کا گفارہ

مشال نمبر ۶

”اُس دیل کیا تھے... اس کی نذر کی قربانی اور نپاؤں بھی چڑھلئے اور خطاکی قربانی کے لئے ایک بچرگانہ رانے“

اس طرح پر لاحقہ منسون خ ہو گیا۔

مثال نمبرے المکاب پیدائش بابت سے خدا کا حکم یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوع کی کشتی میں ہر جنس کے دودو جانور داخل کئے جائیں، پرندے ہوں خواہ چار پائے اور بابت سے معلوم ہوتا ہے کہ پاک حلال جانور میں سے نہ ہوں یا مادہ سات سات داخل کئے جائیں، اور حرام چار پائیں اور ہر قسم کے پرندوں سے دودو۔

پھر اسی بائیک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پرچس کے دو دو داخل کئے گئے تو گویا یہ

حکم دو مرتبہ مسوخ ہوا،

حزقیاہ کی بیماری کا واقعہ

مثال نمبر ۸

کتاب سلاطین شانی باب آیت امیں ہے :-

”اہنی دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے

قریب ہو گیا، تب یسوعیاہ بنی اموس کے بیٹے نے

اس کے پاس آگر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں، تب اُس نے اپنا مذدیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرماؤ کہ میں تیرے حضور سیاحتی اور پوئے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے دہی کیا ہے، اور حزقیاہ زار زار رہا اور ایسا ہوا کہ یسوعیاہ نسل کر شہر کے پیغمبر کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اُس پر نازل ہوا، کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوای حزقیاہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤڈ کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا و صنی، اور میں نے تیرے آنسو دیکھے، دیکھے میں تجھے شفا دوں گا، اور تیسرے دن تو خدا کے گھر میں جائے گا، اور میں تیری عمر پندرہ برس اور بڑھا دوں گا“ (آیات ۴۷)

دیکھئے اشد نے اشیاء کی زبانی حزقیاہ کو حکم دیا تھا کہ پونکہ تو منے والا ہے اس لئے اپنے گھروں کو وصیت کر دے۔ ابھی اشیاء کا حکم پہنچا کر شہر کے وسط میں بھی نہ پہنچتے کہ پسے حکم کو مسوخ کر دیا، اور ان کی زندگی میں پندرہ سال کا اضافہ کر دیا،

حوالوں کو حکم تبلیغ

مثال نمبر ۹

انجیل متی باب آیت ۵ میں یوں کہا گیا ہے کہ حواریوں کو حکم تبلیغ

”ان بارہ کو نیویو نے بھیجا، اور ان کو حکم دے کر کہا غیر قوموں

کی طرف نہ جانا، اور سامراں لوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ

اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیروں کے پاس جانا“

انجیل متی کے باب ۱۵ میں مسیحؐ کا قول خودا پنے حق میں اس طرح لکھا ہے کہ :-

”میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیروں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا“

ان آیات سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ اپنے رسولوں کو صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجا کرتا تھے

انجیل مقدس باب آیت ۵ میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ:-
”تم تمام دنیا میں جاکر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو“

لہذا پہلا حکم منسون ہو گیا ہے

توریت پر عمل کا حکم

مثال نمبر ۱

انجیل متی باب ۲۲ آیت ایں ہے کہ:-
”اس وقت یسوع ^ع نے بھیر سے اور اپنے شگدوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقیر اور فریبی موسیٰ کی گذتی پر

بٹھیے ہیں پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور ماو“

اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جو کچھ کہیں اس پر عمل کرو، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ فریبی توریت کے تمام عملی احکام کو بالخصوص دوامی احکام پر عمل کرنے کو کہتے ہیں حالانکہ وہ سب شریعت عیسوی میں منسون ہیں، جیسا کہ پہلی قسم کی مثالوں میں تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے، اس میں یہ حکم یقینی طور پر منسون ہو گیا،

علماء پر وظیفت کی حالت پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ مسلم عوام کو دھوکہ دینے کے لئے ان آیات کو اپنے رسالوں میں توریت کے نسخ کے باطل ہونے پر استدلال کرنے کے لئے نقل کرتے رہتے ہیں، اس سے لازم آتا ہے کہ یہ سب واجب القتل ہوں، کیونکہ یہ لوگ سبت کی تعظیم نہیں کرتے، حالانکہ اس کی بے تو قیری کرنے والا توریت کے حکم کے مطابق واجب القتل ہے، جسا کہ قسم اول کی مثالوں میں نمبر ۹ کے ذیل میں معلوم ہو چکا ہے،

مثال نمبر ۱۱ میں یہ بات گزرا چکی ہے کہ حواریوں نے مشورہ کے بعد چار

پولس نے ان چار میں سے سبھی تین کو منسون قرار دیا،

مثال نمبر ۱۲ انجیل لوقا باب ۹ آیت ۵۶ میں سیخ کا قول یوں بیان کیا گیا ہے کہ:-

”ابن آدم لوگوں کی جان بر باد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے“

لہ واضح رہے کہ دوسرا حکم بقول مقدس عودج آسمانی سے کچھ ہی پہلے دیا گیا ہے۔ اس لئے گرائے ناسخ قرار

دینے کے سوا چارہ نہیں، لہ ملاحظہ ہو صفحہ ۸۳۲۱ جلد ہذا، ۳۴ دیکھئے ص ۸۳، جلد ہذا،

انجیل یوحنا کے باب ۳ آیت ۱۱ اور باب ۳ آیت ۱۲ میں کبھی اسی طرح ہے، لیکن تخلیقیوں کے نام درستے خط کے باب ۳ آیت ۸ میں یوں کہا گیا ہے کہ :-

”اُس وقت وہ بے دین ظاہر ہو گا جسے خداوند یسوع اپنے شہزادے کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا：“

اس میں دوسرا قول اول کے لئے ناسخ ہے،

ان آخری چاروں مثالوں نمبر ۹ تا ۱۲ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ انجیل کے احکام میں لفظ نسخ موجود ہے، نہ کہ صرف امکان، کیونکہ مسیح نے بھی اپنے بعض احکام کو بعض سے مشوخ کر دیا، اور حواریوں نے بھی مسیح کے بعض احکام کو اپنے احکام سے مشوخ کر دیا، اور پوس نے حواریوں کے بعض احکام مشوخ کئے، بلکہ عیسیٰ کے بعض اقوال کو بھی اپنے ہکام اور اقوال سے مشوخ کر دیا،

حضرت مسیح کے قول سے استدلال غلط ہے | یہ بات بھی آپ پر روشن ہو ہو گئی ہے کہ انجیل میں باتیں بائیت ۳۵ آیت

میں ہوا انجیل لوقا باب ۳ آیت ۳ میں عیسیٰ کا جو قول نقل کیا گیا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میرا کوئی قول اور حکم مشوخ نہیں ہو سکتا، ورنہ عیساً یوں کی انجیلوں کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا، بلکہ الفاظ ”میری باتیں“ سے وہ مخصوص بات مراد ہے جس میں آپ نے آئندہ پیش آنے والے واقعات کی خبر دی ہے جو اس قول سے پہلے انجیلوں میں مذکور ہیں، اس لئے ”میری باتیں“، میں اضافت عہدی ہے نہ کہ استغراقی، یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ عیسائی مفسرین نے بھی عیسیٰ کے

لئے یہ دنیا کو مجرم ٹھہرانے پیس بلکہ نجات دینے آیا ہوں“ (یوحنا ۱۲: ۳۲)، تھے آسمان اور زمین میں جاییں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹھیں گی ॥ (لوقا ۲۱: ۳۲) تھے اس قول سے پہلے قیامت کی بعض علامتیں ذکر کی گئی ہیں، اور سانحہ ہی کہا گیا ہے کہ ”جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہیں ہو سکتی“ ۱۲ ات، تھے یعنی ”میری باتیں“ سے ہر ایک بات مراد نہیں، بلکہ چند مخصوص باتیں مراد ہیں جن کا ذکر پہلے آچکا ہے ۱۲ ات

اس قول کو ہمارے بیان کردہ معنی پر محوال کیا ہے، چنانچہ ڈی آئندی اور رچرڈ منٹ کی تفیر میں انجیل متنی کی عبارت کے ذیل میں یوں کہا گیا ہے کہ :-

”پادری بیروس کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن واقعات کی میں نے پیش گوئی کی ہے وہ یقیناً واقع ہوں گے“ ”دین اسٹائیں ہو پہنا ہے کہ ”آسمان دزین اگرچہ دوسری چیزوں کی نسبت تبدیل ہرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن ان واقعات کو آئندہ کی خبروں کے مقابلہ جن کی میں نے خبر دی ہے آسمان دزین مصبوط نہیں ہیں، پس آسمان دزین بھی سب مست سکتے، مگر میری بیان کردہ پیشینگو شیاں نہیں مست سکتیں، بلکہ جو باتیں میں نے اب کہی ہے اس کی مراد و مطلب سے ایک اپنے بھی تجاوز نہیں ہو گا؟“ اس لئے اس قول سے استدلال کرنا غلط ہے،

نسخ کی دونوں قسموں کی مثالیں معلوم بوجانے کے بعد اس امر میں اب کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے کہ مذکورہ مسیوی اور موسوی دونوں ہی میں نسخ واقع ہوا ہے، اور یہ کہ اہل کتاب کا یہ دعویٰ کہ نسخ محال ہے، غلط ہے، اور کیوں نہ ہو، جب کہ زمان و مکان اور مکلفین کے اختلاف سے مصالح بدلتی رہتی ہیں، چنانچہ بعض احکام بعض اوقات مکلفین کے مناسب ہوتے ہیں، دوسرے احکام مناسب نہیں ہوتے،

غور کیجئے کہ میتھا اپنے حواریوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں :-

”مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہیں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا“

جس کی تصریح انجیل یوحنہ باب ۱۶ میں موجود ہے،

نیز مسیح ہنے اس کوڑی سے جس کو آپ نے شفاء دی تھی یہ فرمایا کہ اس واقعہ کی کسی کو خبر مت دینا، جس کی تصریح انجیل متنی باب میں موجود ہے،

اور جن دو اندھوں کی آنکھیں آپ نے روشن کر دی تھیں ان سے یوں فرمایا کہ اس واقعہ کی اطلاع کسی کو مت کرنا، جس کی تصریح انجیل متنی باب ۹ میں موجود ہے۔

اور جس بھی کو آپ نے زندہ کیا تھا اُس کے والدین سے فرمایا کہ جو پچھہ بھیشنا یا ہے اس کی جرکسی کو مت کرنا، جس کی تصریح انگلیں لو قاباٹ میں موجود ہے، اُس کے بر عکس بھی شخص سے آپ نے یہ روحوں کو نکالا تھا اُس کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھر چاہا، اور جو پچھہ خدا نے تیرے ساخت کیا ہے اس کی خبر دوسروں کو دے، جس کی تصریح اسی باب میں ہے،

نیز قسم اول کی مثال فبراہ ۱۳ کے ذیل میں اور قسم ثانی کی مثال نمبر ۴ میں زیرِ بحث معاملے سے متعلق بہت پچھہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے، اسی طرح یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو مصر کے قیام کے دوران کافروں سے جہاد کی اجازت نہیں ملی، اور خریج مصر کے بعد جہاد فرض ہو گیا ہے



باب چہارم

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خدا تین نہیں

- مقدمہ،
- تثبیث، عقل کی کسوٹی پر،
- تثبیث، اقوال میشیع کی روشنی میں،
- تثبیث، نجیل کی کسی بھی آیت سے ثابت نہیں،

خدا تین نہیں ہو سکتے

مقدمہ

باز ۱۳ باتیں جو مقصد تک پہنچنے کیلئے سامان بصیرت ہیں

خدا کون ہے؟ پہلی بات عہد غیق کی کتابیں اس امر کی شہادت دیتی ہیں کہ اللہ اکبر اور ازلی اور ابدی ہے، جس کو موت نہیں آ سکتی، اور وہ ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے، مثل ہے، نہ ذات میں اس کے سوا کوئی مثال ہے، اور نہ صفات میں، جسم و صورت سے پاک ہے، ان کتابوں میں یہ چیز اپنی شہرت اور کثرت کی وجہ سے شواہد اور مثالوں کی محتاج نہیں ہے،

معبود وہی ہے دوسری بات اللہ کے سواد دسرے کی عبادت حرام ہے۔ اور اس کی حرمت توریثت کے اکثر مقامات میں مشلاً کتاب خرد ج بانٹ و بانٹ میں صاف صاف بیان کی گئی ہے، نیز کتاب استثناء بانٹ میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ اگر کسی نبی یا کسی مدعی الہام نے خواب میں غیر اللہ کی عبادت کی

دعوت دی، تو لیسے داعی کو خواہ وہ کتنے ہی بڑے میحرانات کیوں نہیں رکھتا ہو فتنل کیا جائے گا، اس طرح اگر کوئی شخص کسی عزیز یادوست کو اس فعل کی ترغیب دے گا تو لیسے شخص کو سنگار کر دیا جائے گا،

اور اسی کتاب کے باب میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص پر غیر ایشتر کی عبادت کا جرم ثابت ہو جائے گا تو اُسے بھی سنگار کیا جائے گا خواہ مرد ہو یا عورت،

عہدِ عتیق میں خدا کے لئے اور شکل و اعضاء کا ذکر کیا گیا ہے، مثلاً پیدائش باب اعضاء کا ذکر میسری بات آیت ۲۶ و ۲۷ اور باب ۹ آیت ۶ میں خدا کے لئے جمیت

شکل و صورت ثابت کی گئی ہے، کتاب یسوعیاہ باب ۵ آیت، ایں خدا کے لئے مسر، ثابت کیا گیا ہے، کتاب دانیال باب آیت ۹ میں سر اور بال ثابت کئے گئے ہیں، زبور نمبر ۳ آیت ۳ میں چہرہ، ہاتھ اور بازو کو ثابت کیا گیا ہے، کتاب الخروج باب ۳۳ آیت ۲۳ میں پھرہ اور گڈی ثابت کی گئی ہے، زبور نمبر ۳۳ آیت ۵ میں آنکھ اور کان ثابت کئے گئے ہیں،

اسی طرح کتاب دانیال کے باب ۹ میں آنکھ اور کان کا اثبات ہوا ہے، نیز سلطانیں اول باب آیت ۲۹ و ۵۲ اور یرمیاہ باب ۱ آیت، ۱ اور باب ۳۲ آیت ۱۹ میں اور کتاب ایوب باب ۳ آیت ۱ میں اور کتاب الامثال باب ۵ آیت ۲۱ اور باب ۱۵ آیت ۳ میں آنکھ ثابت کی گئی ہے،

اوہ زبور نمبر ۱ آیت ۳ میں آنکھوں اور پلکوں کو ثابت کیا گیا ہے، زبور نمبر ۱ آیت ۶، ۹، ۸، ۶ میں کان، پاؤں، ناک اور مُسْنَه ثابت کئے گئے ہیں، کتاب یسوعیاہ باب ۳ آیت ۷ میں ہونٹ اور زبان ثابت کئے گئے ہیں، استثناء باب ۳۳ میں ہاتھ پاؤں ثابت کئے گئے ہیں، خروج باب ۳ آیت ۱۸ میں انگلیاں ثابت کی گئی ہیں، کتاب یرمیاہ باب ۳ آیت ۱۹ میں پیٹ اور دل کا ذکر کیا گیا ہے، کتاب یسوعیاہ باب ۲۱ میں پیٹھ کا ذکر ہے، اور زبور نمبر ۲ آیت، میں شرمگاہ کا بیان ہے،

اعمال الحوار میں باب ۲۰ آیت ۲۸ میں خون کا ذکر کیا گیا ہے،
 توریت کی دو آیتوں میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے منزہ
 ہے، اور اس کے اعضاء و جوارح نہیں ہیں، چنانچہ استثناء باب ۱۲ آیت ۱۲ میں ہے:
 ”اور خداوند نے اس آگ میں سے ہو کر تم سے کلام کیا، تم نے باتیں تو سئیں، لیکن کوئی
 صورت نہ دیکھی، فقط آواز ہی آواز سنی ۶“

پھر آیت ۱۵ میں ہے:-

”سو تم خوب ہی احتیاط رکھنا، کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے ہو
 کر حرب میں تم سے کلام کیا، کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی“ ۷

اور چونکہ ان دونوں آیتوں کا معنوں دلیل عقلی کے مطابق ہے، اس لئے بجائے ان
 دو آیتوں کے ان بہت سی آیات کی تا دلیل ضروری ہے جن کے حوالے اور پر دیئے گئے ہیں
 اس موقع پر اہل کتاب بھی ہماری موافقت کرتے ہیں، اور ان بہت سی آیات کو ان دو
 آیتوں پر ترجیح نہیں دیتے۔

اور جس طرح خدا کے لئے جسمانی ہونا نظر کیا گیا ہے، اسی طرح اس کے لئے مکاٹ
 بھی ثابت کی گئی ہے، عہدہ میتق و حبہ دید کی بہت سی آیات مثلًاً خروج باب ۲۵
 آیت ۸ اور باب ۲۹ آیت ۲۵، ۳۶ اور گنتی باب ۵ آیت ۳ باب ۳۵ آیت ۳۲
 اور کتاب استثناء باب ۱۵، سموئیل الثانی باب آیت ۵، ۶، سلاطین
 اول باب آیت ۳۰، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۹، ۳۶، ۳۳، ۳۹، اور زبور نمبر ۹ آیت ۱۱ اور زبور
 نمبر ۱ آیت ۳ اور زبور نمبر ۲۵ آیت ۸، زبور نمبر ۱۶ آیت ۱۶، زبور نمبر ۳ آیت ۲،
 زبور نمبر ۵ آیت ۲، زبور نمبر ۹ آیت ۱، زبور نمبر ۱۲ آیت ۲۱، یوئیل باب ۳ آیت
 ۱۶، کتاب زکریا باب ۸ آیت ۳، انجیل متی باب ۵ آیت ۳۵ و ۳۸، باب آیت
 ۱۶، ۲۱، ۲۶، ۹۰، ۱۲، باب آیت ۱۱ اور ۲۱، باب آیت ۳۲ و ۳۳، باب آیت ۵، باب
 آیت ۱۶، باب آیت ۱۸ آیت ۱۰، باب ۱۹ آیت ۱۹، ۱۲، ۱۰، باب آیت ۲۳ آیت ۹،
 ۲۲ میں خدا کے لئے مکان ثابت کیا گیا ہے، (حاشیہ لہ آئندہ صفحہ پر دیکھیں)

عہد عین دجس میرے کی کتابوں میں ایسی آیات بہت کم پائی جائی ہیں جو خدا تعالیٰ کے مکانیت سے منزہ ہوئے پر دلالت کرتی ہوں، مثلاً کتاب یہودیہ باب ۴۶ آیت ۱۹ یا اعمال الحواریں باب ۷ کی آیت ۳۸، مگر چونکہ ان قلیل آیات کا مضمون دلائل کے مطابق ہے، اس لئے اُن بہت سی آیات کی تاویل کرنا پڑے گی جن سے خدا کے لئے مکانیت کا اثبات ہوتا ہے، نہ کہ ان قلیل آیات کی، چنانچہ اس تاویل کے سلسلہ میں اہل کتاب بھی ہماری موافقت کرتے ہیں،

پس اس تیسری بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آیات اگرچہ بہت سی ہوں لیکن اگر دلائل کے مخالف ہوں تو ان کو ان تھوڑی آیات کی طرف ٹوٹانا ضروری ہے، جو دلائل کے موافق ہوں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بر عکس اگر زیادہ آیات دلائل کے موافق ہوں تو ان تھوڑی آیات مخالف ہوں تو بد رجوع اولیٰ ان میں تاویل ضروری ہوگی۔

بعض اوقات الفاظ کے مجازی معنی امرسوم میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ خدا کی نہ کوئی شکل ہے نہ صورت، عہد مراد ہوتے ہیں یہ چونکی بات جدید میں بھی اس امر کی تصریح پائی جاتی

ہے کہ دنیا میں خدا کا دیکھا جانا محال ہے، انگل یوحنا باب آیت ۱۸ میں ہے کہ:-
”خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا“

اور تمیتیہس کے نام پریے خط کے بابت آیت ۱۶ میں ہے کہ:-

”نہ اُسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے“

صفحہ گذشتہ کا حاشیہ نہ ملاحظہ ہو، ان سب حوالوں میں سے بطور مثال ایک عبارت ملاحظہ فرمائیے:-
”ادر وہ میرے ایک مقدس بنائیں، تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کر دی“ (خروج ۲۵: ۸)
”نہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی، تم میرے نئے کیا گھر بناؤ گے، اور کوئی بھگ میری آرامگاہ ہوگی“ (یہودیہ ۱: ۶۶)

”نہ“ باری تعالیٰ ہاتھ مکے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا“ (اعمال ۷: ۳۸)

اور یو حناء کے پسلے خطہ کے باب ۲ آیت ۱۲ میں ہے کہ :-

”خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا :

ان آیات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو دیکھا جا سکتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا اگر خدا کے کلام میں یا نبیوں اور حواریوں کے کلام میں اس پر خدا کا اطلاق کیا گیا ہو تو محض ”اللہ“ کے اطلاق سے کسی کو دھوکا نہیں کھانا چاہیئے، اس پر بعض لوگوں کے دل میں یہ شہرہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ ”اللہ“، کو خدا کے علاوہ کسی اور معنی میں ہینا ایک مجاز یا استعارہ ہو گا، اور حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کیوں لے جائیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کلام کے اندر کچھ ایسے قرائیں پائے جائیں ہوں جن کی بناء پر حقیقی معنی مراد نہ لئے جاسکتے ہوں تو ایسی صورت میں مجازی معنی مراد لیتنا ضروری ہو جاتا ہے، بالخصوص جب کہ حقیقی معنی کا امکان نہ ہونے پر یقینی دلائل موجود ہوں،

بلامشہ اس قسم کے الفاظ کے غیر اشر کے لئے استعمال کئے جانے کی ہر محل و موقع کے لئے ایک معقول اور مناسب درجہ ہو سکتی ہے، مثلاً اُن پاپنخ کتابوں میں جو موسیٰ علی کی جانب مشوب ہیں، اس قسم کے الفاظ ملائکہ کے لئے اسی واسطے استعمال ہوئے ہیں کہ ان میں خدا کا جلال دوسری مخلوق کی نسبت زیادہ نہیں ایسا ہے، چنانچہ کتاب خود بحث باب ۲۳ آیت ۲۰ میں اللہ تعالیٰ کا قول اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ:-

”دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجنگا ہوں کہ لاستہ میں تیرانگہیاں ہو، اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے م تم اس کے آگے ہو شیمارہتا اور اس کی بات مانتا، اُب سے ناراضی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہاری خط انہیں بخشنے کا اس لئے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے“ (آیات ۲۰ و ۲۱)

پھر آیت ۲۳ میں ہے کہ:-

”اس لئے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، اور تجھے اموریوں اور حقیقیوں، اور فرزیوں اور کنغانیوں اور حویوں اور بوسبوں میں پہنچا دے گا، اور میں ان کو ہلاک

گرڈاون گا؟"

اس قول میں یہ عبارت کہ "بین اپنا فرشتہ نیرے آگے بھجوں گا، اسی طرح" میرا فرشتہ نیرے آگے الٰہ .. صاف اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ دن میں بادل ہے کے ستوں میں اور رات کو آگ کے ستوں میں جو چلا کرتا تھا وہ کوئی فرشتہ نہ تھا، اور اس پر اس قسم کے الفاظ کا اطلاق کیا گیا، اس کی وجہہ وہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے،

غایشہ پر فقط خدا کا اطلاق پائل میں ایسے الفاظ کا اطلاق تو بے شمار مقامات پر فرشتہ اور انسان کامل

پر بلکہ معمولی انسان پر، بلکہ شیطان مردود پر۔ بلکہ غیر ذہنی العقول پر بھی کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر ان الفاظ کی تفسیر بھی ملتی ہے۔ اور بعض موقعوں پر تو سیاقِ کلام اس قدر صاف دلالت کرتا ہے کہ دیکھنے والے کے لئے، شتبہ کا موقع باقی نہیں رہتا،

اب ہم اس سلسلہ کی شہزادی میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور عہدِ حقیق کی عبارت اُس عربی ترجمہ سے بولندن میں ۱۸۳۲ء میں طبع ہوا ہے، نقل کرتے ہیں، اور عہدِ جدید کی عبارت بھی اُس ترجمہ سے یا اُس عربی ترجمہ سے جو بیروت میں ۱۸۶۰ء میں طبع ہوا ہے نقل کریں گے، ہم اس مقام کی پوری عبارت نقل نہیں کریں گے۔ بلکہ صرف وہ آیات نقل کریں گے جن سے اس مقام پر ہماری غرض متعلق ہے اور دوسری غیر مقصود آیات کو چھوڑتے جائیں گے، ملاحظہ ہوں :-

کتاب پیدائش باءِ آیت ۴۱ میں یوں کہا گیا ہے :-

لہ جب بنی اسرائیل مصر سے سکن کر جا رہے تھے تو اثر تعالیٰ نے ان کی ہولت کے لئے یہ انتظام فرمایا کہ دن میں ان کے اوپر ایک بادل سایہ ڈالتا ہوا چلتا تھا، اور رات کو اسی میں آگ پیدا ہو جاتی تھی تاکہ وہ راستہ کا پتہ لگا سکیں، مصطفیٰ اسی کی طرف اشارہ فرمائے ہیں ۱۲ ات

ملہ چنانچہ خود ج ۳۰: ۳۰ میں ہے۔ تب خیرہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جدل سے معنو ہو گیا؛ دیکھئے یہاں پر اس فرشتہ کے لئے خدا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ۱۲ ات

• جب ابراہم ننانے سے برس کا ہوانہ خداوند ابراہم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا شے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل، اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور مجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا، تب ابراہم سر نجوس بوجیا اور خدا نے اس سے ہمکلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد نیرے سانخہ ہے، اور تو بہت قوموں کا بیپ ہو گا!“ (آیات ۱۷۸-۱۷۹)

پھر آیت میں ہے :-

”اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور نیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتون کے لئے اپنا عہد جو ابدی عہد ہو گا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں مجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعنان کا تمام ملک جس میں تو پر دلیلی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے اور میں ان کا خدا ہوں گا، پھر خدا نے ابراہام سے کہا الخ“ (آیات ۱۷۸-۱۷۹)

اس باب کی آیت ۱۵، ۱۸، ۲۹، ۲۰ میں علی الترتیب یہ الفاظ ہیں :-

”اور خدا نے ابراہام سے کہا ————— اور ابراہام نے خدا سے کہا ————— تب خدا نے فرمایا ————— اور جب خدا ابراہام سے بائیس کر چکا —————“

ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کرنے والے کے لئے لفظ ”خدا“ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ یہ متکلم جو ابراہیم علیہ السلام کو نظر آیا تھا، اور کلام کر رہا تھا یہ درحقیقت فرشتہ تھا، سیاق کلام بالخصوص آخری فقرہ کہ ”اس کے پاس سے اور حلاج گیا“ اس کی شبہادت دے رہا ہے، اب دیکھئے اس عبارت میں اس فرشتہ پر لفظ ”اللہ“، اور ”رب“، اور ”معبود“، کا اطلاق جگہ جگہ کیا گیا ہے، بلکہ فرشتہ نے خود ہی یہ الفاظ اپنے لئے استعمال کئے کہ ”میں خدا ہوں، اور تاکہ میں تیرا اور تیری اولاد کا مجبور ہو۔“ اسی طرح اس قسم کے الفاظ کتاب پیدائش باہم میں اس فرشتہ کے لئے بھی استعمال کئے گئے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے دو فرشتوں کے ہمراہ نظر آیا جس نے آپ کو اسحق کی دلادت کی بشارت دی تھی، اور اس امر کی اسلام عدی

نفحی کو عنقریب لوطعہ کی بستیاں برباد کی جائیں گی۔ بلکہ اس مکتاب میں غمیث شر کے نئے خدا کا لفظ چوڑا جگہ استعمال کیا گیا ہے، نیز اسی کتاب کے باہم آیت ۱۰ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے وطن روانہ ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:-

﴿ اور یعقوب پیر سبع سے نکل کر حاران کی طرف چلا ۔ اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات دہیں رہا ، کیونکہ سورج ڈدپ گیا تھا ، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا ، اور اس جگہ سونے کو لیٹ گیا ، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے ، اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے ، اور خدا کے فرشتے اس پر سے اُترتے چڑھتے ہیں ، اور خداوند اس کے اپر کھڑا کہہتا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابرہام کا خدا اور اصحاب کا خدا ہوں ، میں یہ زمین جس پر تویشا ہے تجھے اور نیری نسل کو دوں گا ، اور تیری نسل زمین اگر دے کے ذرتوں کے ماندہ ہوگی ، اور تو مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں پھیل جائے گا ، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور نیری نسل کے دسلیے سے برکت پائیں گے ،

اور دیکھیں تیرے ساتھ ہوں ، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا اور تجھے کو اس ملک میں پھر لاؤں گا ، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جتنیک اُسے پورا نہ کروں تجھے نہیں چھوڑوں گا ،

تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا اور اس نئی ڈر کر کہا یہ کیسی بھی انک جگہ ہے ، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہو گا ، اور یعقوب صبح سوریے اٹھا۔ اور اس پتھر کو بھے اُس نے اپنے سرہانے دھراتھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا ، اور اُس کے سرے پر تسل ڈالا ، اور اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا ، لیکن پہلے اس بستی کا نام نوزخوت ، اور یعقوب نے منت مانی ، اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر ہیں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے ، اور مجھے کھانے کو روٹی

اور پینٹے کو گپڑا دیتا ہے اور میں اپنے بائی کے لئے سلامت بوٹ آؤں تو خداوند میرا خدا ہو گا، اور یہ پھر جو میں نے ستون سالکھا اکیا ہے خدا کا لگر ہو گا اور جو مجھے تو مجھے دے اس کا دسوائی حصہ ضرور ہی مجھے دیا کروں گا۔ (آیات ۱۰ تا ۲۲)

پھر اسی کتاب کے باب ۳ آیت ۱۱ میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیویوں لیا اور راحیل سے خطاب کرنے ہوئے فرمایا:-

”اور خدا کے فرشتہ نے خواب میں مجھ سے کہا۔ اے یعقوب! میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں، تب اُس نے کہا..... میں بیت ایں کہ خدا ہوں جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا، اور میری مستت مانی، میں اب اُسکے اس مک سے نکل کر اپنی زاد بوم کو بوٹ جائی (آیات ۱۱ تا ۱۳)

آگے چل کر باب ۹ آیت ۹ میں حضرت یعقوب ہی کافول اس طرح منقول ہے:-
”اور یعقوب نے کہا اے میرے باب ابرہام کے خدا اور میرے باب اضحاق کے خدا، اے خداوند جس نے مجھ سے یہ فرمایا کہ تو اپنے مک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس بوٹ جائی“

پھر آیت ۱۲ میں ہے:-

”بیر تیر لہی فرمان ہے کہیں تیرے پاس ضرور سجلائی کروں گا، اور تیری نسل کو دریا کی ریت کے مانند بناؤں گا جو کثرت کے سبب گئی نہیں جا سکتی“

آگے باب ۱۰ آیت ۱ میں ہے کہ:-

”اور خدا نے یعقوب سے کہا اُسکے بیت ایں کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لئے جو مجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیسیٰ کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بن، تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا..... آؤ ہم روائے ہوں، اور بیت ایں کو جائیں، وہاں میں خدا کے لئے جس نے میری تنگی کے وہ میری دعاء قبول کی، اور جس راہ میں میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا“

اسی واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مذکورہ باب کی آیت ۶ میں ہے کہ :-

” اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت جوان کے ساتھ تھے لوز پینچاہ بیت ایل یہی ہے، اور ملک گنغان میں ہے، اور اس نے دہان مزبح بنایا، اور اس مقام کا نام ایل بیت ایل رکھا، کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس بھاگا جا رپا نھا تو خدا وہیں اس پر نظر ہڑھا، آگے باب ۳۸ آیت ۳ میں کہا گیا ہے :-

” اور یعقوب نے یوسف سے کہا کہ خدا نے قادر مطلق مجھے لوز میں جو ملک کنغان میں ہے دکھائی دیا، اور مجھے برکت دی، اور اس نے مجھے سے کہا میں تجھے بردمند کروں گا، اور بڑھاؤں گا، اور تجھے سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں گا، اور تیرے بعد یہ زین تبری فسل کو دوں گا : (آیات ۳، ۴)

غور فرمائیے کہ باب ۳ آیت ۱۱ و ۱۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نظر آیا وہ فرشتہ تھا، اسی سے انھوں نے عہد کیا تھا، اور اسی کے ساتھ منشی مانی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اُس کے بعد اٹھارہ سے زیادہ مرتبہ اس پر لفظ ”خدا“، کا اطلاق کیا گیا ہے خود فرشتہ نے بھی اپنے آپ کو خدا کہا، اور حضرت یعقوب نے بھی اسے خدا ہی کے نام سے پکارا،

خدا کے ساتھ کشی | اس کے علاوہ کتاب پیدائش میں حضرت یعقوب ہی کا ایک اوّجیب واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے :-

” اور یعقوب اکیلارہ گی، اور پوچھتے تک ایک شخص دہان اس سے کشتی لڑتا رہا جب اُس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں آتا تو اسکی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اُس کے ساتھ کشی کرنے میں چڑھ گئی، اور اُس نے کہا مجھے جانے دے، کیونکہ پوچھوٹ چلی یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہ دوں گا، تب اُس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا ہم ہے اُس نے جواب لئے ایل، عبرانی زبان میں خدا کو کہتے ہیں، لہذا ایل بیت ایل کے معنی ہوئے « بیت اللہ کا خدا » آج یہی جگہ بیت المقدس کے نام سے معروف ہے ۱۲ ترقی

دیا یعقوب، اس نے کہا کہ تیرنام آگے کو یعقوب نہیں، بلکہ اسرائیل ہو گا کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہو گیا، تب یعقوب نے اس سے کہا کہیں تیری منت کرتا ہوں۔ تو مجھے اپنا نام بتادے، اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اُس سے دہان برکت دی، اور یعقوب نے اُس بندگ کا نام فتنی ایل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو رو برو دیکھا، تو بھی میری جان بچی رہی ॥ (باب ۳۲ آیت ۴۷ تا ۴۹)

ظاہر ہے کہ یہاں پر کشتنی لڑانے والا فرشتہ تھا، جس پر لفظ «خدا»، کا اطلاق گیا گیا، اس لئے کہ اول تو اگر یہاں خدا سے اس کے حقیقی معنی مراد لئے جائیں تو لازم آئے گا کہ بنی اسرائیل کا خدا (معاذ اللہ) بہت ہی عاجز اور کمزور ہے، کہ رات بھرا یک انسان سے کشتنی لڑاتا رہا، مگر اُسے مغلوب نہ کر سکا، دوسرے اس لئے کہ حضرت ہوش علیہ السلام نے اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ یہ فرشتہ تھا، خدا نہیں تھا، چنانچہ کتاب ہو سیع کے باب ۳ آیت ۳ میں ہے کہ :-

«اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی چڑھی اور وہ اپنی نوانائی کے ایام میں خدا سے کشتنی لڑا، ہاں وہ فرشتہ سے کشتنی لڑا اور غالب آیا، اس نے روکر مناجات کی اُس نے اُسے بیت ایل میں پایا، اور دہان وہ ہم سے ہم کلام ہوا ॥

دیکھئے یہاں بھی دو جگہ اس فرشتہ پر خدا، کے لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے، اس کے علاوہ پیدائش باب ۳۵ آیت ۹ میں ہے کہ :-

و اور یعقوب کے فدان ارام سے آنے کے بعد خدا اُسے پھر دکھائی دیا، اور اُسے برکت بخشی، اور خدا نے اُسے کہا کہ تیرنام یعقوب ہے، تیرنام آگے کو یعقوب نہ کہلاتے گا، بلکہ تیرنام اسرائیل ہو گا، سو اُس نے اُس کا نام اسرائیل رکھا، پھر خدا اُسے کہا کہ میں خدا ہے قادر مطلق ہوں، تو بردمند ہو اور بہت شایستہ تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جختے پیدا ہوں گے، اور باشتاہ تیری صلب سے نکلیں گے، اور یہ

لہ اسرائیل کے معنی عبرانی زبان میں ہیں «خدا سے زور آزمائی کرنے والا» (کنکار ڈنس)، لہ فتنی ایل، (PHENI EYL) کے معنی عربانی زبان میں «خدا کا چہرہ»، ہیں

ملک جو میں نے ابرہام اور آنحضرت کو دیا ہے سو بھگہ کو دون گا، اور تیر سے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا، اور خدا جس جگہ اس سے بحکام ہوا دیں سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا، تب یعقوب نے اس جگہ جس میں وہ اس سے بحکام ہوا پھر کا ایک ستون کھڑا کیا، اور اس پر پادن کیا اور تیل ڈالا اور یعقوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا اس سے بحکام ہوا بیت ایں رکھا۔

دیکھئے یہ نظر نہ آنے والی شخصیت یقیناً فرشتہ تھی، جس کا پہلے بار بار ذکر آچکا ہے اور اس کے لئے پاپ نے جگہ فقط "خدا" استعمال کیا گیا ہے، اور خود اس نے بھی کہا کہ میں خدا ہوں، اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے کا واقعہ کتاب خروج باب ۳ آیت ۲ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے :-

وَ اُرْ (خداوند) ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا، اس نے نگاہ کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے۔ پر دہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی، جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کتر اکر آر ہا رہے اس نے کہا کہ میں نیز سے باپ کا خدا یعنی ابرہام کا خدا اور آنحضرت کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں، موسیٰ علیہ اپنا منہ چھپایا، کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا ہے موسیٰ علیہ اپنا سے کہا... اس خداوند نے کہا کہ میں ضرور نیز سے سانحہ ہوں گا، اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے، تیرے لئے یہ نشان ہو گا کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گے تو نہ اس پھاڑ پر خدا کی عبادت کر دیں، تب موسیٰ علیہ اپنا سے کہا، جب بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے ندانے مجھے لختا ہے پاس بھیجا اور وہ مجھے کہیں کہ کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ خداوند موسیٰ سے کہا آہمیت آشِر آہمیت۔ سـ تربیتی اسرائیل سے یوں کہنا کہ آہمیت نے مجھ کو

لے موجودہ اردو ایکٹری زرجمہ میں یہاں "خداوند" کے بجائے دخداوند کا فرشتہ، لکھا ہے ۱۲ میں موجودہ اردو ترجمہ میں یہاں "خدا" کا لفظ نہیں ہے بلکہ اسی کا صفحہ

تھمارے پاس بھیجا ہے، اپھر خدا نے موسیٰؑ سے یہ مجھ کہا تو بنی اسرائیل ہے یوں کہا کہ خداوند تھا
بپ دادا کے خدا اور اخلاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔
ابنک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں میرا اسی سے ذکر ہوگا، جا کہ اسرائیل بزرگوں کو ایک
مگ بھج کر اور ان کو کہہ کہ خداوند تھا ہے بپ دادا کے خدا ۱۱ بڑا: (آیات ۷۳ تا ۱۶)

دیکھئے یہاں پر بھی حضرت موسیٰؑ کے سامنے نبو دا رہنے والا درحقیقت فرشتہ تھا، جس
نے یہ کہا کہ میں تیرے بپ کا یعنی ابر ہام کا خدا اور اخلاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں، پھر اسی
نے آہیہ آشٹ آہیہ کہا اور موسیٰؑ کو تلمیظ کی کہ وہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ مجھے
اہمیت نہ بھیجا ہے، اس تمام عبارت میں پچیس سے زیادہ مرتبہ اُس نے اپنے لئے خدا کا
لفظ استعمال کیا ہے، خود حضرت مسیح نے بھی اس فرشتے کے لئے خدا کا لفظ استعمال
کیا ہے،

چنانچہ مرقس کے باب ۱۸، مثنی باب ۲۲ اور لوقا باب ۲۰ میں ہے کہ حضرت مسیح نے
صلوٰتیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:-

”جیا تم نے موسیٰؑ کی کتاب میں جھاؤ کے ذکر میں نہیں پڑھا کہ خدا نے اس سے کہا کہ میں
ابر ہام کا خدا اور اخلاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں“ (عبارت مرقس ۱۸)

دگذشتہ صفحہ کے حاشیے میں، ”لئے ملاحظہ ہوں“ لئے آہیہ آشٹ آہیہ برازی جملہ ہے جس کے معنی ہیں ”جھوپوں
سوں ہوں“ / I AM THAT I AM . ”لئے آہیہ“ کے معنی ہیں ”میں جھوپوں“ (دیکھئے اردو انگریزی
ترجمے، ۱۲ ترقی لے صدّاقی (CONCORDANCE) یہودیوں کے ایک مذہبی فرقہ کا نام ہے، جو ”فریسیوں
کے خلاف تھا، یہ اپنے پیشو اصدق ربی (ستہ قم) کی طرف منسوب ہے، یہ فرقہ بہت اصول پرست تھا،
کسی ایسے نظریہ کے لئے تیار نہ تھا جو حضرت موسیٰؑ سے منقول نہ ہو، یہ لوگ اُخڑی زندگی کے قائل نہ تھے
اور ”فترتوں“ اور ”رددح“ کو بھی بے حقیقت سمجھتے تھے۔ حضرت مسیحؑ کے زمانہ میں اکثر امراء اسی فرقہ
سے تعلق دکھتے تھے، ان کے نظریات کے لئے ملاحظہ ہو میں ۲۳، ۲۲، ۱۸، ۱۲، مرقس ۱۸، اعمل ۲: ۲۴، ۲۳: ۲۱،

(CONCORDANCE) تفہیل کے لئے دیکھئے مقریبی، ص ۳۴۷، ۳۵۰

۱۸: ۱۲،

حالانکہ درحقیقت یہ فرشتہ تھا جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے، چنانچہ اردو اور فارسی ترجموں میں یہاں لفظ «خداوند» کے بجائے فرشتہ کا لفظ لکھا گیا ہے، اور سینئے خودج باب کی آیت ۱۶ میں ہے:-

«پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے مجھے فرعون کے نئے گویا خدا شہرا یا اور تیرا
بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہو گا ॥

نیز خودج باب ۱۶ آیت میں حضرت موسیٰ سے خطاب ہے:-
«اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ تیرا مشتبہ نہ بنے گا، اور اُس کے
لئے گویا خدا ہو گا ॥

ان دونوں آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لفظ خدا کا اطلاق کیا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہودیوں کو عیاسیوں پر نزیح حاصل ہے، اس لئے کہ وہ اگرچہ حضرت موسیٰ کو تمام انبیاء میں سب سے افضل سمجھتے ہیں اور ان سے محبت کا دعوای بھی کرتے ہیں، مگر باطل کے ان الفاظ سے استدلال کر کے انھیں خدا نہیں بنادیتے، اس عقائدی «کا شرف عیاسیوں ہی کی حاصل ہے، اس کے علاوہ خودج باب ۲۱ آیت ۲۱ میں ہے کہ:-

«اور خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لئے بادل کے ستوں میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کر تا تھا، تا کرو دن اور رات دونوں میں چل سکیں، اور بادل کا ستوں دن کو اور رات کا ستوں رات کو ان لوگوں کے آگے سے ہٹانا تھا ॥ (آیات ۲۱: ۲۱)

لیکن باب ۱۷ آیت ۱۹ میں اُسی کے باسے میں کہا گیا ہے:-

«اور خدا کا فرشتہ جو اسرائیلی شکر کے آگے آگے چلا کر تا تھا جا کر ان کے پیچے ہو گی، اور بادل کا ده ستوں ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچے جا شہرا ॥

پھر آیت ۲۲ میں ہے:-

«اور رات کے پیچے پھر خداوند نے آگ اور بادل کے ستوں میں سے مصروفیوں کے شکر پر نظر کی، اور ان کے شکر کو گھبرا دیا ॥

آیت ۱۹ صاف بتارہی ہے کہ یہ چلنے والا فرشتہ تھا، مگر ۱۳: ۲۱ اور ۲۳: ۱۲ میں اُسے خدا کہا گیا ہے، نیز کتاب استثناء باب آیت ۳۰ میں ہے :-

”خداوند تمہارا خدا جو تمہارے آگے چلتا ہے وہی تمہاری طرف سے جنگ کرے گا جیسے اس نے تمہاری خاطر مبصر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ کیا، اور بیان میں بھی تو نے یہی دیکھا، کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے اسی طرح خداوند تیرا خدا تیرے اس جگہ پہونچنے تک سارے راستہ جہاں جہاں تم کے و تم کو اٹھائے رہا، تو بھی اس بات میں تم نے خداوند اپنے خدا کا یقین نہ کیا، جو راہ میں تم سے آگے آگے تمہارے واسطے ڈیرے ڈالنے کی جگہ تلاش کرنے کے لئے رات کو آگ میں اور دن کو ابر میں ہو کر چلا ॥“ (آیات ۳۰ تا ۳۳)

ملاحظہ فرمائیے! ان تین آیتوں میں جگہ اس فرشتہ کو ”خدا“ کہا گیا ہے، پھر استثناء ہی کے باب ۳۳ آیت ۳ میں ہے کہ :-

”سو خداوند تیرا خدا ہی تیرے آگے آگے پار جائے گا..... اور خداوندان سے وہی رے گا..... اور خداوندان کو تم سے شکست دلائے گا..... مٹ ڈرا در سر ان سے خوف کھا، کیونکہ خداوند تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے..... اور خداوند ہی تیرے آگے چلے گا“، الخ (آیات ۳ تا ۸)

یہاں بھی اسی فرشتہ کے لئے ”خدا“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے،

تیر کتاب قضاۃ کے باب ۲۲ آیت ۲۲ میں اس فرشتہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے جو منوہ سے اور اس کی بیوی کو دکھائی دیا تھا، اور دونوں کو بیٹے کی بشارت دی تھی :-

”اور منوہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اب ضرور مر جائیں گے، کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا“
حالانکہ اسی باب کی آیت ۳ و ۹ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۱ میں تصریح ہے کہ یہ فرشتہ

نمٹا، خدا نہ تھا، باسیل میں فرشتہ پر لفظ ”خدا“ کا اطلاق کتاب یسوعیہ بابت، کتاب سموئیل لہ منوہ (MANOAH) یہ باسیل کے مشہور کردار سمسوں کا باپ ہے، جس کی دلیل کے ساتھ عشق کی داستان مشہور ہے ۱۲ ت

اول بات، کتاب حزقی آیل باب ۴۹ اور کتاب عاموس باب میں بھی کیا گیا ہے، تمام انسانوں اور شیطان پر خدا کا اطلاق [اس کے علاوہ عربی تراجم کے مطابق زبور نمبر ۸۱ اور دوسری تراجم کے مطابق زبور نمبر ۸۲ کی آیت ۶ میں توانہ کر دی گئی ہے، اُس میں ہے :-

”میں نے کہا تھا کہ تم آہ ہو، اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو۔“

دیکھئے یہاں پر تو ”اللہ، کا اطلاق تمام انسانوں تک کے لئے کر دیا گیا ہے چہ جائیکہ خواص، یہ زکر شخصیوں کے نام دوسرے خط کے جواب ۳۴ آیت ۳ میں کہا گیا ہے :-
”اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے داسطے پڑا ہے
یعنی ان بے ایمانیوں کے داسطے جن کی عقولوں کو اس جہان کے خدا نے انداھا کر دیا
ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی میں پرند پڑے“
(آیت ۳۴ و ۳۵)

اس عبارت میں علماء پر و تسلیٹ کے نظریہ کے مطابق ”اس جہان کے خدا“ سے مراد شیطان ہے، ملاحظہ فرمائیے، اس نظریہ کے مطابق تو شیطان پر بھی لفظ ”خدا“، کا اطلاق ہو گیا۔ اور یہ جو ہم نے ”علماء پر و تسلیٹ“ کے نظریہ کے مطابق کہا ہے، وہ اس لئے کہ علماء پر و تسلیٹ ہی یہاں ”خدا“ سے ”شیطان“ مراد لئے ہیں، اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہاں ”خدا“ سے اس کے اصلی معنی مزدوجے گئے تو انداھا کرنے کی نسبت خدا کی طرف ہو جائے گی، جس سے اس کا غالق شر ہونا لازم آئے گا اور یہ علماء پر و تسلیٹ کے نزدیک ورست نہیں ہے، حالانکہ کتب مقدسہ کی روایت میں کا یہ خیال مغضباً اعلیٰ ہے، کتب مقدسہ میں اس بات کی بہت سی روایتیں موجود ہیں کہ شر کا غالق بھی خدا ہی ہے، ہم یہاں صرف دو دلیلوں پر اتفاق اکیرا کریں گے، اور دوسرے شواہد پر اپنے مقام پر آئیں گے، کتاب یسوعیہ باب ۳ آیت میں ہے کہ :-

”میں ہی روشنی کا موجہ اور تاریخی کا غالق ہوں، میں سلامتی کا بانی اور جلاء

کو پسداکر نے دالا ہوں، میں ہی ضاد ندیر سب کچھ کرنے دالا ہوں۔“

اور پوس تحسینیکیوں کے نام دوسرے خط کے بابت میں لکھتا ہے:-

”اسی سبب سے خدا ان کے یاں گراہ کرنے والی تاثیر بھیج گا، تاکہ وہ جھوٹ کو سمجھ جائیں، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناماستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پایش یا“

بہر کیف پر دلستہ حضرات قوان دلیلوں کے باوجود بھی خدا کے خالق شرطیم کرنے سے بچنے کے لئے گر تھیوں کے نام کی مذکورہ بلا عبارت میں خدا سے مراد شیطانیتی ہیں، اس لئے الزامی طور پر ہذا مقصود ثابت ہے، کو لفظ ”خدا“، ”کا اہلاق“، ”غیر ارشد“ پر کر دیا گیا،

اس کے علاوہ فلپیوں کے نام خط کے بابت آیت ۱۹ میں ہے:-

”آن کا نجام ہلاکت ہے، اُن کا خدا پیٹ ہے۔ وہ اپنی شرم کی بالتوں پر فخر کرتے ہیں“

اس میں پوس نے پیٹ پر لفظ ”خدا“، ”کا اہلاق“ کیا ہے، نیز یو خنا کے پہلے خط کے بابت آیت ۸ میں ہے:-

”جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے“

پھر آیت ۱۶ میں ہے کہ:-

”جو محبت خدا کو ہم سے ہے اُس کو ہم جان گئے، اور ہمیں اس کا یقین ہے خدا

محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے“

اس عبارت میں یو خنانے محبت اور خدا میں اتحاد ثابت کیا ہے، پھر ان دونوں کو لازم و ملزم قرار دیتے ہوئے کہ جو ”محبت“ میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے“

اس کے علاوہ ہتوں پر لفظ ”خدا“، ”کا اہلاق“ بائبل میں اس کثرت سے آیا ہے کہ اس کے شواہد نقل کرنے کی چند اضورت نہیں، اسی طرح نجد و معلم کے معنی لئے آیت نمبر ۱۱

میں لفظ "رب" کا استعمال بھی یے شمار جگہوں پر کیا گیا ہے، چنانچہ الجمل یو عن
باب اول آیت نمبر ۳۸ میں لفظ "رب" کی تشریح استاد سے کی گئی ہے:-

"انھوں سے اس سے کہا اے ربی (یعنی اے استاد) تو ہملا رہتا ہے"

ہم نے اور تفصیل کے ساتھ جو باطل کی عبارتیں پیش کی ہیں ان سے یہ بات خوب
 واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی ایسی چیز پر لفظ "خدا" کا اطلاق کر دیا جائے جس کا فانی، عاجز
اور متغیر ہونا ہر شخص مکمل آنکھوں دیکھ سکتا ہے تو محض اس پر لفظ "خدا" کے اطلاق
سے کسی ہوشمند کو یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ وہ فانی چیز خدا یا خدا کا بیٹا ہو گئی، اور جو شخص ایسا
کرے وہ نہ صرف یہ کہ عقل کے تمام دلائل کو جھوٹلارہا ہے بلکہ نقل و روازیت کے ان شواہد
کو بھی پس پشت ڈال رہا ہے جو پچھلے چند صفات میں ہم نے پیش کئے :-

بائب میں مجاز اور مبالغہ کا استعمال

پانچویں بات

اوپر تیسری اور چوتھی بات کے ضمن میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ بائب میں مجاز کا
استعمال بکثرت ہوا ہے، یہاں ہمیں یہ کہنا ہے کہ یہ مجاز کا استعمال صرف ان مواقع کے ساتھ
محضوں نہیں ہے جو اور پر بیان کئے گئے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بائب میں مجاز بکثرت پایا جاتا
ہے، مثلاً کتاب پیدائش باب ۱۲ آیت ۱۶ میں ہے کہ اشد تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے
کیشرا دلاد دینے کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا :-

"اوہ میں تیری نسل کو خاک کے ذردوں کے ماند بنا دیں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک
کے ذردوں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی"

پھر اسی کتاب کے باب ۲۲ آیت، امیں ہے :

"میں بچھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں
اوہ سمندر کے کنارے کی ریت کے ماند کر دوں گا"

اسی طرح پیچے اُمر چہارم میں آپ پڑھ کے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی یہی دعہ کیا گیا تھا کہ ان کی نسل ریت کے ذردوں کے برابر ہو جائے گی، حالانکہ ان دوفوں حضرات کی نسل کبھی وہ سیرہ بیت کے ذردوں کے برابر بھی نہیں ہوتی لیکن چہر جائیکے ساحلِ سمندر کے ذرات کے برابر یا دنیا بھر کے ریت کے ذردوں کے برابر،

بنی اسرائیل کو خدا کی طرف سے جوزین دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے کتاب خروج باب آیت ۸ میں ہے کہ:-

”جس میں درود ہوا اور شہد سہتا ہے“

حالانکہ رد ہے زمین پر کوئی الیسی جگہ موجود نہیں ہے، نیز کتاب استثنا باب ۷ میں ہے:-
”آن کے شہر پڑے پڑے اور فضیلیں آسمان سے باشیں کر قی ہیں“
اور باب ۹ میں ہے:-

”الیسی قوموں پر جو تجھ سے بڑی اور زرد آور ہیں، اور ایسے بڑے شہروں پر جن کی فضیلیں آسمان سے باشیں کر قی ہیں“

زبور نمبر ۱۰ آیت ۵ میں ہے:-

”تب خداوند گوریانیند سے جاگ آئی، اسہند بردست ادمی کی طرح ہوتے تھے، مہر، نکارا ہو، اور اس نے اپنے مخ غور لو مار کر پسپا کر دیا، اس نے اس لو چیزیں لے کر سوائیا، نیز زبور نمبر ۱۰ میں خدا کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے:-

”و تو اپنے بالاخنوں کے شہر تیر پانی پر مکاتا ہے، تو بادلو، لوابا، ارتند، آس، نوہنے کے بازوں پر سیر کرتا ہے“

اور یوختا حواری کا کلام تو مجاز اور استعارات و کنایات سے بھرا پڑا ہے، بمشکل ہی کوئی فقرہ ایسا ملے گا جس کی تاویل کی غورت نہ ہو، اسکی انجیل، اس کے خطوط اور اس کامکاشف جسیں نے دیکھا ہو وہ اس بات سے خوب واقع ہیں، یہاں ہم مثال کے طور پر عرف ایک عبارت نقل کرنے پر اتفاق ہوتے ہیں اگر کتاب مکاشف کا باب اس طرح شروع ہوتا ہے،

”لہ و کیھی صنیع ۸۶۶ جلد نہ را۔ آیت ۲۱، تکہ مترجمہ اور دو ترجیہیں یہ زبور نہر ہے۔ لہ موجودہ زبور
۰۳۱۰۳“

"پھر آسمان پر یا بُرائشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی، جو آفتاب کو اوڑھنے سے جو نہ تھی اور چاند اس کے پاؤں سے نیچے تھا، اور بارہ ستاروں کا تاج اس کے سر پر، وہ حامل تھی، اور درود نہ ہے چلا تھی تھی، اور بچپن جتنے کی تکمیل میں تھی، پھر رایا اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بُرالاں اشداں، اس کے ساتھ سر اور دش میٹا گئے تھے، اور اس کے سروں پر سات تاج، اور اس کی دُرم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر قدم دیئے، اور دہ اشداں اس عورت کے آئے جا کھڑا ہوا، جو جتنے کو تھی، تاکہ وہ جتنے تو اس کے بچپے اونٹ جائے، اور وہ بیٹھا چکی، یعنی وہ رُڑ کا جو لوہے کے عصا و سبزے قیموں پر حلووت کرے گا، اور اس کا بچپہ یکا یا بُر خدا اور اس کے تختہ کے پاس تک پہنچا دیا گیا، اور وہ عورت، اس بیان کو بھائی گئی جہاں خدا کی طرز سے اس کے لئے ایک جگہ تیار کی کئی تھی، بکر دہاں ایک، هزار دوسو ساٹھ داں تک اس کی پروردش کی جائے،

پھر آسمان پر لیٹائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اشداں سے رُڑ کو نکلے اور اشداں اور اس کے فرشتے ان سے لڑانے، لیکن غالب نہ آئے، اور آسمان پر ان کے لئے جگہ شہر ہی " ۹

غور فرا یئے! یہ کلام بظایر مجد و بلوں یادیو انوں کی ڈیں علوم ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس کی کوئی صحیح تاویل کی جائے تو یقینی طور پر محال ہے، اور اس کی تاویل بھی کوئی آسان نہیں ہے، بلکہ بعید اور دشوار ہے، اہل کتاب یقیناً ان آیات کی تاویل کرتے ہیں، اور کتب حمایہ میں مجاز کے بحثت واقع ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، مرشد الطالبین کا مصنف اپنی کتاب کی فصل ۱۳ میں کہتا ہے کہ:-

"رَهْمٌ كَتَبَ مِنْ مَقدِّسِ الْأَصْطَلَاحِ، سُودَةٌ قَبْيَةٌ شَهَارٌ پَچِيدَةٌ استعاراتٌ دَالِيَّةٌ ۝
بِالْخُصُوصِ عَهْبٌ يَقِينٌ ۝

پھر کہتا ہے کہ:-

وہ اور عہد جدید کی اصطلاح کبھی بہت ہی استعارات دالی ہے، بالخصوص یہمارے منیٰ کے قصہ ہے: یہ وجہ سے بہت ہی غلط رائیں مشہور ہو گئی ہیں کہ بعض عیانی معلوموں

نے ایسی عبارتوں کی حرف بحروف شرح کی ہے، ہم یہاں بعض شایعین پیش کرتے ہیں جن کے ذریعہ یہ بات معلوم ہو سکے گی کہ استعارات کی تاویل حرف بحروف کرنا درست نہیں ہے، مثلاً ہیرودیوس بادشاہ کے لئے حضرت مسیح کا یہ ارشاد کہ: «جاکر اس لو مرٹی سے کہہ دلو ۔۔۔ ظاہر ہے کہ اس عبارت میں لو مرٹی سے جبار اور ظالم کے معنی مراد ہیں کیونکہ یہ جانور جو اس نام سے معروف ہے، جبلہ اور فریب کاری میں بھی مشہور ہے اسی طرح ہمارے خداوند نے یہودیوں سے کہا کہ: «میں ہوں وہ زندگی کی رُوفی جو آسمان سے اُتری، اگر کوئی اُس روافی میں سے کھائے تو اب تک زندگی سے گا، بلکہ جو روافی میں جہاں کی زندگی کے لیے دن گا، وہ میرا گوشت ہے۔ رویخنا بابت آیت ۱۴۷ مسکر شہوت پرست یہودیوں نے اس عبارت کے لفظی معنی سمجھے اور کہنے لگے کہ یہ بت کس طرح ممکن ہے کہ وہ ہم کو اپنا جسم کھانے کے لئے دیدیگا (آیت ۱۵۲) اور یہ نہ سوچا کہ اس سے مراد وہ قربانی ہے جو مسیح نے تمام جہاں لی خطاڑ کے سخاوارہ کے لئے وہی ہماں سے مبنی نے بھی عشاء ستری کی تعین کے وقت روئی کی نسبت کہا ہے کہ یہ میرا بن ہے: «اول شربت کے لئے کہا ہے کہ یہ میرے عہد کا خون ہے»: (مشی ۲۶: ۲۶، پھر باہر ہوں صدی سے روم کیتھولک فرقہ نے اس قول کے دوسرے معنی بیان کرنے شروع کر دیئے۔ جو کتب مقدسہ کے دوسرے شواہد اور مثالوں کے مخالف اور بر عکس ہیں، اور دلیل صحیح کے بھی خلاف ہیں۔ اور لقین کریما کہ اس جدید معنی سے پادری کے پاک الفاظ پڑھتے ہیں استعمال اور القلب کی تعلیم کی گنجائش پیدا ہو جائے گی، یعنی روافی اور مشربت مسیح ع کے جسم دخون میں تبدیل ہو جائیں ہو گے، حالانکہ حواس سے

لئے بعض فریبیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اطلاع دی تھی کہ ہیرودوس آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے،

اس پر آپ نے فرمایا انہی دیکھئے تو قا ۱۳: ۳۲: ۱۲ نقی

لئے اصل نسخہ میں ایسا ہی ہے، مگر یہ عبارت اسکی بجائے ۶: ۱۵ پر ہے۔ ۱۲ نقی

لئے اس بحث کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے ملاحظہ فرمائیے صفحہ کا حاشیہ جس میں ہم نے

«عشاء ربانی» کی مفصل تشریح کر دی ہے ۱۲ نقی

لے ساتھ رہنی اور شراب اپنے اپنے جوہر پر باقی رہتے ہیں، اور ان میں کوئی بھی تغیری
و انتہا نہیں ہوتا ابتدہ ہمارے خداوند کے قول کی صحیح تاویل یہی ہے کہ روشنی جسم میسح کی
مانند اور شربت آپ کے خون کی طرح ہے ॥

یہ اعتراف نبایت صاف اور واضح ہے، لیکن اس کلام میں کہ "بارہویں صدی" سے البتہ
ان روشنی عیسائیوں کے عقیدہ کی تزویر ہے جن کا خیال یہ ہے کہ روشنی اور شراب میسح کے جسم و
خون میں تبدلیں ہو جاتی ہے، اس نظر یہ کو حواس کی شہادت باطل قرار دیتی ہے، چنانچہ
انہوں نے مضامین مخدوف فرار دے کر میسح کے قول میں تاویل کی ہے اگرچہ ظاہر اتفاق
سے یہی معنی سمجھدیں آتے ہیں جو ان لوگوں نے سمجھے ہیں، کیونکہ میسح کا ارشاد ہے کہ
جب وہ کھار ہے تو نویسوع نے روشنی، اور برکت دے کر توڑی، اور شاگردوں کو دے
کر کہا تو کھاؤ، یہ میرا درد ہے، پھر پیالے کو شکر کیا، اور ان کو دے کر کہ تم سب
اس میں سے ہیو، کیونکہ میرا درد عہد کا خون ہے جو بہتر درد کے لئے گناہوں کی معافی
کے واسطے بھایا جاتا ہے ॥

اب یہ لوگ یوں کہے ہیں کہ لفظ "یہ"، ایک موجود جو پروردہ لذت کرتا ہے، اور انگر
کوئی روشنی کا جوہر باقی ہوتا تو پھر یہ اطلاق کیونکہ جائز ہو جاتا ہے، فرقہ پروردہ سنت کے ظہور
سے پہلے دنیا میں اسی عقیدہ سے کہ لوگوں کی کثرت تھی، اور آج تک اس فرقہ کے لوگوں کی تعداد
بہت زیادہ ہے،

پھر جس طرح یہ عقیدہ پروردہ سنت فقیر کے نزدیک بوجہ شہزادت حواس غلط ہے،
اسی طرح عقیدہ تبلیغ بھی غلط ہے، اگرچہ بعض مشتاءہ اقوال کی دلالت ظاہری طور پر اس صنون
کی مل جائے، اس لئے کہ دلائل قطعیہ کی رو سے یہ بات محوال ہے، اگر عیسائی حضرات یہ کہیں کہ
کیا عمار اشمار عقولاء میں نہیں ہے؟ تو پھر تم کس طرح اس عقیدہ کو تسلیم کر رہے ہیں، جبکہ کہ
اپنے مسلمانوں کے خیال کے مطابق الحال ہے؟ جو اب ہم عرض کریں گے کہ کیا روشنی لوگ آپ کی طرح
عقلمند نہیں ہیں؟ اور آج تک تعداد میں بھی آپ سے زیادہ ہیں، پہلے زماں کا تو کہنا ہی کیا ہے،
انہوں نے ان چیزوں کا اعتراف کیوں کیا جو آپ کے نزدیک غلط اور باطل ہیں؟ اور ان کے

بُطْلَانْ پر حس بھی شہادت دیتی ہے، عشاءِ ربانی کے ردِ می عقیدہ کے باطل ہونے پر مندرجہ ذیل دلائل ہیں:-

عشاءِ ربانی کے محال عقلی ہونے کے دلائل

پہلی دلیل ارمی گربے اور نظریہ کا دعویٰ یہ ہے کہ خالص وہ روٰنی ہی مسیح کا جسم اور خون بن کر مکمل طور پر مسیح بن جاتی ہے،

تو ہم کہیں گے کہ جب وہ روٰنی اپنی لاہوتی اور ناسوتی کیفیت سمیت جو مسیح نے مریم علیہا السلام سے حاصل کی تھی مسیح کامل بن جاتی ہے، تو لازم ہے کہ اس میں انسانی جسم کے عوارض بھی دیکھنے والے مشاہدہ کریں، اس کی کھال، ہڈی، اور دوسرے اعضا، بھی موجود ہوں، مگر یہ چیزیں کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتیں، بلکہ اس روٰنی میں پہلے کی طرح اس کے بعد بھی روٰنی کے تمام اوصاف موجود ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص اس کو دیکھے یا ہاتھ لگائے یا چکھے تو سوئے روٰنی کے اس کو کوئی دوسرا چیز قطعی محسوس نہیں ہوگی، اور اگر کچھ عرصہ اس کو اپنے پاس لے کے تو اس میں گلنے سڑنے کی وجہ تمام صورتیں پیش آئیں گی جو روٰنی پر طاری ہوتی ہیں، اور گلنے سڑنے کی وجہ تمام جو صورتیں جسم انسانی پر طاری ہوتی ہیں وہ طاری نہ ہونگی، اب اگر پھر بھی اس دعویٰ پر اصرار کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ مسیح روٰنی بن گئے ہوں، لیکن روٰنی بہر صورت روٰنی ہی رہتی ہے، وہ مسیح نہیں، اور اگر وہ لوگ یہ کہیں کہ ہاں مسیح روٰنی بن گیا، تو یہ بات پہلے دعوے کے زیادہ بعید نہیں ہوگی، اگر چہ ہے یہ بھی باطل اور بد اہمیت کے خلاف،

رسفوہ گذشتہ کا عاشیر (لہ) مثلاً عشاءِ ربانی کی رسم میں کیتھوں کف فرقہ یہ کہتا ہے کہ روٰنی فوراً مسیح کا بدن بن جاتی ہے اور پروٹست اس بات کو خلاف عقل فرار دیتے ہیں، انہیں تلقی لہ لاہوتی کے معنی "خدائی" اور "ناسوتی" کے معنی "ذمہ طبیعت" کے ہیں، میاٹھوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح میں "لاہوتی" اور "ناسوتی" دونوں کیفیتیں جمع ہیں، اس لئے کہ وہ معاذ اللہ اصل میں نہ انتھے، جو انسانی شکل میں آئے تھے، انہی میں درمذقوس روٰنی کو بھی خدا مانتا پڑے گا، اور خداوں کی تعداد لاکھوں کر درہ دن سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ معاذ اللہ ۱۷ تلقی

دوسری دلیل مسیحؑ کا بیک وقت متعدد مقامات پر اپنی لاہوتی صفت کے ساتھ موجود ہونا اگرچہ عیسائیوں کے نظریہ میں ممکن ہے، مگر ناسوتی طور پر غیر ممکن ہے، کیونکہ اس لحاظ سے مسیحؑ ہمارے جیسے انسان ہیں، یہاں تک کہ ان کو بھوک بھی نہیں ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ سوتے بھی ہیں، یہودیوں سنتے ڈستے اور بجاگئے بھی ہیں، علی ہذا القیاس اس معنی کے لحاظ سے ان کا متعدد مقامات پر وجود ہونا ایک ہی جسم کے ساتھ حقیقتاً کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟

زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ عودج آسمانی سے پہلے حضرت مسیحؑ کے لئے کبھی یہ ممکن نہیں ہوا کہ وہ بیک وقت دو جگہوں پر پائے جاتے چہرہ جائیک لامتناہی جگہوں میں عودج آسمانی کے بعد عرصہ دراز تک بھی یہ ممکن نہ ہوا، پھر صدیوں کے بعد یہ فاسد عقیدہ جب کھڑا گیا تو مسیح کا ایک آن میں بے شمار مقامات پر موجود ہو جانا کیونکہ ممکن ہو گیا؟

تمپیسری دلیل جب ہم یہ فرض کر لیں کہ دنیا میں لاکھوں کا ہن ایک آن میں مقدس بن جاتی ہے جو کنواری مریمؑ سے پیدا ہوئے تھے تاب یہ معاملہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو ان تمام مسیحیوں میں ہر ایک دوسرے کا یعنی ہے یا غیر دوسری صورت کے خود عیسائی حضرات قائل نہیں، وہ ان کے نزدیک بھی باطل ہے، اور پہلی صورت نفس الامر میں باطل ہے، کیونکہ برا بیک کا مادہ دوسرے کے مادہ سے مغاییہ ہے۔

چھوٹی دلیل جب وہ روٹی کا ہن کے باہم میں مسیح کامل بن جاتی ہے، پھر وہ کر دیتا ہے، تو وہ حال سے خالی نہیں، یا تو خود میسیح کے بھی اتنے ہی تکڑے ہو جاتے ہیں جس قدر تعداد روٹی کے تکڑوں کی ہے، یا پھر ہر تکڑا علمدار خود مشتعل ہے جو اس کے عیسائی عقیدہ یہی ہے کہ دنیا میں جس جگہ بھی عشا دربانی کی رسم ادا کی جاتی ہے مسیحؑ دہاں آموجہ ہوتے تھے۔

کامل مسیح بن جاتا ہے، پہلی صورت میں جو شخص ان مکڑا دیں ہیں۔ وہ کامل مسیح کو لکھنے والا نہیں کہلا سکتا، دوسری شکل میں مسیحون کی اتنی تبری پلٹن کہاں سے نکل آئی؟ کیونکہ اس نذرانے سے تو ایک ہی مسیح پیدا ہوا تھا،

پا پخوریں دلیل | عشاء رباني کا جو واقعہ مشریع کو رسولی پریجانے سے کچھ پہلے پیش آیا تھا اگر اسکی تیک وہ قربانی حاصل ہو گئی تھی جو صدیب پر نکلنے سے حاصل

ہوئی تو اس کی کیا ضرورت تھی کہ دوبارہ یہودیوں کے ہاتھوں مکڑی پر رسولی دی جائے، کیونکہ مسیح کے دنیا میں آنے کا مقصد و حیر عیسائی نظریہ کے مطابق صرف یہ تھا کہ ایک بار قربانی دے کر دنیا کو چھٹکارا مل جائے، ان کی آمد اس لئے نہیں تھی کہ بار بار تکلیف اٹھائیں جیسا کہ اس پر عبرانیوں کے نام خط باب کی آخری عبارت دلالت کر رہی ہے،

چھٹی دلیل | اگر عیسائیوں کا دعاوی درست ہے تو لازم آئے گا کہ عیسائی یہودیوں سے زیادہ خبیث شمار کئے جائیں، کیونکہ یہودیوں نے مسیح کو صرف

ایک بار ہی دکھ دیا تھا، اور دکھ دے کر چھوڑ دیا، یہ نہیں کہ ان کا گوشت بھی کھایا ہوا سکے بر عکس عیسائی لوگ روزانہ بے شمار مقامات پر مسیح کو تکلیف پہونچاتے اور ذبح کرتے ہیں، اگر ایک بار قتل کرنے کا ادا کافرو ملعون قرار دیا جاتا ہے تو ان لوگوں کی نسبت کیا کہا جائے گا جو مسیح کو روزانہ بے شمار دفعہ ذبح کرتے ہیں اور صرف اسی پر اکتفاء نہیں کرتے، بلکہ اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور خون بھی پینتے ہیں، خدا کی پناہ ہے ایسے معبود خوروں سے جو اپنے خدا کو کھا جاتے ہیں، اور حقیقتاً اس کا خون پینتے ہیں، پھر جب ان کے ہاتھوں ان کا کمزور دمکین خدا تمک نہ پسخ سکا تو ایسے ظالموں سے کون پسخ سکتا ہے،

لہ میں بھی ایک بار بہت لوگوں کے لئے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لئے ان کو دکھائی دے گا جو اسکی راہ دیکھتے ہیں (دعا ۹: ۲۸) تھے بلکہ اب (۱۹۶۵ء میں) تو عیسائی اُر جانے یہودیوں سے دوستی کے بعد بڑی وضاحت سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہاں سے یہودیوں کا حضرت مسیح کے قتل میں چندان دخل نہیں ہے، اب انھیں اس سے کیا بحث کر خود باشبل کیا کہتی ہے اس لئے کہ باشبل تو ان کے نزدیک ایک ایک ہوم کی گڑیا ہے

جس طرح چاپا تو ڈھونڈ دیا، غور فرمائیئے کہ یہ کیا مذہب ہے کیا دین ہے؟ توبہ، ۱۲ ترقی

خداون کے پڑوس سے بھی دور رکھے، کہنے والے نے اسی موقع کے لئے غائب کہا ہے اور خوب کہا ہے کہ:- ”نادان کی دوستی سراسرا دشمنی ہے“

توبیں ولیل وقا کے بابت میں میشح کا قول عشاء ربانی کی نسبت یوں بیان کیا گیا ہے کہ:-

”میری یادگار،) کے لئے یہ کیا کر دا۔“

اب اگر اس عشاء کا مصدق اق بعینہ قسر بانی ہے تو پھر اس کا یادگار اور یاد دہانی کرنے والا ہونا صحیح نہیں، میکونکہ کوئی شے خود اپنی ذات کے لئے یاد دہانی کر نیوالی نہیں ہو سکتی، پھر جن داشمندوں کا حال یہ ہے کہ محسوسات میں بھی اس قسم کے ادھام کا داخلہ ان کی عقل سليم جائز قرار دیتی ہے، اگر ایسے لوگ خدا کی ذات یا عقليات میں بھی توہمات کاشکار ہو جائیں تو ان سے کیا بعید ہے؟ مگر ہم اس سے قطع نظر کرتے ہوئے علماء پرنسپٹ کے مقابلہ میں سکتے ہیں کہ جس طرح یہ سب لوگ جو تمہارے نزدیک عقولاء ہوتے ہوئے ایسے عقیدہ پر جو حس اور عقل کے نزدیک قطعی غلط اور باطل ہے محض آباؤ اجداد کی تقليد میں، یا کسی دوسری غرض کے ماتحت، متفق ہو گئے، اسی طرح عقیدہ تثیث جیسے دشمن عقل عقیدے پر ان کا اور تمہارا متفق ہو جانا کیا مشکل ہے جو حس اور دلائل دبراہیں کے بھی خلاف ہے، اور ان بے شمار عقولاء کے نزدیک بھی جن کا نام تم نے بد دین اور ملحد رکھ چھوڑا ہے، اور جن کی تعداد اس دور میں نہ صرف تمہارے فرقے سے زیادہ ہے، بلکہ رومیوں کے فرقے سے بھی، حالانکہ تمہاری طرح وہ بھی عقولاء ہیں، تمہاری ہی جنس کے لوگ ہیں، تھاں اہل وطن بھی ہیں، اور تمہاری طرح وہ بھی عیسائی ہی تھے، مگر انہوں نے مذہب عیسیوی کو اس قسم کی لغو باتوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، اور وہ ان باتوں کا اس قدر مذاق اڑاتے ہیں کہ اس قدر مذاق شاید ہی کسی چیز کا اڑایا جاتا ہو، ان کی کتابوں کے

لئے ان لوگوں سے مراد آزاد خیال (FREEHOMES) یا عقليت پسند (RATIONALISTS) لوگ ہیں، جنہوں نے عیسائیت کے ان عقیدوں کو عقل کے خلاف پاگر مذہب کے خلاف ہی علم بغاوت بلند کر دیا تھا ۱۲ تقریباً

پڑھنے والوں سے یہ چیز مخفی نہیں ہوگی،
نیز اس عقیدے کے منکرین میں فتسر یونی ٹیرین بھی ہے جو عیسایوں کا ایک بڑا
فتشر ہے، اور مسلمان اور تمام یہودی الگھے ہوں یا پچھلے سب ان چیزوں کو پریشان
خیالات سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھتے،

میسیح اسلام کے کلام میں اجمال کی مثالیں

چھٹی بات

میسیح کے کلام میں بے شمار اجمال پایا جاتا ہے، اس درجہ کا کہ اکثر اوقات انکے
مخصوص شاگرد اور معاصرین بھی ان کی بات کو سمجھنے نہیں پاتے تھے، جب تک خود میسیح ہی
اس کی وضاحت نہ کر دیں، پھر جن اقوال کی تفسیر میسیح نے کر دی تھی اس کو تو وہ لوگ
سمجھ گئے، اور ان میں سے جن اقوال کی تفسیر نہ کر سکے تھے عرصہ دراز کی کوشش کے بعد
ان میں سے بعض کو سمجھ سکے، پھر بھی بعض اقوال آخر تک مبہم اور محل رہی رہے، جس
کی مثالیں بکثرت موجود ہیں، ان میں سے بعض مثالوں کے بیان پر ہم اتفاقہ کرتے ہیں:-

پہلی مثال میسیح دن کی فرمائش کی، تو آپ نے ان سے فرمایا:-

”اس مقدس کو ڈھار د تو میں سے تین دن میں کھڑا کر دوں گا، یہودیوں نے کہا چھیاں
برس میں یہ مقدس بنائے، اور کیا تو لے سے تین دن میں کھڑا کر دے گا؛ مگر اس نے
اپنے بد ن کے مقدس کی بابت کہا تھا، پس جب وہ مردؤں میں سے جی اٹھا تو
اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس
اور اس قول کا جو یہ نے کہا تھا (یعنی کیا؟)

غور فرمائیے کہ اس جگہ خو میسیح علیہ السلام کے شاگر بھی ان کی بات کو نہیں
سمجھے۔ یہودی تو کیا سمجھتے، شاگردوں نے بھی اس وقت سمجھا جب حضرت میسیح

دوبارہ زندہ ہوئے۔

دوسری مثال [سیح نے نیکد میں عالم یہود سے فرمایا:-
”جب تک کوئی نئے سے سے پیدا نہ ہو و خدا کی بادشاہی کو دیکھ
نہیں سکتا۔“]

نیکد میں **میشیح** کا مطلب نہیں سمجھ سکا، اور کہا کہ کسی ایسے شخص کے لئے جو بوڑھا ہو چکا ہو کیونکر ممکن ہے کہ وہ پھر پیدا ہو، کیا اس کو اس امر کی قدرت ہے کہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو جائے، اور دوبارہ پیدا ہو؟ ایسے **میشیح** نے اس کو دوبارہ سمجھا، اس دفعہ بھی وہ ان کا مطلب نہیں سمجھ سکا، اور یہی کہا کہ ایسا کیونکر ممکن ہے؟ تب **میشیح** نے کہا تجھ ب ہے کہ تم اسرائیل کے استاد اور معلم ہوتے ہوئے اتنی بات نہیں سمجھ سکے۔ یہ واقعہ تفصیل سے انجلیل یوحنا کے بات میں مذکور ہے،

تیسرا مثال [میشیح نے یہودیوں سے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، اگر کوئی شخص اس روٹی سے کچھ کھائے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ روٹی جو میں دوں گا وہ میرا جسم ہے، یہ یہودی آپس میں جگڑنے لگے کہ یہ بات کس طرح ہو سکتی ہے کہ وہ ہم کو اپنا جسم کھانے کے لئے دیے، تب **میشیح** نے ان سے کہا کہ اگر انسان کے بیٹھے کا جسم نہیں کھاؤ گے اور اس کا خون نہیں پیٹھے گے تو تم کو حیات نصیب نہیں ہو گی، جو شخص میرا جسم کھائے گا وہ میرا خون پیٹھے گا اس کو دائمی زندگی حاصل ہو گی، کیونکہ میرا جسم سچا کھانا اور میرا خون سچا پینا ہے، جو شخص میرا جسم کھائے گا اور میرا خون پیٹھے گا وہ مجھے میں سما جائے گا، اور میں میں سما جاؤ گا، جس طرح مجھ کو میرے زندہ باپ نے بھیجا ہے اور میں اپنے باپ سے زندہ ہوں، پس جو شخص مجھ کو کھائے گا وہ میرے ساتھ زندہ رہے گا، تب **میشیح** کے بہت سے شاگردنکنے لگے کہ اس بات کو سننے کی کس کو قدرت ہے؟ اس لئے بہت سے شاگرد اس کی رفاقت سے علیحدہ ہو گئے، یہ قصہ مفصل طور پر انجلیل یوحنا بات میں مذکور ہے، اس موقع پر بھی یہودی **میشیح** کی بات کو قطعی نہیں

سمجھ سکے، بلکہ شاگردوں نے بھی اُسے دشوار اور چیزیں خیال کیا، جس کے نتیجہ میں ان میں سے بہت سے لوگ مرتد ہو گئے ہیں۔

چوتھی مثال [انجیل یوحنا باب آیت ۲۱ میں ہے :-]

”اس نے پھر ان سے کہا میں جاتا ہوں، اور تم مجھے ڈھونڈ دے گے اور اپنے گناہ میں مر دے گے، جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، لیں یہودیوں نے کہا کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے“ (رآیات ۲۲، ۲۱)

پانچویں مثال [انجیل یوحنا باب آیت ۱۵ میں ہے :-]

”میں تم سے پسخ پسخ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت نہیں دیکھے گا، یہودیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تم میں بد روح ہے، ابر ہام مر گیا، اور بنی مر کے ہی، مگر تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کا مزہ نہیں چکھے گا“

دیکھئے! یہاں یہودی اُن کی بات نہیں سمجھ سکے، بلکہ انھیں مجنون تک کہہ دیا،

چھٹی مثال [انجیل یوحنا باب آیت ۱۱ میں ہے کہ :-]

”اس کے بعد اس سے کہنے لگا کہ یہاڑا دوست لعزر سو گیا ہے، میں اُسے جگانے جاتا ہوں، لیں شاگردوں نے اس سے کہا کہ اے خداوند اگر سو گیا ہے تو پسخ جائے گا، یسوع نے اسکی موت کی بابت کہا ہے مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا“ (رآیات ۱۱، ۱۲)

یہاں جب تک شیخ نے خود وحاحت نہ کی شاگرد سمجھی ان کی بدت نہ سمجھے،

سالویں مثال [انجیل متی باب آیت ۴ میں ہے :-]

”یسوع نے اس سے کہا جردار فریسیوں اور صدقیوں کے لئے اس واقعہ کا خلاصہ مصنف? نے یہاں لپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، انجیل کی عبارت بہت طویل ہے۔“

”لہ لعزر“ یہ دہی شخص ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھم خداوندی مرنے کے بعد زندہ کیا تھا ۱۲ ترقی

کہ فریسی (PHARISEES) یہودیوں کا ایک فرقہ جو اپنے آپ کو ”ہیسی دم“، ”معنی مقدس“ لوگ کہتا تھا
HASIDIM

خیر سے ہو شیار رہنا، وہ اپنے میں چرچا کرنے لے گے کہ ہم روٹی نہیں لائے، بیسوع نے یہ معلوم کر کے کہا اے کم اعتقاد و اتم آپس میں کیوں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا؟ فریضیوں اور صدقیوں کے خیر سے خبردار ہو، تب ان کی سمجھی میں آیا کہ اُس نے روٹی کے خیر سے نہیں بلکہ فریضیوں اور صدقیوں کی تعلیم سے خبردار ہے کہ کہا تھا:

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس موقع پر بھی مسیح کے شاگردان کی تنبیہ کے بغیر ان کا مقصد نہیں سمجھے کے،

امثال میں مثال [انجیل وقا باب آیت ۵۲] میں اس لڑکی کا حال بیان کرتے ہوئے

جس نے حضرت مسیح نے بحکم خداوندی زندہ کیا تھا یوں کہا گیا ہے:-

”اوہ سب اس کے لئے روپیٹ رہے تھے، مگر اس نے کہا روٹی نہیں، وہ مر نہیں گئی، بلکہ سوتی ہے، وہ اس پر ہفتے لگے، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی۔“

اس موقع پر بھی کوئی شخص حضرت مسیح کی صحیح مراد نہ سمجھ سکا، اس لئے ان کا مذاق اٹا یا،

[انجیل وقا باب ۹] میں حواریوں سے خطاب ہے:-

تو میں مثال ”تمہارے کالوں میں یہ باتیں پڑھی ہیں، کیونکہ ابن آدم آدمیوں

(گذشتہ سے پورستہ)، مگر باطل میں انھیں فریضی بمعنی ”علیحدہ کئے ہوئے“ کہا گیا ہے، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کافروں سے کلی طور پر مقابلنہ کر کے خطا کے احکام سے متقبیانہ حد تک وابستگی رکھتے ہیں، مگر نولت کی ردح کے خلاف کام کرتے تھے، یوسفیس کا ہنابے کہ انہوں نے پچھہ بہار اور کمان پر مشتمل ایک مذہبی جماعت بنائی ہوئی تھی، یہ لوگ صدقہ و قیوں کے برخلاف قیامت کو ردح اور فرشتوں کے وجود کے نائل تھے، (اعمال ۸: ۲۳) حضرت میسیح سے اسی کے کئی مناظرے ہوتے، انہوں نے ان کے خلاف سازشیں کیں (متی ۱۲: ۱۲، مرقس ۳: ۶) حضرت میسیح نے ان کے بڑے کرتوں کو گنو اکران پر ملامت کی (متی باب ۱)، مزید تفصیلات کیلئے دیکھئے کنکار و نسر اور تاب الخلدا لمقرنہ مسیحی تواریخ ص ۲۷۰

کے ہاتھ میں حوالہ کے جانے کو ہے، لیکن دو اس بات کو سمجھتے نہ تھے، بلکہ یہ ان سے پہلائی کوئی تاکر اُسے معلوم نہ کریں اور اسی بات کی بابت اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے: «یہاں بھی حواری آپ کی بات نہ سمجھ سکے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ڈر کے اسے پوچھا بھی نہیں۔

دوسری مثال | انجیل موقا باب ۱۸ آیت ۱۴ میں ہے:-

«چیرا اس نے ان بارہ کوستھے کے کراؤں سے لہا، دیکھو ہم یو شد کو جاتے ہیں، اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں، اب ان آدم کے حق میں پوری ہوں گی، کیونکہ وہ غیر قوم والوں کے حوالہ کیا جائے گا، اور لوگ اس کو تھٹھوں میں اٹا میں، اور یہ عوت کریں گے، اور اس پر تھوکیں گے، اور اس کو کوڑے ماریں گے، اور قتل کریں گے، اور وہ تیسرے دا، جی اٹھئے گا، لیکن انہوں نے ان میں سے لوٹی بات نہ سمجھی، اور یہ قول ان پر پوشیدہ رہا، اور ان بالوں کا مطلب اُن کی سمجھ میں نہ آیا:» (آیات ۱۴ تا ۲۳)

اس مقام پر بھی حواریوں نے مسیح ع کی بات نہیں سمجھی، حالانکہ یہ دوسری بار سمجھایا گیا تھا، اور بظاہر کلام میں کوئی اجمال بھی نہ تھا، غالباً نہ سمجھنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے یہودیوں سے سننا تھا کہ مسیح ع عظیم الشان پادشاہ ہوں گے، پھر جب وہ علیعہ پر ایمان لائے اور ان کے مسیح ہونے کی تصدیق کی تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ عقریب شاہانہ تخت پر رونق افسر و ز ہونے گے، اور ہم بھی شاہی تخت پر جگہ پائیں گے، کیونکہ مسیح ع نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگ بارہ تختوں پر بیٹھ سے گے، اور ان میں سے ہر ایک بنی اسرائیل کے ایک ایک فرقہ پر حکمرانی کرے گا، ان لوگوں نے سلطنت سے مراد نیوی سلطنت لی تھی، جیسا کہ ظاہر بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اور یہ کلام ان کے اس خیال اور نظریہ اور توقعات کے عین مخالف تھا، اس لئے وہ اس کو نہ سمجھ سکے، عقریب آپ کو معلوم ہو گا کہ حواری اس قسم کی توقعات رکھتے تھے،

اس اجمال کی وجہ سے کئی چیزیں علیساً یوں پر مشتمل ہو گئیں | ایسے میسیح کے شاگردوں

پران کے بعض اقوال کی وجہ سے دو چیزوں مشتبہ ہیں گئیں، اور یہ اشتباہ مرتبے دم سک تمام یا اکثر عیسائیوں سے دور رہ ہو سکا۔

۱ ان کا اعتقاد تھا کہ یو ہنا قیامت تک نہیں مرے گا،

۲ ان کا عقیدہ تھا کہ قیامت ان کے زمانہ میں واقع ہو گی، جیسا کہ تفضیل سے باب میں معسوم ہو چکا ہے،

اور بات یقینی ہے کہ عینی کے بعدیہ الفاظ کسی انجیل میں بھی محفوظ نہیں رہے۔ بلکہ سب انجیلوں میں ان کا وہ یونانی ترجمہ ہے جو زادیوں نے سمجھا تھا، مقصود اشہاد نمبر ۸ باب ۳ میں یہ بات تفصیل سے آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ اصل انجیل تو موجود نہیں، بلکہ اس کا ترجمہ ہے، اور وہ بھی ایسا کہ اس کے مترجم کا آج تک یقین کے ساتھ پڑھنا تک نہیں معلوم ہو سکا، اور کسی سند متصل سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ باقی کتاب میں جن اشخاص کی طرف منسوب ہیں وہ واقع ان کی تضییف کر دہ ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ان کتابوں میں یقینی طور پر تحریف واقع ہوتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ کر دیندار یا دیانت دار طبقہ کسی مقبول مسئلہ کی تائید کے لئے یا سی اعتراض سے بچنے کے لئے جان بوجھ کر ہمیشہ تحریف کرتا رہا ہے۔

پیر مقصود نمبر ۲ شاہ نمبر ۲۴۱ میں ثابت ہو چکا ہے کہ اس مسئلہ میں بھی تحریف واقع ہوتی ہے، پیغام پر یو ہنا کے پہلے خط باب ۷ میں اس عبارت کا اضافہ کیا گیا ہے کہ آسمان میں گواہ تین ہیں، باپ، کلمہ اور روح القدس، اور یہ تینوں ایک ہیں، اور

زین کے ۳

اس طرح انجیل تو قاکے باب میں کچھ الفاظ ڈھائے گئے اور انجیل میں باب نمبر سے بعض الفاظ کئے کئے، انجیل تو قاکے باب سے ایک پوری آیت کو ساقط کر دیا گیا، الیٰ شکل میں اگر صحیح کے بعض مشتبہ اقوال تسلیث پر دلالت کرنے ہوئے پائے جائیں اعتماد کے قابل نہیں ہو سکتے خصوصاً جب کہ وہ اپنے مفہوم میں صریح اور واضح بھی نہ ہوں، جیسا کہ ابھی بارہویں بات کے لئے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مقدمہ ص ۱۶۹ اور جلد ہذا صفحہ ۷۸۱

ضمن میں آپ کو معلوم ہو گا،

عقلی حالات و اقتنی ناممکن ہیں تلویں بات

کبھی کبھی انسانی عقل بعض چیزوں کی مہیت اور انکی پوری حقیقت کا دراک کرتے سے فاصلہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس کے امکان کو تسلیم کرتی ہے، اور اس کے موجود ہونے بہت اہل لازم نہیں آتا، اسی وجہ سے ایسی چیزوں کو ممکنات میں شمار کیا جاتا ہے۔

اسی طرح کبھی کبھی بدراہستہ یا کسی عقلي دلیل کی بناء پر بعض اشیاء کے ممتنع ہونے کا ہماری عقل فیصلہ کر لیتی ہے، اور عقل ایسی چیزوں کا وجود محل کو مستلزم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسی چیزوں کو محل اور ناممکن شمار کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں کھلا ہوا فرق ہے۔ حقیقی اجتنام ارجاع نقیضین اور ارتفاع نقیضین میخملہ دوسری قسم کے ہیں، اسی طرح حقیقی و خدعت و کثرت کا اجتماع کسی شخصی مادہ میں ایک ہی زمانہ اور ایک ہی جمیت سے یہ بھی ممتنع ہے، اسی طرح زوجیت اور فردیت کا اجتماع یا افراد مختلفہ کا اجتماع یا اجتماع صندیں، جیسے روشنی اور تاریخی، سیاہی اور سپیدی، گرمی اور سختی، خشکی اور تری، اندھائیں اور بینائیں، سکون اور حرکت، یہ سب چیزوں میں ایک مادہ شخصی میں زمان و جمیت کے اتحاد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں، ان اشیاء کا استعمال ایسا بدیہی ہے کہ ہر عقلمند کی

لئے اجتماع نقیضین کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزوں کا ایک وجود میں جمع ہو جانا جو باہم متناقض اور متنسل ہیں، مثلاً "انسان" اور "غیر انسان" کوئی وجود دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا جسے انسان اور غیر انسان دونوں کہا جاسکے، اس کے برعکس "ارتفاع نقیضین" کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وجود ایسی دونوں چیزوں سے خالی ہو، یہ بھی محال ہے، عقل ایسے ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز نہ انسان ہو اور غیر انسان، مثلاً اگر زیر غیر انسان نہیں ہے تو انسان ہے اور پتھر انسان نہیں ہے تو غیر انسان ہے، یہ دونوں علم منطق کی اصطلاح ہیں، اور ان کا باطل اور ناممکن ہونا وہاتفاقی مشدہ ہے جس پر اجتنام کسی ایک متنفس کا اختلاف نہیں ہوا، ۱۲

عقل اس کا بھی فیصلہ کرتی ہے، اسی طرح دور و تسلسل^{۱۷} کا لازم آنا بھی محال ہے، کہ اس کے بطلان پر عقلی دلائل قائم ہیں،

وَوَدِيلُوں میں تعارض ہوتا کیا کرنا چاہیے ما آٹھویں بات

جب دو باتوں میں تعارض پیش آجائے اور کوئی تاویل ممکن نہ ہو تب تو دونوں کو ساقط کرنا ضروری ہوتا ہے، اور نہ دونوں میں تاویل کی جاتی ہے، مگر ایسی تاویل ضروری ہے جس سے کوئی محال لازم نہ آتا ہو، مثال کے طور پر جو آیات خدا کے جسمانی اور شکل و صورت والا ہے پر دلالت کرتی ہیں، وہ ان آیتوں کے معارض ہیں جو خدا ہے تعالیٰ کا جسم اور شکل و صورت سے پاک ہونا ظاہر کرتی ہیں۔ اس لئے ان میں تاویل کرنا ضروری ہے جیسا کہ تیسری بات میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ یہ تاویل نہ ہو کہ خدا ہے تعالیٰ دونوں صفتتوں کے ساتھ متصف ہیں، جسمیت کے ساتھ بھی اور تشریزیہ کے ساتھ بھی، اگر کوئی شخص عقل کے خلاف یہ بات کہے تو یہ تاویل غلط اور قابلِ رد ہے جو تن افاض کو ختم نہیں کرتی،

تین کبھی ایک نہیں ہو سکتے عدد پونکہ "کم" کی ایک قسم ہے اس لئے کبھی بھی قائم بالذات نہیں ہو سکتا بلکہ ہمیشہ قائم نویں بات

و حدت کا معرض ہوتا ضروری ہے، اور هر ذات موجود جو امتیازِ حقیقی کے ساتھ ممتاز ہے اور مشخص بالشخص ہے اس کے نئے ضروری ہے کہ وہ حقیقی کثرت کا معرض ہو۔ پھر جب وہ کثرت کا معرض بن چکا تو پھر کسی طرح حقیقی وحدت کا معرض بننے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، اور نہ حقیقت اجتماعِ ضدیں لازم آئے گا، جیسا کہ ساتویں بات میں معلوم ہو چکا ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وحدت اعتباری کا اس

لہ دوڑ کی تعریف پھیپھی گزرا چکی ہے (دیکھئے حاشیہ صفحہ) اور تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا اس طرح غیر متناپی ہونا کہ اس کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہ ہو، یہ چیز بھی تمام عقلاء کے نزدیک محال ہے، ۱۲ تقویٰ تھے دیکھئے صفحہ ۱۵۳، ۱۵۵، ۸۵۵ جلد مذا ،

طرح معروض بن سکے کے مجموعہ حقیقتاً کثیر اور واحد اعتبار طبق ہو
عیسائی حضرات توحید کو بھی حقیقتی ہم میں اور اہل تشییث میں اس وقت اختلاف
و نزاع پیدا نہیں ہوتا جب تک عیسائی حضرات
ماتحتہ ہیں اور تشییث کو بھی
تشییث و توحید دونوں کے حقیقی ہونے کا دھوئی
نہ کریں اور اگر دو تشییث کو حقیقی اور توحید کو
دو سیس بات

اعتباری ملتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے
ادران کے درمیان کوئی نزاع اور جھگڑا نہیں ہو سکتا، مگر وہ اپنے خداوؤں کے بارے میں حقیقی
توحید اور حقیقی تشییث کے مدعی ہیں جس کی تصریح علماء پر وشنٹ کی کتابوں میں موجود ہے
چنانچہ میزان الحق کے مصنف نے اپنے کتاب، حل الاشکال کے باب میں یوں کہا ہے کہ
”عیسائی توحید اور تشییث دونوں کے معنی حقیقی یہ محوال کرتے ہیں“

عقیدہ تشییث کی تشریح میں عیسائی علامہ مقرنی نے اپنی کتاب الخطوط
فرقوں کا اختلاف، گیارہویں بات میں اپنے زمانہ کے عیسائی فرقوں کا بیان
کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:-

لہ اس عبارت کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ عقلًاً کوئی چیز جو ایک سے زیادہ ہو وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتی،
مثلاً تین کتابوں پر اگر تین چونے کا حکم نکال دیا گیا تو وہ تین ہی ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ وہ ایک ہیں، مصنف نے اسی بات کو منطقی اصطلاحوں میں تصحیح کیا ہے جن کی تشریح یہاں تفصیل
طلب بھی اور یغیر ضروری بھی ۱۷

لہ کیونکہ ہم بھی یہ ملتے ہیں کہ تین چیزوں اعتبری طور پر ایک ہو سکتی ہیں، جیسا کہ منطق کا مسلم ہے
کہ کئی پیزوں کا مجموعہ ایک مستقل چیز ہوتی ہے، مقدمہ میں صفحہ ۳۲، ۳۳ پر ہم نے اسے اچھی طرح واضح
کر دیا ہے اسکی مراجعت فرمائیے،

لہ علامہ لقی الدین احمد بن علی مقرر ریزی رحمۃ اللہ علیہ میں پیدا ہوئے، زیادہ عمر قاہرہ میں
گذاری چند سال مکرہ میں بھی رہے، موئیین میں آپ کا ایک خاص مقام ہے، آپ کی کتاب الخطوط
مشہور عالم کتاب ہے، جس میں مصر سے متعلق بیشمار تاریخی، تاریخی اور اجتماعی معلومات جمع کر دی ہیں،

"عیسائیوں کے بیٹے شمار فرقہ ہیں، ملکانیہ، نسطوریہ، یعقوبیہ،

لہ ملکانیہ یا ملکانیہ، بادشاہی روم کی طرف منسوب ہیں، (دیکھئے الملل والخل شہرستانی، ص ۲۹۷)

اور غائب ان سے مرادر و من کی ختوں کے ہیں ۱۲

لہ نسطوریہ (NESTORIANS) قسطنطینیہ کے ایک مشہور فلسقی اور پیشک نسطوریوس کی طرف منسوب ہیں، جو پاپخونی مسیوی میں گذرا ہے، اس کاظمیہ تھا کہ مریم سے پیدا ہونیوالا مسیح تھا، اور خدا سے پیدا ہونیوالا از لی بیٹا مسیح کے اندر اس طرح حلول کر گیا جس طرح سورج کی روشنی بتور میں منعکس ہو جاتی ہے، اس لئے لاہوتی مسیح اور ناسوتی مسیح الگ الگ چیزیں ہیں، اس لئے مسیح کو خدا کی طرف سجدہ کرنا جائز نہیں، اس کے نظریات پر عور کرنے کے لئے شہر افسوس میں تیسری کافر ایجاد کی گئی، جس میں دو بوبشپ مشریک تھے، اس کو نسل نے نسطوریوس کو کافر قرار دیا لیکن انطاکیہ کا پیشک یونان اس کافرنیس میں مشریک میں نہ ہو سکا تھا اس لئے اس نے اس فیصلہ کی مخالفت کی، جس کے نتیجہ میں عرصہ دراز تک عیسائی علماء میں تفرقہ پڑا رہا، بالآخر ان پاڑیوں میں صلح ہوئی، تو بادشاہ نے نسطوریوس کو جلاوطن کر دیا، اور اُس نے ۲۵۱ء میں وہیں انتقال کیا، اس کے بعد سے نسطوری فرقہ کے لوگ شام، ترکی، اور ایران کے غیر متمدن علاقوں میں وحشیانہ زندگی بس کرتے رہے، اب تک ان لوگوں کے کلیسا بے انتہا بد صورت اور اندھیرے ہوتے ہیں، یہ فرقہ اکثر دیشیت تعلیم سے دور رہا، (ملاحظہ ہو انسائیکلو پیڈیا یا، ص ۲۴۶، ۲۴۷ ج ۱۶، مقالہ NESTORIANS اور الملل والخل شہرستانی ص ۳۳۰، ۳۵۰ ج ۲ قاہرہ ۱۹۲۸ء، المخطط

المقريزیہ ص ۳۸۹ ج ۳

لہ یعقوبیہ (JACOBITES) یہ فرقہ یعقوب بر ذعنی JAMES ARADAEUS

کی طرف منسوب ہے، جو نہیں سے کچھ قبل پیدا ہوا تھا، اس کاظمیہ تھا کہ مسیح جس طرح دو جوہر دن سے ملکر بنایا ہے ایک لاہوتی اور ایک ناسوتی، اسی طرح وہ دو مستقل اقوام پر بھی شتمی ہے، یہ عقیدہ تمام عیسائیوں کے اس لئے خلاف تھا کہ وہ مسیح کو دو جوہر تو مانتے ہیں، مگر دو اقوام ہیں مانتے، بعد میں اس فرقہ کے افراد نے اور فلوکر کے یہ کہا کہ مسیح ہی اللہ کی ذات ہے مسیح میں اور اس میں کوئی فرقہ نہیں، (دیکھئے بیانیکا ص ۳۵۹ ج ۱۲ شہرستانی ص ۳۸۸ ج ۱ ابن خلدون، ع ۲۲۵، رج ۱۵ حرم ص ۳۹۷ ج ۱)،

یو ذ عائیہ، مرقولیہ لعینی رہاوی جو حران کے قریب آباد تھے وغیرہ دفیرہ ”
پھر فرماتے ہیں کہ ۱۔

”ملکانیہ، نسطوریہ، یعقوبیہ تیوں اس پر متفق ہیں کہ ان کا معبود نین افnom ہیں، اور
یہ تیوں افnom ایک ہی ہیں، یعنی جو ہر قدیم، جس کے معنی ہیں باپ، بیٹا، روح القدس
مل کر ایک معبود“

پھر فرماتے ہیں کہ ۲۔

”ان کا بیان ہے کہ بیٹا ایک پیدا شدہ انسان کے ساتھ متعدد ہوگی، اور متعدد ہونے
 والا اور جس کے ساتھ متعدد ہوادنوں مل کر ایک مسیح بن گیا، اور مسیح ہی بندوں کا
معبود اور ان کا رب ہے، اب اس اتحاد کی کیفیت اور نوعیت میں ان کے درمیان
اختلاف ہے، بعض عیسایوں کا نزیر دعویٰ ہے کہ جو ہر لاء ہوتی اور جو ہر ناسوتی
میں اتحاد ہوا اور اس اتحاد نے دونوں کو اپنی اپنی جو ہریت اور عرضہ نیت خارج
نہیں کیا، اور مسیح رب معبود بھی ہے اور مریم کا بیٹا بھی جوان کے پیٹ میں رہتا
اور جس کو اُس نے جنمطا اور جو قتل کر کے شولی دیا گی،

کچھ عیسایوں کا دعویٰ یہ ہے کہ متعدد ہونے کے بعد دو جو ہر ہو گئے، ایک لاء ہوتی
اور دوسری ناسوتی، اور قتل اور سولی کے واقعات کا تعلق مسیح کی ناسوتی جہت سے
ہے لاء ہوتی نے نہیں، مسیح جو مریم سے پیدا ہوئے یہ بھی ناسوتی کیفیت کے اعتبار
سے، یہ نظریہ نسطوریوں کا ہے، یہ ہے کہ مسیح پورا کا پورا الٰہ معبود ہے، اور
خدا کا بیٹا ہے،

بعض عیسایوں کا نظریہ یہ ہے کہ اتحاد دو چیزوں میں واقع ہوا، یعنی جو ہر لاء ہوتی
اور جو ہر ناسوتی میں، اور جو ہر لاء ہوتی بیط وغیر منقسم ہے، کچھ عیسایوں کا
عقیدہ یہ ہے کہ اتحاد اس طرح ہوا کہ پیٹے کا افnom جسم میں حلول کر گیا، اور گھل مل گیا،
لہ یو ذ عائیہ، علامہ مقریبی نے اس کو عیسایوں میں شمار کیا ہے، لیکن علامہ شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ
میں شمار کرتے ہیں۔ المل، ص ۲۵ (ج) ہمیں تحقیق نہیں پوسکی کہ ان میں سے کون سا بیان درست ہے،

بعض کا خیال یہ ہے کہ اتحاد صرف ظاہر کے لحاظ سے ہے، جیسے انگلیکھی کی سحر بریا نقش و نگار موم پر قسم ہو جاتا ہے، یا انسان کی شکل آئینہ میں نمایاں ہوتی ہے۔

غرض اس مسئلہ میں ان کا باہم سخت اختلاف ہے، فرقہ ملکانیہ رومی بادشاہ کی طرف منسوب ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا تین معانی کا نام ہے، اس لئے وہ تین ایک اور ایک تین کے قائل ہیں،

یعقوبیہ کی گوہر فشانی یہ ہے کہ وہ فاحمد قدیم ہے، وہ نہ جسمانی سخانہ انسان پھر مجتبیہ سمجھی بنا، اور انسان سمجھی،

مرقولیہ کی نازک خیالی یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا علم اس کا بغیر اور اس کے ساتھ قدیم ہے۔ اور مسیح اس کا جسمانی بیٹھا ہنسیں، بلکہ، بلکہ از روئے شفقت درجت بیٹھا کہنگیلے ہے، جس طرح ابراہیم کو خدا کا دوست کہا جاتا ہے:

ناظر بن کو عیا یثوں کے ان عالی دماغ فرقوں کی موشگانی سے اندازہ ہو گیا ہو گا کہ ان کی نیئی اقوام ابن اور جسم مسیح کے درمیان پائے جانے والے اتحاد کی نسبت کس قدر مختلف ہیں؟ اسی وجہ سے قدیم اسلامی کتابوں میں آپ کو مختلف دلائل نظر آئیں گے، مرقولیہ کے اس عقیدہ میں ان سے ہمارا اختلاف و نزاع صرف اس قدر ہے کہ وہ ایک ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جو مشرک کا دہم پیدا کرنے والا ہے، چونکہ فرقہ پر و تشنٹ نے دیکھ لیا تھا کہ اتحاد کا نظر یہ سراسر واضح طور سے فاد کا موجب ہے، اس لئے انہوں نے اپنے اسلاف کی رائے کو چھوڑ کر سکوت کے سوا اور کسی صورت میں اپنے لئے پناہ نہیں سمجھی، اور علاقہ اتحاد کی توضیح کرنے اور اقانیم ملاشہ میں اتحاد کی وضاحت کرنے سے خاموشی اختیار کی،



لئے کتاب الخطوط المقررہ نمبر ۷، ۱۹۰۸ء، ج ۳ طبع لبنان ملہ کیونگر قولیہ فرقہ حضرت مسیح کو صرف اس لحاظ سے خدا کا بیٹھا کہتا ہے کہ اللہ ان پر ایسے ہی شفیق دمہران ہیں جیسے کہ باپ بیٹے پر ہوتا ہے ۱۶

پچھلی متوں میں کوئی تسلیث کا قائل نہ سمجھا

[آدم سے کریمہ سلیمانیہ کی گذشتہ امور اور قوموں میں سے کسی بار ہوئیں بات] ایک نے بھی تسلیث کے عقیدہ کو اختیار نہیں کیا، کتاب پیدائش کی بعض آیتوں کا سہارا لے کر اہل تسلیث کا استدلال ہمارے خلاف قابل پیش رفت نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں یہ اس کے معانی کی تحریف ہے، اور ان کے استدلال کے

لئے مثلاً عبادت حضرات حسین آیت ہے:- سب سے زیادہ ذکرتے ہیں وہ پیدائش کی یہ آیت ہے:-

«پھر خدا نے کہا کہ ۱۰۰ ان کو اپنی صورت پر اپنی شبیر کے مانند بنایا۔» (پیدائش ۱۹:۱۷)

اس میں خدا نے اپنے لئے «ہم»، (جمع متکلم کا صیغہ) استعمال کیا ہے، اس سے اس بات پر دلیل لی جاتی ہے کہ خدا تہاں نہیں تھا، چنانچہ سینٹ آگسٹن اپنی کتاب میں لکھتا ہے:-

«اگر تھا باپ نے بغیر بیٹی کے انسان کو پیدا کیا ہوتا تو یہ عبارت نہ لکھی جاتی۔»

لیکن اس دلیل کی کمزوری محتاج بیان نہیں ہے، اس لئے کہ اول تو «ہم» کا لفظ واحد متکلم کے لئے بکریت استعمال ہوتا ہے، خصوصاً شہزاد بخارتوں میں تو اس کا رواج عام ہے، خود قرآن کریم میں جو تسلیث کا کھلا مخالف ہے، اس تعلیٰ نے اپنے لئے جمع متکلم کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، *إِنَّا هَدَيْنَاكُمْ أَنْتُمْ سَبِيلٌ* یہاں تک کہ پوس نے بھی اپنے لئے یہ صیغہ استعمال کیا ہے (دیکھئے ۱۔ کریمہ ۸۰:۳:۲ وغیرہ) پھر اگر جمع متکلم کے حقیقی معنی ہی لینے ہیں تو ان واحد متکلم کے صیغوں کو کیا کہا جائے گا جو پوری بائبل میں پھیلے پڑے ہیں (مثلاً نبراس لاطین ۱۴:۱۹، یسوعیہ ۵:۱، یہ میاہ ۲۹:۱۱ وغیرہ) وہاں حقیقی معنی کیونکہ مراد نہیں؟ اگر کہا جائے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس یعنیوں مل کر ایک ہیں، اس لئے ان پر واحد متکلم کے صیغہ کا اطلاق درست ہے، تو ہم مرض کریں گے کہ جب وہ ایک ہیں تو ان پر جمع متکلم کا اطلاق درست نہ ہونا چاہیے، یہ تو قطعی ناممکن ہے کہ ایک ذات پر جمع متکلم کا صیغہ بھی حقیقت رلا جائے اور واحد متکلم کا سمجھی، (باتی مسخر آئینہ ۵)

پیش نظر جو معنی حاصل ہوتے ہیں ان پر یہ بات پوسے طور پر صادق آتی ہے کہ (المعنى في تعجب المثلث) ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ پیدائش کی کسی آیت سے استدلال نہیں کرتے بلکہ ہمارا دعویٰ صرف یہ ہے کہ کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ گذشتہ امتوں میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ رہا ہے، چنانچہ شریعت موسوی اور ان کی امت میں اس عقیدہ کا موجود نہ ہونا محتاج بیان نہیں ہے، جو شخص موجودہ مروجہ توریت کا مطالعہ کرے گا اس سے یہ بات مخفی نہ رہی گی۔
 یعنی علیہ السلام کو بھی اپنی آخری عمر میں مسیح عکی نسبت یہ شک پیدا ہو گیا سخت
 کہ وہ واقع مسح موجود ہیں یا نہیں؟ جس کی تصریح انجلی میں باب میں موجود ہے کہ یہی علیم نے اپنے دو شاگردوں کو مسیح کے پاس بھیج کر یہ دریافت کیا کہ کیا تو وہی آنے والا ہے یا ہم کسی دوسرے کا انتظار کریں؟

اب اگر عیینی علیہ السلام خدا ہوتے تو یعنی وہ کافر ہونا لازم آتا ہے، (نحو زبانہ کیونکہ خدا کی نسبت شک کرنا کفر ہے، اور یہ کیونکہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے معبد کو پہچانتے کہ جو نہ تھے، حالانکہ وہ خود بنی بلکہ مسیح عکی شہادت کے مطابق تمام نبیوں سے افضل تھے، جس اُر تصریح اسی باب میں موجود ہے، پھر جب کہ افضل ترین شخص جو اتفاق سے مسیح کاملاً (گذشتہ سے پہلے سنتہ) اور اگر اپنے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم "کا صیغہ اپنے حقیقی معنی میں آیا ہے اور" میں، "مجازی معنی میں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے ہوا کہ خدا کے لئے حقیقی صیغہ پوری بامبل میں صرف دو تین جگہ استعمال ہوا ہے، اور هزاروں جگہ مجازی صیغہ استعمال کیا گیا ہے، خور فرمائیے کہ ان دو تین جگہوں کو مجازی معنی پرسوں کرنا عقل کے نزدیک زیادہ قابلِ فبول ہے، یا ان بزراروں مقامات کو جہاں جہاں خدا کے لئے واحد متكلّم کے صیغہ کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے علاوہ یہ بات اب پائی گئی ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ پیدائش کی جن آیتوں میں خدا کے لئے "ہم" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ان میں معنوی تحریف ہوتی ہے، بامبل کے یہودی مفسرین نے اس حقیقت کو محققانہ انداز میں طشت از باہر کر دیا ہے مسلمانوں میں سے حضرت مولانا ناصر الدین صاحبؒ نے اپنی محرکۃ الاراء کتاب "نویر جاوید" (ص ۲۴۵) میں تفصیل سے عبرانی زبان کی لفظ اور قواعد سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہاں "منو" کا ترجمہ "ہم" سے کرنا ایک زبردست غلطی ہے، جس کا ذکر کتاب یقیناً جان بوجہ کر کیا گیا ہے ۱۲ تقریباً

لہ "جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں، ان میں پوچنا بیسرد ہے وانہے سے بڑا کوئی عرض نہیں،" (مشی، ۱۱: ۱۱)

بھی ہے، پتے معبود کو شناخت نہ کر سکا، تو دوسرے گذشتہ بنی جومیع علیہ السلام سے پہلے ہو گئے ہیں، ان کے نہ پہچاننے کو بطرائق اولیٰ اس قیاس پر کر لیجئے، نیز علماء یہود موسیٰ ہم کے ہند سے آج تک اس عقیدے کے معترض نہیں ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ ذات خداوندی اور اسکی تمام صفات قدیم ہیں، غیر متغیر ہیں اور اذلاً وابدًا موجود ہیں:-

اگر تسلیت حق اور سچی ہوتی تو موسیٰ اور تمام انبیاء بنی اسرائیل پر یہ بات واجب تھی کہ وہ اکٹلہ کو کما حضرہ واضح کرتے، حرمت بالائے حیرت ہے کہ مشریعت موسیٰ جو عہدِ عیسوی تک تمام بنی اسرائیل کے لئے واجب الاطاعت تھی، وہ اس قدر عظیم الشان اور اہم عقیدہ کے بیان سے قطعی خالی ہے جو اہل تسلیت کے دعوے کے بھوجب مدارنجات ہے، اور بلا استثناء اس عقیدہ کے بغیر کسی کی نجات ممکن نہیں ہے، خواہ بنی ہو یا غیر بنی

نہ موسیٰ اس عقیدہ کی وضاحت کرتے ہیں، اور نہ بنی اسرائیل کا کوئی دوسرا پیغمبر اس کی ایسی تصریح کرتا ہے کہ جس سے یہ عقیدہ سمجھ میں آسکتا، اور کوئی شک باقی نہ رہتا، حالانکہ یہی موسیٰ ان احکام کو جو مقدس پوس کے نزدیک کمزور اور بیت ہی ناقص ہیں، خوب وضاحت سے بیان کرتے ہیں، اور نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ بار بار ان کی مکمل تصریح کرتے ہیں، اور ان کی پابندی کی سختی سے تاکید کرتے ہیں، اور بعض احکام کے چھوڑنے والے کو واجب القتل قرار دیتے ہیں،

اور اس سے بھی زیادہ حرمت انیجڑ بات یہ ہے کہ خود عیسیٰ نے عمر بھر پر عروج آسمانی سے پہلے کبھی سجول کر بھی ایک بار اس عقیدہ کو بیان نہیں کیا، مثلاً آپ یہ فرماتے کہ خدا تین اقوام ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، اور افروم ابن میرے جسم کے ساتھ فلاں شستے سے متعلق ہے، یا کسی ایسے رشتے سے جس کا سمجھنا تمہاری عقول کے لبس کا کام نہیں، یا اسی قسم کی اور کوئی واضح بات فرمادیتے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اہل تسلیت کے پاس حضرت میسح کے چند مشتبہ اقوال کے سوا اس سلسلے میں کچھ نہیں ہے، میرزا الحق کامصنف اپنی مفتاح الاسرار میں کہنا ہے:-

”اگر تم اعتراض کر دے کہ میسح نے اپنی الوہیت کو واضح طور پر بیان کیوں

نہیں کیا؟ اور صاف وضاحت سے مختصر رایہ کیوں نہ کہا کہ میں ہی بلا شرکت غیرے معیود ہوں۔ (المخ) ۴

پھر ایک نامعقول ساجواب دیا ہے جس کو اس مقام پر نقل کرنے سے ہماری کوئی عرض حاصل نہیں ہوتی، پھر دوسرا جواب یوں دیا ہے کہ:-

”اس تعلق کو سمجھنے کی قابلیت کسی میں موجود نہیں تھی، اور آپ کے دوبارہ زندہ ہونے اور عروج عثمانی سے قبل اس علاقہ اور وحدانیت کو سمجھنے کی قدرت کوئی بھی نہیں رکھتا تھا، الیسی صورت میں اگر آپ صاف صاف صاف بیان کرتے تو سب لوگ یہی سمجھتے کہ آپ جسم انسانی کے لحاظ سے خدا ہیں، اور یہ بات یقینی طور پر غلط اور باطل ہوتی، اس مطلب کا سمجھنا بھی ان مطالب کے ذیل میں شامل ہے، جن کی نسبت میں اپنے شاگردوں سے فرمایا تھا کہ مجھ کو تم سے بہت سی باتیں کہنا ہوتی ہیں، لیکن تم فی الحال ان کا تحمل نہیں کر سکتے، البتہ جب روح حق آئے گا وہ تمام سچی باتوں کی جانب تھاری رہنمائی کرے گا، یکون کے وہ خود اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، بلکہ جو کچھ سے گا وہی بیان کرے گا، اور آئندہ پیش آئے والے واقعہ کی قم اطلاع دے گا“

پھر کہتا ہے کہ:-

”بڑے بڑے یہودیوں نے بار بار ارادہ کیا کہ اس کو گرفتار کر کے سنگار کر دیں، حالانکو وہ ان کے سامنے اپنے خدا ہونے کو صاف اور واضح طور پر بیان نہیں کرتا تھا، بلکہ معمول اور گول مول طریقہ پر ظاہر کرتا تھا“

اس مضائقہ کے بیان سے دو عند سمجھے میں آتے ہیں، ایک یہ کہ میشیح کے عروج آسمانی سے قبل اس نازک مسئلہ کے سمجھنے کی کسی میں بھی صلاحیت موجود نہ تھی، دوسرے یہ کہ یہودیوں کا خوف صاف بیان کرنے سے مانع تھا، حالانکہ دونوں باتیں نہایت ہی کمزور ہیں، پہلی تو اس لئے کہ یہ چیزوں اس شبہ کو تو بیٹک دور کر دینے کے لئے کافی ہو سکتی ہے کہ میرے جسم اور اقنوں کے درمیان پائے جانے والے اتحاد اسکا علاقہ تھاری سمجھے سے بالاتر ہے، اس لئے اس

کی تفتیش اور کھو دکر یہ نہ کرو، اور یقین رکھو کہ میں جسم کے لحاظ سے معبد نہیں ہوں، بلکہ اس اتحاد کے علاقہ سے معبد ہوں، رہا نفس مسئلہ کے سمجھے سے عاجز ہونا تو یہ تو عروجِ اسلام کے بعد بھی یہ ستور قائم ہے، یکوئی اس وقت سے لیکاچ تک کوئی عیانی عالم بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس بات کو سمجھ سکا ہو کہ اس علاً اور وحدائیت کی صورت و نوعیت کیلے ہے، اور اگر کسی نے اس سلسلہ میں کچھ کہا بھی ہے تو محض قیاس اور گمان اور اشکل پچھو انداز کے سوا کچھ نہیں ہے، اسی وجہ سے علماء پر ولیت نے سرے سے اس کی وضاحت ہی ترک کر دی، اور اس پادری نے بھی اپنی تصانیف میں بہت سے مقامات پر یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ مسئلہ اسرار اور رموز میں سے ہے ملانا فیصل اس کے اور اک سے قاصر ہے، رہی دوسری بات، تو ظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام کی تشریف آوری کی غرض اس دنیا میں اس کے سو اور کچھ نہیں تھی کہ مخلوق کے گھنا ہوں کا کفارہ بن جائیں، اور یہودیوں کے ہاتھوں سولی چڑھیں، ان کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ یہودی ان کو سولی دیں گے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ کب شوالی دیں گے، تو پھر ان کو یہودیوں سے اس خفیدہ کی تو صبح میں خوف کھلنے کی کیا اور کس طرح گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور بڑی ہی حیرت ناک ہے یہ بات کہ جو ذات آسمان دزین کی خالق ہو، اپنی ہر مرضی پر قادر ہو، وہ اپنے بندوں سے ڈرے اور خوف کھلئے جو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل قوم ہیں، اور ان سے اس قدر ڈرے کہ جو عقیدہ مداری سنبھالتے ہے اس کو بیان نہ کرے حالانکہ اس کے دوسرے بندے جو پیغمبر ہیں، جیسے ارمیاہ اور سعیاہ اور یحییٰ اور حق گوئی سے کبھی نہیں ڈرے، بلکہ انہوں نے حق گوئی کی پاداش میں تدبیر سے شدید اذیتیں اٹھائیں، یہاں تک کہ بعض قتل بھی کر دیئے گئے،

اور اس سے بھی زیادہ عجیب تر بات یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام یہودیوں سے اس ضروری عقیدہ کو بیان کرتے ہوئے قوڑنے اور خوف کھاتے تھے، مگر "امر بالمعروف" اور "نہی عن المنکر" میں انتہائی تشدید اور سختی کرتے ہیں کہ نوبت گایاں دینے کی بھی آجائی ہے، چنانچہ فقیہوں اور فرمیں یہوں کو ان کے مُمنہ پر ان الفاظ سے خطاب کرتے ہیں کہ:-
«اے ریا کار فقیہو! اور فرمیں یہو اتم پر افسوس! اے اندر ہے راہ ہنانے والوں تم

پروفس اے۔ اے احمدو اور اندھو۔ اے سانپو! اے افخی کے پھر اتم جہنم کی سزا سے کیون بچو گے؟

انجیل مثی بات اور انجیل لوقا بات میں تصریح ہے کہ حضرت مسیح ان کے عیوب عوام کے سامنے کھلم کھلا ببانگ دہل بیان کرتے تھے۔ سیاں تک کہ ان میں سے بعض نے شکایت کی کہ آپ ہم کو گالیاں دیتے ہیں، اور اسی قسم کی اور مثالیں انجیل کے درمیان مقامات پر موجود ہیں، پھر مسیح کے متعلق یہ بدگمانی کس حد تک جائز ہو سکتی ہے کہ وہ ایسے عقیدہ کو جس پر انسانی بخات کا مدار ہے اُن کے خوف کی وجہ سے بیلن کرنا چھوڑ دیں خدا نہ کرے وہ ایسے ہوں، اس پادری کے کلام سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ مسیح نے اس مسئلہ کو جب کبھی ان کے سامنے ذکر کیا۔ تو چیستان اور پہلی کی طرح گول مول طریقہ پر بیان کیا، اور یہودی اس عقیدہ کے پیچے دشمن تھے، سیاں تک کہ انہوں نے مسیح کو اس گول مول ذکر پر بھی کئی مرتبہ سنگار کرنے کا ارادہ کیا تھا؟

پہلی فصل

تسلیث کا عقیدہ و عقل کی کسوٹی پر

چونکہ عیاسیوں کے نزدیک تسلیث اور توحید سے مراد مقصد مسیحی تسلیث پائی جائے گی تو نویں بات کے بوجب حقیقی کثرت کا پایا جانا ضروری ہو گا اور اس کی موجودگی میں حقیقی توحید کا پایا جانا ممکن نہ ہو گا، ورنہ مقدمہ کے نمبرے کے جزو حقیقی صدین کے درمیان اجتماع لازم آئے گا، جو محال ہے، اور واجب کا متعدد ہوں اذم آئے گا، اس صورت میں توحید یقیناً نافوت ہو جائے گی، اس لئے تسلیث کا مانند والا کسی صورت میں بھی خدا کو حقیقتہ آیک ماننے والا نہیں ہو سکتا،

اور یہ کہنا کہ توحید حقیقی اور تسلیث حقیقی کا غیر واجب میں جمع ہونا تو بیشک حقیقی صدین کا اجتماع ہے، مگر واجب میں اس اجتماع کو اجتماع صدین نہیں کہا جائے گا لہ یہ تمام باتیں بالکل واضح اور بدیہی ہیں، ایسی بدیہی کہ اگر انھیں بیان کرنا شروع کیا جائے تو بات الجھنے ہی ممکن ہے۔ آج تک کسی بچہ کو بھی یہ شبہ نہ ہوا ہو گا کہ ”نین“ اور ”ایک“ الگ الگ چیزوں نہیں ہیں مگر واجب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتے ہے تو اُسے سمجھانے کے لئے ایسی چیزوں کے لئے بھی عقلی دلیلیں پیش کرنی پڑتی ہیں، لہذا الگان دلیلوں کے سمجھنے ہیں کہیں مشکل پیش آئے تو مصنف اور مترجم کو مخذول رسمجھیں، لہ عیاسی حضرات یہ کہا کرتے ہیں کہ ائمہ کے سوار و سری مخلوقات میں تو توحید اور تسلیث جمع نہیں ہو سکتے مگر خدا یہ ہو سکتے ہیں، مصنف رہ اس بات کا جواب میں رہے ہیں ۱۶

محض دھوکہ اور فریب ہے، کیونکہ جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ دو چیزوں ذاتی چیزیت سے آپس میں حقیقی ضرر ہیں، یا وہ دونوں نفس الامر میں ایک دوسرے کی نقض ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ الیسی دو چیزوں کا کسی واحد شخص میں بیک وقت ایک ہی چیزیت سے جمع ہو جانا خواہ ود واجب ہو یا غیر واجب، ممکن ہنسیں ہو گا، اور یہ بات کس طرح ممکن ہو سکتی ہے جب کہ واحد حقیقی میں کوئی ثملث صحیح نہیں ہے، اور تین کا ثملث صحیح یعنی ایک موجود ہے،

دوسرے یہ کہ "ثلاثۃ" تین واحدوں کا مجموعہ ہوتا ہے، بخلاف واحد حقیقی کے کہ اس کے سرے سے آحاد و افراد ہی نہیں ہوتے، نیز واحد حقیقی خود تین کا جزو ہوتا ہے، تو اب اگر دونوں کسی ایک ہی جگہ جمع ہوں تو کل کا جزو دین جاتا اور جزو کا کل ہونا لازم آئے گا، اور اس قسم کا اجتماع اس بات کو مستلزم ہو گا کہ خدا یہ اجزاء سے مرکب ہو جو بالفعل۔ غیر متناہی ہیں، کیونکہ اس صورت میں کل اور جزو کی حقیقت ایک ہو گی، اور پختہ کل مرکب ہے تو اس کا هر جزو دبھی ایسے اجزاء سے مرکب ہو گا جو عینہ وہی جزو تھے، اور اسی طرح سلسلہ چلتا جائے گا، اور کسی شے کا ایسے اجزاء سے مرکب ہونا جو بالفعل۔ غیر متناہی ہوں قطعی طور پر باطل ہے، نیز ایسا اجتماع اس امر کو مستلزم ہو گا کہ واحد خود اپنی فات کا ثملث ہو، اور تین ایک کا ثملث ہو جائے، یہ بھی لازم آئے گا کہ تین، نو ہے یعنی اپنے سے تین گناہ افذا ایک نو گنا، یعنی نو ہے،

دوسری ولیل اگر عیاشیوں کے قول کے مطابق خدا کی ذات میں ایسے تین اقوام مان لئے جائیں جو حقیقی امتیاز کے ساتھ متاز ہیں، تو اس امر

سے قطع نظر کہ اس سے خداوں کا کئی ہونا لازم آتا ہے، یہ بات بھی لازم آئے گی کہ خدا کوئی حقیقت واقعیہ نہ ہو، بلکہ محض مرکب اقشاری ہو، کیونکہ حقیقی ترکیب میں تو اجزاء میں باہمی احتیاج و افتقار ہونا ضروری ہے، اس لئے کہ کسی پتھر کو آدمی کے پہلو میں رکھ دینے سے اس انسان اور پتھر میں اتحاد پیدا نہیں ہو جاتا، اور یہ ظاہر ہے کہ واجت کے درمیان احتیاج نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ممکنات کا خاصہ ہے، اس لئے کہ واجب نہ کا

محتاج نہیں ہو سکتا، اور جو جزو دوسرے جزو سے منفصل اور علیحدہ ہو اور دوسرا اُگرچہ مجموعہ میں داخل ہو لیکن ایک جزو دوسرے کا محتاج نہ ہو تو اس سے ذات احادیث مرکب نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ اس شکل میں خدا مرکب ہو گا، اور ہر مرکب لپنے تحقق میں اپنے ہر جزو کے تتحقق ہونے کا محتاج ہو گا، اور ہر جزو بدانہ کل کامغاڑہ ہوتا ہے، لپنے ہر مرکب اپنے بغیر کا محتاج ہو گا، اور جو غیر کا محتاج ہوتا ہے وہ بالذات ممکن ہوتا ہے، نتیجہ یہ کہ خدا کا بالذات ممکن ہونا لازم آئے گا جو بطل ہے،

تیسرا ولیل | جب اقایم کے درمیان امتیاز حقيقة ثابت ہو گی تو جیسے چیز سے یہ امتیاز حاصل ہوا ہے یا تو صفاتِ کمال میں سے ہے یا نہیں، پہلی صورت میں تمام صفاتِ کمال ان کے درمیان مشترک نہیں ہو سکتیں، اور یہ چیزان کے اس مسلم کے خلاف ہے کہ ان اقایم میں سے ہر ایک اقنومن صفاتِ کمال کے ساتھ موصوف ہے، اور دوسری صورت میں اس کے ساتھ موصوف ہونے والا الیسی صفت کے ساتھ موصوف ہوا جو صفتِ کمال نہیں ہے یہ بقصان اور عرب ہے، اور خدا کا اس سے پاک ہونا ضروری ہے۔

چوتھی ولیل | جو ہر لاءٰ ہوتی اور جو ہر ناسوتی میں جب حقیقتاً تھاد ہو گا تو اقنومن ابن محمد دننا ہری ہو گا، اور جو ایسا ہو گا اس میں کمی بیشی کے قبول کرنے کا امکان ہو گا، اور جو چیز کی بیشی کو قبول کرتی ہے اس کا کسی معین مقدار کے ساتھ مخصوص ہونا کسی مخصوص کی تخصیص اور مقدار کی تقدیر کی وجہ سے ہو گا، اور الیسی چیز حادث ہوتی ہے، لہذا یہ لازم آئے گا کہ اقنومن ابن حادث ہو، اور اس کے حادث ہونے سے خدا کا حادث ہونا لازم آئے گا، معاذ اللہ،

پانچویں ولیل | اگر تینوں اقنومن کو امتیاز حقيقة کے ساتھ ممتاز مانا جائے تو جو چیز ذاتی کے علاوہ کوئی دوسری نہ شے ہو، کیونکہ وہ قوسب کے درمیان مشترک ہے، اور جس شے سے اشتراک حاصل ہوتا ہے وہ ذریعہ امتیاز نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ مغاڑہ ہوتی ہے اس لئے

هر ایک دو اجزاء ہے مرکب ہو گا، اور ہر مرکب شے بالذات ممکن ہوتی ہے۔ پس یہ لازم آئے گا کہ ان میں سے ہر ایک بالذات ممکن ہوا۔

چھٹی ولیل [یعقوبیہ کا نہیں] صریح طور پر باطل ہے، کیونکہ ان کے نظر یہ کی بنیاد پر قدیم کا حادث بن جانا اور مجسر دکامادی ہونا لازم آتا ہے، ان کے علاوہ دوسروں کے مزہب کے بطلان کے لئے یہ کہا جائے گا کہ یہ اتحاد یا حلول کی صورت میں ہو گا، یا بغیر علوں کے، پہلی صورت تسلیت کے عدد کے مطابق تین وجہ سے باطل ہے اولاً تو اس لئے کہ یہ حلول یا استطرح کا ہو گا جیسا کہ عرق گلاب گلاب میں، پائیں، بن جسم ہو، مگر عیاٹی اس امر میں ہمارے موافق ہیں، کہ وہ جسم نہیں ہے،

یا حلول پھر اس قسم کا ہو جس طرح رنگ کا حلول جسم میں، تو یہ بھی باطل ہے، اس لئے کہ اس سے یہ بات مفہوم ہوئی ہے کہ رنگ جیز میں اس لئے پایا جاتا ہے کہ چونکہ اس کا محل جیز میں موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا حلول اجسام ہی میں ممکن ہے، یا پھر وہ حلول اس قسم کا ہو جیسا کہ صفات اضافیہ کا حلول ذوات میں ہوتا ہے، یہ بھی باطل ہے، کیونکہ اسی تبعیت سے جو بات مفہوم ہوتی ہے وہ احتیاج ہے، اب اگر اقوام ابن کا حلول کسی شے میں اس لحاظ سے مانا جائے تو اس کا محتاج ہونا لازم آجائے گا جس کے نتیجہ میں اس کو ممکن مانا پڑے، اور مؤثر کا محتاج ہو گا، اور یہ محال ہے، اور جب حلول کی تمام شکلیں باطل ہیں تو اس کا ممتنع ہونا ثابت ہو گا،

دوسرے اس لئے کہ اگر ہم حلول کے معنی سے قطع نظر بھی کر لیں تب بھی کہ سکتے ہیں کہ اگر اقوام ابن جسم میں حلول کر گیا تو یہ حلول یا تو واجب ہو گا یا جائز، پہلی صورت اس لئے ممکن نہیں کہ اسکی ذات یا تو اس حلول کے اقتضاء کے لئے کافی ہو گی یا نہیں، پہلی صورت میں اس اقتضاء کا موقف ہونا کسی شرط کے موجود ہونے پر محال ہے، تب یا تو خدا کا حادث ہونا لازم آئے گا، یا محل کا قدیم ان یعقوبیہ فرقہ کیتے ہے کہ خدا کی بابت بدلت کر انسان میں کئی شخصی (معاذ اللہ) تلقی حاشیہ ہے بر صغیر آئندہ

قدیم ہونا، حالانکہ دونوں باطل ہیں، دوسری صورت میں اس حلول کا اقتضاء ذات کے علاوہ کوئی اور شے ہوگی اور وہ اس میں حادث ہوگی اور حلول کے حادث ہونے سے اس شے کا حادث ہوتا لازم آئے گا جسیں میں حلول ہوا ہے نتیجتاً اس میں حادث کی قابلیت ہوگی جو محال ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا ہوتا ظاہر ہے کہ یہ قابلیت اس میں اس کے ذات کے لوازم میں سے ہوگی، اور اذلی طور پر موجود ہوگی جو محال ہے، کیونکہ اذل میں حادث کا وجود محال ہے،

دوسری شکل بھی ممکن ہے، اس لئے کہ اس شکل میں یہ حلول اقتوم ابن کی ذات سے ایک زائد چیز ہوگی، پھر جب وہ جسم میں موجود ہو گا تو ضروری ہے کہ جسم میں ایک صفت حادث حلول کرے، اور اس کا حلول مستلزم ہو گا اس کے قابل حادث ہونیکو جو باطل ہے،

تمیرے اس لئے کہ اقتوم ابن اگر جسم علیٰ میں حلول کرنا ہے تو دو صورتیں ہی ہو سکتی ہیں، یا تو ذات خداوندی میں بھی باقی رہتا ہے یا نہیں، پہلی صورت میں حال شخصی کا دو محل میں پایا جانا لازم آئے گا، اور دوسری صورت میں ذات خداوندی کا اس سے خالی ہونا لازم آئے گا، تو وہ بھی منتفی ہو جائے گی، اس لئے کہ انتقام جزا و انتقام کمل کو مستلزم ہے۔

اور اگر یہ اتحاد بغیر حلول کے ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اقتوم ابن جب مسیح کے ساتھ متعدد ہو گیا تو یہ دونوں اتحاد کی حالت میں اگر موجود ہیں تو وہ دو ہوں گے نہ کہ ایک، تو (صفحہ گذشتہ کا حاشیہ ۲) لہ اس لئے کہ یا تو یوں کہا جائے کہ جب جسم موجود نہیں تھا اس وقت اقتوم ابن بھی نہیں تھا، اس صورت میں حدوث لازم آئے گا، یا یوں کہا جائے کہ جب سے اقتوم ابن موجود ہے، اس وقت سے جسم بھی موجود ہے، اس سے لازم آتا ہے کہ محل یعنی جسم بھی قدیم ہو جائے، اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ پہلے حلول کسی خاص شرط کے ساتھ موقوف تھا، اس لئے کہ ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ اس کا تقاضا اکرنے والی شے سوچ ذات اقتوم کے اور کچھ نہیں ۱۲ تھی لہ یعنی اقتوم ابن کا جسم میں بطور حجاز حلول کرنا ۱۲ تھی لہ یعنی اقتوم ابن اور جسم مسیح کا اتحاد ۱۲ ات

تو اتحاد نہ رہا، اور اگر دونوں معدوم ہو جاتے ہیں تو ایک تیسری چیز پیدا ہو گی۔ تو بھی اتحاد نہ ہوا، بلکہ دو چیزوں کا معدوم ہونا اور تیسری چیز کا حاصل ہونا لازم آیا، اور اگر ایک باقی رہتا ہے اور دوسرا معدوم ہو جاتا ہے تو معدوم کا موجود کے ساتھ متعدد ہونا محال ہے، کیونکہ یہ کہنا محال ہے کہ معدوم بعینہ موجود ہے، لیں ثابت ہو گیا کہ اتحاد محال ہے اور جن لوگوں کا نظر یہ یہ ہے کہ اتحاد بطور ظہور کے ہے جس طرح انگوٹھی کی تحریر اور نقش جب کہ گارے پر نہایاں ہوتا ہے یا موم پر ظاہر ہوتا ہے، یا آئینہ میں جس طرح انسانی شکل نظر آتی ہے،

مگر اس طرح اتحادِ حقیقی تو قطعی ثابت نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے بر عکس تغایر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح انگوٹھی کی تحریر اور نقش جو گارے یا موم پر ہے وہ انگوٹھی کے مغاائر ہے، اور آئینہ میں نظر آنے والا عکس انسان کے مغاائر ہے، بالکل اسی طرح اقوام ابن غیر سچ ہو گا، زیادہ سے زیادہ یہ ممکن ہے کہ صفتِ اقوامِ ابن کا جس قدر اثر اس میں ظاہر ہو گا وہ دوسرے میں نہ ہو گا، بالکل اسی طرح جس طرح بخشان میں سورج کی شعاع کی تاثیر پر نسبت دوسرے پتھروں کے زیادہ ظاہر ہوتی ہے، مذکورہ بالاتمام دلائل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عقیدہٗ تسلیت ان حالات میں سے ہے جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ

حال لا يساويه مجال	وقول في الحقيقة لا يقال
و فكر كاذب و حديث زور	بدامنههم ومنشؤه الخيال
تعالي الله ما قالوه كف	وذنب في العواقب لا يقال

”بخشان ایک پتھر ہے جس سے نعل پیدا ہوتا ہے“ ۱۲ مصنف رحمائیہ، ”یہ ایک ایسا محال ہے جس کے بار کوئی اور محال نہیں ہو سکتا، اور ایک ایسی بات ہے جو کہنے کے لائق ہی نہیں، ایک جھوٹی فکر اور جھوٹی بات ہے جو ان کے مرنے سے نکلی ہے۔ اور اس کا مشاء محن خیال ہی خیال ہے خدا ان کے خیال سے بلند و برتر ہے، انہوں نے تو بالکل کفر کی بات کی ہے، اور ایک لیے گناہ کی بات جس کے نتائج پر عبور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہنے کے لائق ہی نہیں“ ۱۳

ساتویں ولیل فرقہ پرولٹنٹ عشاء رباني کے مسئلہ میں فرقہ کنیتھولک کا رد کرتا اور مذاق اڑاتا تھا۔ اور کہتا ہے کہ شہادت حس کی بناء پر روشنی کا سیع بن جاتا ممکن نہیں ہے، حالانکہ اس تردید مذاق کے مستحکم دونوں فرقے ہیں، کیونکہ جس شخص نے سیع بن جاتا ممکن نہیں ہے اس لواں ایک معین انسان ہی نظر آ رہا، اور حکماں اذماں (یہ) سب سے زیادہ سچے حاسہ لیئے آشخ کو بدلانا درحقیقت بدیہی ہے، میں سفسطہ کا باب، لھولنا ہے، اس لئے یہ نظر یہ اسی طرح باطل ہے، جیسے کہ روشنی کا سیع بن جاتے کا نظر یہ غلط ہے، اس کے نتیجے میں جاہل عیلم خواہ اس کا تعلق اہل تشیع کے کسی بھی فرقہ سے ہو وہ اس عقیدہ کی بد دلت، کلم کھلا دگہ اہ ہو گئے، ان مسکنیوں کو توجہ بر لایا ہوتی اور ناسوتی کا فرق بھی معلوم نہیں، گوآن کے علماء اس فرقہ کو سمجھتے ہوں، بلکہ یہ لوگ توجہ بر ناسوتی کے لحاظ سے سیع بن کی الوہیت کے مقصد ہیں، اور عجیب طرح ٹامک ٹوٹیاں مارتے ہیں،

تین عیسائی ہونے والوں کا عجیب فاقعہ مشہور ہے کہ تین آدمیوں نے

صلحب نے ان کو عیسائی مذہب کے ضروری عقائد بالخصوص عقیدہ تشیع سکھایا۔ یہ تینوں نے عیسائی اس پادری ہی کے پاس رہتے تھے، اتفاقاً ایک روز پادری کا ایک دوست ملاقات کے لئے آیا، اس نے پادری سے پوچھا کہ وہ نئے عیسائی کون ہیں؟ پادری نے بتایا کہ تین اشخاص نے مذہب عیسائی قبول کیا ہے، دوست نے کہا کہ کیا انہوں نے ہمارے مذہب کے ضروری عقائد بھی سیکھ لئے ہیں یا نہیں؟ پادری نے کہا کیوں نہیں؟ اور امتحاناً ان میں سے ایک کو بلا یا ہمکار اپنے دوست کو اپنا کار نامہ دکھائے، چنانچہ اس جدید عیسائی سے عقیدہ تشیع کے باسے میں دریافت کیا، تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ خدا تین ہیں، ایک آسمان میں، دوسرا کنواری مریم کے پیٹ سے پیدا ہونے والا، ثیسرا وہ جو کبوتر کی شکل میں دوسرے خدا پر تیس سال کی عمر

میں نازل ہوا،

پادری بڑا خضب تاک ہوا در اس کو یہ کہہ کر ٹھاڈیا کہ یہ مجهول ہے، پھر دسکر کو بلا دیا، اور اس سے بھی یہی سوال کیا، اس نے جواب دیا کہ آپ نے مجھ کو یہ بتایا اس تھا کہ خدا تین سنتے، جن میں سے ایک کو سولی دے دی گئی، اب دو خدا باقی رہ گئے ہیں اس کو بھی پادری نے غصہ پوکر نکال دیا،

پھر تیر سے کو بلا یا بوجہ بہ نسبت پہلے دونوں کے ہوشیار تھا، اس کو عقامہ یاد کرنے کا بھی شوق تھا، پادری نے اس سے بھی سوال کیا، تو کیا خوب جواب دیتا ہے کہ آقا! میں نے تو جو کچھ آپ نے سکھایا خوب اچھی طرح یاد کر لیا ہے، اور خداۓ مسیح کی مہربانی سے پوری طرح سمجھ گیا ہوں، کہ ایک تین ہے اور تین ایک، جن میں سے ایک کو سولی دے دی گئی، اور وہ مر گیا، اور بوجہ اتحاد کے سبکے سب کے سب مر گئے، اور اب کوئی خدا باقی نہیں رہا، وہندہ اتحاد کی نفی لازم آئے گی،

اس سلسلہ میں ہماری گذارش ہے کہ اس میں جواب دینے والوں کا زیادہ قصور نہیں ہے، اس لئے کہ یہ عقیدہ ہی ایسا پھیلیا ہے کہ جس میں جس ایسے بھی مجهول کھاتے ہیں اور علماء بھی حیران ہیں، ان کا اقرار ہے کہ اگرچہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، مگر اس کے سمجھنے سے ہم بھی قادر ہیں، اور سمجھانے سے اور وضاحت کرنے سے بھی عاجز ہیں، اسی لئے امام فخر الدین رازی رحم نے اپنی تفسیر میں سورہ نساء کی تفسیر فرماتے ہوئے کہا ہے کہ:

”عیاشیوں کا ذہب بہت ہی مجهول ہے“

پھر سورہ مائدہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:-

”وَنِيَا مِنْ كُوثِيَّ بَاتٍ عِيَاثِيُّوْنَ كَيْ بَاتٍ سَهْ زَيَادَه شَيْرِ فَسَادَه وَالِيْ اَوْهَ ظَاهِرِ الْبَطَلَانَ نَهِيْسَ
تَلَهُ“

لہ یعنی روح القدس جس کے باسے میں متین ۳: ۱۶ میں لکھا ہے کہ وہ حضرت عینی علیہ السلام پر نئیں سال کی عمر میں کبوتر کی شکل میں نازل ہوئی، تله تفسیر کبیر، ص ۲۳۹، آیت دَلَّا تَقُولُوا تَلَهُ ۱۲ ترقی تله ایضاً ص ۳۲۲، آیت لَقَدْ كَفَرَ الظَّدِينَ قَاتِلُوا النَّبِيَّ ۱۲ ترقی

ان عقلی و لا ائل کی بناء پر باعثیں کی اب جب کہ دلائل قطعیہ عقلیہ سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کی خدا کی ذات میں تسلیت عبارتوں کی تاویل ضروری ہے حقیقی ناممکن ہے، تو اگر میسیح کا کوئی قول ظاہراً تسلیت پر دلالت بھی کرتا ہے، تو اس کی تاویل ضروری ہو گی، اس لئے کہ لامحال چار ہی شکلیں ممکن ہیں :-

یا تو تمام دلائل عقلیہ اور نقلیہ پر عمل کیا جائے، یا دلوں قسم کے دلائل کو ترک کر دیا جائے یا پھر نقل کو عقل پر ترجیح دی جائے، یا اس کے بر عکس عقل کو نقل پر ترجیح دیں، پہلی صورت تو قطعی باطل ہے، ورنہ ایک ہی چیز کا متنع اور محال ہونا اور اسی کا غیر متنع ہونا لازم آئے گا لہ دسری صورت کبھی محال ہے، ورنہ ارتقایع نقیضین لازم آئے گا تیسرا شکل بھی جائز ہیں، اس لئے کہ عقل اصل ہے نقل کی، کیونکہ تمام نقل کے ثبوت کا مدار اسی بات پر ہے کہ خدا کا دجود اور صفات علم و قدرت اور اس کا پیغمبر مجھ بنا ثابت کیا جائے، اور یہ تمام چیزوں دلائل عقلیہ ہی سے ثابت ہو سکتی ہیں، اس لئے عقل میں کسی قسم کا عیب نکالنا درحقیقت عقل و نقل دونوں ہی میں عیب نکالنا ہے، اس لئے ہمارے لئے عقل کی صحت تسلیم کرنے اور اس کے یقین کے سوا اور کوئی چارہ کا رہنہیں اسی طرح نقل میں تاویل کے سوا کوئی مغز نہیں ہو سکتا، اور جیسا کہ مقدمہ کی تسلیتی بات میں معلوم ہو چکا ہے، اہل کتاب کے یہاں تاویل کوئی نادر و عجیب اور قلیل بھی نہیں ہے، چنانچہ وہ لوگ ان بے شمار آیتوں کی تاویل کرنا ضروری سمجھتے ہیں جو خدا کے جسمانی ہونے یا شکل و صورت پر دلالت کرتی ہیں، محسن ان دو آیتوں کی وجہ سے جو عقلی دلیل کے مطابق ہیں، اسی طرح ان بہت سی آیات کی تاویل کو ضروری فرار دیتے ہیں، جو خدا کے لئے مکانیت پر دلالت کرتی ہیں، محسن ان تھوڑی سی آیتوں کی بناء پر جو دلیل عقلی کے مطابق ہیں مگر ہم کو کینہ نوک فرقہ کے داشتمندوں اور ان کے ماننے والوں کی اس حرکت پر بڑا ہی تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ کبھی تو اس قدر افراط کرتے ہیں کہ جس لئے کیونکہ دلائل میں تعارض ہے،

اور عقل کے فیصلہ کو رد کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ روٹی اور شراب اور روٹی جو عربین مسیح سے مرت طولیہ یعنی اٹھارہ سو سال سے زیادہ عرصہ کے بعد اس دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئیں، عشاء ربانی میں ایک نام حقیقتاً مسیح ہاگوشت اور خون بن جاتے ہیں، جن کی یہ لوگ پھر پستش کرتے اور دونوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح کبھی عقل و براہمۃ کے فیصلہ کو مٹھکراتے ہوئے اور براہم عقلیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے تسلیثِ حقیقی اور توجیہ کی نسبت یہ دعویٰ کر شجاعتی ہیں کہ ان دونوں کا اجتماع واحد شخص میں بیک وقت ایک ہی جہت سے ممکن ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب خیز اور حیرت انگریز رؤیہ اس معاملہ میں فسر پر ڈھنڈت کا نظر آتا ہے کہ یہ لوگ عشاء ربانی کی روٹی اور شراب کے مسیح بن جانے کے مشعل میں تو اپنے حریف، و مقابل کیتھو لوک لوگوں کی مخالفت بڑے شد و مدد سے کرتے ہیں، لیکن دوسرے مشعل یعنی عقیدہ تسلیث میں ان کے ہم نوا ہیں، اب ہم یہ گذارش کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر ظاہر نقل پر عمل کرنا ضروری ہے، خواہ وہ کتنا ہی حس و عقل کے خلاف ہو تو پھر انصاف کی بات یہ ہے کہ اس لحاظ سے کیتھو لوک فرقہ آپ کے فرقہ سے لاکھ درجے بہتر ہے، لیکن کہ ان لوگوں نے مسیح کے ظاہری قول کی اطاعت اور فرمابرداری میں اس قدر مبالغہ کیا ہے کہ اس چیز کے معبود ہونے کا اعتراف و اقرار کر لیا ہے جو حس و براہمۃ کے قطعی خلاف تھا، غرض ایک جناب حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں عیاٹیوں کے افراط کی یہ نوعیت آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ ان کو انسان سے خدا بنا ڈالا، مگر دوسری طرف تقریط کا یہ حال ہے کہ خود مسیح علیہ کی شان میں اور ان کے آباء اجداد کی نسبت بڑی ہی گری ہوئی باتیں منسوب کرتے ہوئے ان کو ذرا بھی حیا یا خوف نہیں ہوتا، چنانچہ ان کا یہ سمجھی عقیدہ ہے کہ مسیح ملعون ہوا اور مرنے کے بعد جہنم میں گیا، وہاں تین روز قیام کیا جیسا کہ عنقریب یہ تفصیلات آپ کے سامنے آئے والی ہیں،

لہ یعنی روٹی کے معبود ہونیکا ۱۲ ت

اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ داؤد سلیمان علیہ السلام اور مسیح موعودؑ کے دوسرے آباً اجداد سب سے سب اس فارض کی اولاد ہیں جو خود ولد الذنا ہے، یعنی اس کی ملن تمر نے ہدوائی سے حرام نطفہ سے اس کو جنم دیا، اور زنا سے پیدا ہوا۔

اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جو عیسیٰؑ کے جدا مجدد ہیں، اور یاءُ کی بیوی سے زنا کیا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنی آخری عمر میں مر تھے ہو گئے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے،

ایک نہ بروست عیسائی عالم کا اعتراف اور وصیت

ایک نہ بروست عیسائی عالم نے جس کا نام سیل ہے اور جس نے بعض اسلامی علوم میں بھی اپنی خاصی شدید حاصل کر لی تھی، اور اپنی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ بھی کیا تھا، اور وہ ترجمہ عیسائیوں میں بڑا مقبول بھی ہے ۱۸۲۷ء سے نقل کرتے ہیں، اس نے اپنی قوم کو جو وصیت کی ہم اس کے ترجمہ مطبوع علیہ ۱۸۲۷ء سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ:-

”اول یہ کہ مسلمانوں پر جرنہ کچھیو، وہ یہ کہ ایسے مسئلے نہ سکھاؤ کہ جو عقل کے خلاف ہوں، یعنی مسلمان ایسے احتق نہیں کہ ایسی باتوں میں ہم ان پر غالب آجائیں، مثل صنم پرستی اور مثلہ عشاء رباني کے کہ مسلمان لوگ ایسی باتوں پر بہت شوکر کھاتے ہیں، اور جس کلیسا یہ مسئلے ہیں وہ کلیسا طاقت نہیں رکھتا کہ مسلمانوں کو اپنی طرف تکینچے ۱۸۲۷ء ملاحظہ فرمائیے یہ شخص کسی پتہ کی بات کر رہا ہے، اور اپنی قوم کو کسی گھر کی بات بتاتا ہے، کہ تمہارے یہ مسائل بہت پرستی اور عشاء رباني کی عقل کے خلاف ہیں،“

(حاشیہ محدث سعید لذشتہ پر) ۱۸۲۷ء یعنی ترجمہ قرآن شریف (ازالہ اشکوک، ص ۲۶۱)

۱۸۲۷ء یہ عبارت ہم نے ازالہ اشکوک ص ۲۶۱ سے نظر بہ لفظ نقل کر دی ہے ۱۲

واقعی انصاف کی بات تو یہی ہے کہ ان مسائل کے ماننے والے یقینی طور پر مشرک میں، خدا سے دعا ہے کہ صراط مستقیم کی جانب ان کی رہنمائی فرمائے ۔

مختصر

لہ انجہار الحق کے عربی متنوں میں پہلی جلد یہاں ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری جلد چوتھے باب کی دوسری فصل سے شروع ہوتی ہے، اس کے برخلاف فرانسیسی اور انگریزی ترجمہ میں پہلی جلد چوتھے باب کے اختام پر ختم ہوتی ہے ۱۲ محمد تقی عثمانی،

دوسری فصل

تسلیٹ کا عقیدہ اقوالِ پیغمبر کی روشنی میں

اب ہم خود حضرت مسیح علیہ السلام کے وہ ارشادات ہدیہ ناظرین کریں گے جو تسلیٹ کے عقیدہ کو باطل قرار دیتے ہیں:-

پہلا ارشاد انجلی یو خدا باب، آیت ۲ میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کرتے ہوئے فرمایا:-

”اوہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ لوگ تجھ خدا شے واحد اور برحق کو اور یوسوع مسیح کو جسے تو نے مجھیجا ہے، جائیں“

پس عیسیٰ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ ابدي زندگی کا حاصل یہ ہے کہ انسان امشک کو واحد حقیقی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا رسول مانے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ابدي زندگی یہ ہے کہ آپ کی ذات کو ایسے تین اقوام والاسمجھیں جو آپس میں حقیقی امتیاز رکھتے ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ عَنْ خدا بھی ہیں اور انسان بھی، یا یہ کہ وہ جسم والے خدا ہیں، یہ قول دعاء اور مناجات کے وقت فرمایا گیا ہے، اس لئے یہ احتمال بھی نہیں ہوتا کہ یہودیوں کے ڈر سے ایسا فرمادیا ہو، پس اگر تسلیٹ کا عقیدہ مدارِ نجات ہوتا تو تو آپ اس کو ظاہر فرماتے،

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ ابدی زندگی نام پے اللہ کے لئے توجید حقیقی کے اعتقاد کھنے کا، اور مسیح کے لئے رسالت کا عقیدہ رکھنے کا، تو جو چیز ان دونوں کی ضد ہے وہ یقینی طور پر بذری موت اور گمراہی ہو گی۔ یعنی توجید حقیقی ضد ہے شیعیت حقیقی کی (جیسا کہ پہلی فصل میں تفضیلًا معلوم ہو چکا ہے) اور مسیح کا بھیجا ہوا ہونا ضد ہے ان کے خدا ہونے کی کیونکہ بھیجنے والے اور فرستادہ میں مغائرت ضروری ہے، اور یہ ابدی زندگی خدا کے فضل سے مسلمانوں میں موجود ہے، دوسری قویں جیسے محسوسی اور ہندوستان و بنیان کے بُرت پرست اس سے محروم ہیں۔ کیونکہ وہ ان دونوں عقائد سے محروم ہیں، اور عیسائیوں میں شیعیت کا عقیدہ رکھنے والے بھی اس سے محروم ہیں، پہلا عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہودی تماں نراؤں سے محروم ہیں، دوسرا عقیدہ نہ ہونے کے سبب سے،

انجیل مرقس باب ۱۲ آیت ۲۸ میں ہے:-

دوسرارشاد «اور فیکھوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے شنکر جان لیا

کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا ہے، وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے: اے اسرائیل! من! خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی پیاری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ،

دوسرا یہ کہ تو اپنے پڑوسمی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ فقیہہ نے اس سے کہا مے استاد بہت خوب اتنے سچے کہا کہ وہ ایک ہی ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں، اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا، اور اپنے پڑوسمی سے اپنی برابر محبت رکھنا، سب سو فتنی قرآنیوں اور ذیکوں سے بڑھ کر ہے، جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے

لہ سو فتنی قربانی (AFFCRNRE BURNR) پچھلی امنتوں میں یہ دستور تھا جب کسی شخص کو اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہوتی تو وہ اس چیز کو کھلنے میدان یا وہ پختے پھاٹ پر کھدیتا تھا آسمان سے دیکھ آگ اللہ کی طرف سے آتی اور اسے کھالیتی۔ اگر کسی موقع پر یہ آگ نہ آتی تو اس سے قربانی کے

دانائی سے جواب دیا تھا مس سے کہا تو خدا کی پادشاہی سے دور نہیں، (آیات ۲۸ تا ۳۰ میں) اب خیل مٹی کے باب ۲۲ میں بھی یہ دو حکم اسی طرح بیان کئے گئے ہیں، افادان کے بعد فرمایا گیا ہے، «ان ہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔» الخ

معلوم ہوا کہ سب سے پہلا حکم جس کی تصریح تواتر اور پیغمبروں کی تمام کتابوں میں کی گئی ہے، اور وہی حق بھی ہے، اور خدا کی پادشاہت کے قرب کا سبب بھی، وہ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اشد ریک ہے، اس کے سوا کوئی لاائق عبادت نہیں ہے، اگر تسلیت کا عقیدہ مدارِ نجات ہوتا تو اس کا بیان توریت اور انبیاء کی تمام کتابوں میں ہوتا، کیونکہ یہ سب سے پہلا حکم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمانا چاہئے تھا کہ ۔۔

«سے پہلی وصیت یہ ہے کہ وہ رب ایک ہے، یعنی اقوام والا، جو حقیقتاً ایک

دوسرے سے ممتاز ہے۔»

لیکن اس کی تصریح نہ تو کسی نبی کی کتاب میں کی گئی، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہی ایسا فرمایا، تو یہ عقیدہ مدارِ نجات نہیں ہو سکتا،

لہذا ثابت ہوا کہ مدارِ نجات صرف توحیدِ حقیقی کا عقیدہ تسلیت اور انبیاء کی بعض کتابوں سے مستنبط کر کے اہل تسلیت کا جزو مخالف کے لئے سمجھت نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ استنباط بہت ہی خنی اور صریح اقوال کے مقابلے میں نامقبول ہے، مقصودِ مخالف کا تواریخ ہے کہ تسلیت کے عقیدہ کو اگر نجات میں کچھ بھی دخل ہوتا تو اسرائیلی پیغمبر اس کو اسی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے، جس قدر وضاحت کے توحید کو کتاب الاستثناء کے چوتھے باب کی پہنچیسویں آیت میں بیان کیا ہے:-

«تاکہ نوجانے کہ خداوند ہی خدا ہے، اور اس کے سوا کوئی ہے، ہی نہیں۔»

پھر آیت ۳۹ میں ہے:-

(گذشتہ سے پہلے سخن) نامقبول ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا، قرآن کریم نے بھی سورۃ آل عمران میں اس کی تصدیق کر دی ہے، اسی قربانی کو یہاں سوچتی قربانی کہا گیا ہے ۱۲ نقی

لہ آیات ۳۶ تا ۴۰

”پس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو دل میں جملے کے اور پر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوندی خدا ہے، اور کوئی دوسرا نہیں“ ۱۲

اور کتاب ہستناءٰ ہی کے بابت آیت ۳ میں ہے:

”سن لے اسرائیل اخداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، تھا پہنے سارے دل اور باپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے“ ۱۳

اور کتاب یسعیاہ باب ۲۵ آیت ۵ میں ہے:

”میں ہی خداوند ہوں، اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں... ... تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی خداوند ہوں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں“ ۱۴ (آیات ۹۰۵)

یہ آیتیں وضاحت سے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ مشرق سے مغرب تک ہر شخص کے لئے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اعتقاد رکھنا ہی ضروری ہے، اس بات کا نہیں کہ خدا (معاذ اللہ) تین ہیں، کتاب یسعیاہ ہی کے باب ۲۶ آیت ۹ میں ہے کہ:-

”میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں“ ۱۵

تندیہ :- - عربی ترجمہ مطبوع تہذیب^{۱۶} کے مترجم نے مسیح علیہ السلام کے اس قول میں تحریف کی ہے اور ضمیر مشکلم کو ضمیر خطاب کے تبدیل کر کے یوں ترجمہ کیا ہے:-
”خداوند تیر خدا ایک ہی خداوند ہے“ ۱۷

اس تحریف کے ذریعہ آیت کے بڑے عظیم مقصد کو ضائع کر دیا، اس لئے کہ ضمیر مشکلم اس موقع پر اس بات پر دلالت کرتی کہتی ہے کہ خود علیئی رب نہیں ہیں، بلکہ تہذیت کے ہوئے بندے ہیں، بخلاف ضمیر خطاب کے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ارادۃ تحریف کردی گئی ہے۔

۱۵ یعنی مرقس ۱۲: ۳۹۔ والا ارشاد جواہی اور پر گذرابے

۱۶ لیکن موجودہ اردو ترجمہ میں مشکلم ہی کا صبغہ ہے، ہم نے ادپر کی عبارت موجودہ اردو ترجمہ ہی سے نقل کی ہے ۱۷ ات

تیسرا ارشاد

انجیل مرقس باب ۱۲ آیت ۳۲ میں ہے:-

”لیکن اس دن یا اس گھری کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے

فرشتے، نہ بیٹا، مگر باپ ۴

یہ ارشاد بیانگ دہل تثیت کے اعتقاد کو باطل قرار دے رہا ہے، اس لئے کہ سیع علیہ السلام نے قیامت کے علم کو صرف اللہ کے لئے مخصوص فرمایا، اور خود اپنی ذات سے اس علم کی نفی بالکل اسی انداز میں کی جس طرح اللہ کے درسرے تمام بندوں سے اور اس معاملہ میں اپنے اور ان کے درمیان کوئی تفرقی نہیں کی، اگر سیع علیہ السلام معبد ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ وہ قیامت کے وقت سے بے خبر ہے باخصوص اگر یہ بھی پیش نظر کھا جائے کہ ”کلمہ“ اور ”اقزم الابن“ دونوں کام مصدق علم الہی ہے، اور سیع ۴ اور ”کلمہ“ اور ”اقزم الابن“ میں اتحاد ہے، اور جو لوگ حلول کے قائل ہیں ان کے مذہب کی بناء پر اگر ہم اس اتحاد کو بھی تسلیم کر لیں، یافہ العقوبیہ کے مسلک کی بنیاد پر جو انقلاب کے قائل ہیں، ان کی بات مان لی جائے تو اس کا مقتضاء تو یہ ہو گا کہ معاملہ بر عکس ہو، یعنی سیع ہی کو علم قیامت ۷ ہو، اور باپ کو فقط علیم نہ ہو ورنہ کم از کم جس طرح باپ کو علم ہے جسے کو بھی ضرور ہو، اور چونکہ علم جسم کی صفات میں سے ۸ لئے یکون کے عیا یوں کا عقیدہ ہے کہ خدا کی صفت علم بہبے میں ہے ۹ ۱۲ ترقی

۱۰ عیا یوں حضرت مرقس کی اس بحارت کی بڑی مادیل کیا کرتے ہیں کہ حضرت مسیح نے یہاں اپنی بھخبری پانے جسم کے اعتبار سے بتلائی ہے، خدا ہونے کی حیثیت سے یا ماپیست کی حیثیت سے نہیں، مصنف ر ۱۱ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ علم توحیم کو نہیں ہوا کرتا، اس لئے یہ کہنا ہی درست نہیں، سینٹ اگسٹن نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں حضرت مسیح اپنی بے خبری مخاطب کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں ابھی تھیں بتلا نہیں ۱۲ اس لئے گویا تمھارے حق میں اس گھری کی بابت جانتا بھی نہیں، اور اسکی پولس کے کلام سے مثال بھی پیش کی ہے، رہبیگ رائمنکس آف سینٹ اگسٹن، ص ۲۸۹ ج ۲۸، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ مطلب یہاں درست ہے تو اس اعتبار سے باپ بھی نہیں جانتا، اس لئے گاس نے بھی ابھی تک کسی کو نہیں بتلایا، پھر مگر باپ

کے استثناء کے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟ ۱۲ ترقی

بھی نہیں ہے لہذا اس میں ان کا یہ مشہور عذر بھی نہ چل سکے گا کہ حضرت مسیح نے علم قیامت کی نفی اپنی ذات سے جو کی ہے، اپنے جلد کے اعتبار سے کی ہے، پس خوب واضح ہو گیا کہ مسیح علیہ السلام نہ بہ لحاظ جسم معجود ہیں، اور نہ کسی دوسرے اعتبار سے وہ معجود ہو سکتے ہیں۔

انجیل متی باب ۳ آیت ۲۰ میں ہے:-

چوتھا ارشاد «اس وقت زبدی کے میوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے اگر سجدہ کیا، اور اس سے کچھ عرض کرنے لعج، اس نے اس سے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، فرمایہ کہ یہ میرے دنوں بیٹے تیری باشای میں ایک تیری را ہنی... اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھیں، بیرون نے جواب میں کہا... اپنے دامنے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، مگر جن کے لئے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا، انہی کے لئے تھے؟ آیات ۲۰ تا ۲۳

یہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ اپنے آپ سے قدرت کی نفی فرمادی، اور اس کو صرف اشد تعالیٰ کے ساتھ مخصوص فرمایا، جس طرح اپنے آئے علم قیامت کی نفی فرمائے اشد تعالیٰ سے مخصوص کیا تھا، اگر حضرت مسیح عالم محبوب تھے تو یہ ارشاد کیسے درست بوسکتا تھا؟

انجیل متی باب ۱۹ آیت ۱۶ میں ہے:-

پانچواں ارشاد «اور دیکھو! ایک شخص نے پاس اگر اس سے کہاے (نیک) سے

لہ زبدی، یو خا، حواری اور یعقوب حواری کے والد کا نام ہے ۱۲۔ ۳۵:۱۰ میں یہی واقعہ انجیل مرقس ۱۰:۳۵ میں بھی ذکر کیا گیا ہے، مگر دیاں یعقوب اور یو خا کی ماں کے بھائی خود یعقوب اور یو خا کا ذکر ہے، یہ بھی باطل کی تضاد بیانوں میں سے ایک ہے ۱۲ تک یہاں ”نیک“ کا لفظ مصنف نے نقل کیا ہے، عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۶۵ء میں بھی موجود ہے، (ایہا المعلم الصالح) اور قدیم انگریزی ترجمہ میں بھی MASTER ۱۸۶۵ء میں موجود ہے، لیکن موجودہ اردو اور جدید انگریزی ترجموں میں بھی یہ لفظ یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے۔ البته یہی واقعہ انجیل مرقس ۱۰:۱۷ اور لوتفا ۱۸:۱۸ میں بھی ذکر کیا گیا ہے، وہاں ان تمام ترجموں میں

”نیک“ کا لفظ اب تک موجود ہے، جو شاید آئندہ ایڈیشنوں میں حذف کر دیا جائے ۱۲ نقی

استاد میں کو نسی نیکی کر دیں، تاکہ ہمشیرہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا تو مجھے کیوں
نیک کہتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے۔“

یہ ارشاد تو تثیث کی بڑھتی کاٹ دیتا ہے، دیکھئے آپ اس کے لئے بھی تیار ہوئے
کہ آپ کو ”نیک“ کہا جائے، اگر آپ معبد ہوتے تو آپ کا یہ ارشاد بے معنی ہونا،
اس کے بجائے آپ یہ فرماتے کہ سوائے باپ بیٹے اور روح القدس کے اور کوئی
نیک نہیں اور پھر جب آپ نے اپنے حق میں ”نیک“ کا فقط کہلانا سمجھی پسند
نہیں فرمایا، تو تثیث دالوں کے ان کلمات سے جن کو وہ لوگ اپنی نمازوں میں سمجھی
کہتے ہیں :

رَأَيْتَ رَبَّكَ وَرَبَّكَ هُمَا شَاءَ مَعْبُودٌ لِيُسُوعَ مُسِيحَ جِنْ مُخْلوقٍ كَوَآنَى أَپَنَى اپَنَى
پَانَخُونَ سَبَقَ بَنَيَا يَاهَ اسَنَ كَوَتَبَاهَ نَكِيجَنَ، كَيْسَ رَاضَنَ ہُوَ سَكَنَهَ ہِیَنَ ؟

چھٹا ارشاد [ابنیل مشی باب] آیت ۳۶ میں ہے :-

وَدَرَادَ نُوبَجَهَ كَهْ قَرِيبَ، يَسُوعَ نَبَهَ بَرَبِّيَ آوازَهَ چَلَّا كَهْ كَهْ
اَبِلِيَ، اَبِلِيَ لِمَا سَبَقَتَنِيَ، يَعْنَى اَسَے مِيرَهَ خَداَ! اَسَے مِيرَهَ خَداَ! تَوَنَهَ مجَھَهَ
کیوں چھوڑ دیا؟

بھرآیت ۵ میں ہے :-

لَهُ تَوَجَّهَ نِيكَ کیوں کہتا ہے؟ یہ الفاظ مصنف نے قدیم عربی اور انگریزی ترجوں کے مطابق نقل فرمائے
ہیں، ہمکے پاس جو قدیم ترجمے ہیں ان میں یہی الفاظ یہاں مذکور ہیں، لیکن جدید اردو اور جدید انگریزی
ترجموں میں اسکی جگہ یہ عبارت مذکور ہے، ”تجھے سے نیکی کی بات کیوں پوچھتا ہے؟“ انگریزی کے قدیم
اور جدید انگریزی ترجوں میں جو کھلا اختلاف ہے وہ مندرجہ ذیل عبارتوں سے واضح ہو جگا:

رَقِيمْ تَرْجِيمْ مطبوعہ سَهْشَرَ (رجدید ترجمہ مطبوعہ سَهْشَرَ) البتہ مرقس ۱۰، ۱۱ اور لوقا
۱۸ کے تمام ترجوں میں اب تک دو یہی الفاظ پائی جاتے ہیں جو مصنف نے نقل کئے ہیں تحریک
کی سکھی مثال سے آپ اندازہ فرمائے ہیں کہ تحریک کا عمل کس قدر تدریجی رفتار سے کیا جاتا ہے؟ اس
ملک اردو ترجمہ میں یہاں ”سپری کے قریب“ کا لفظ لکھا ہے، اس واقعہ کے ذکر میں چاروں انجیلوں اور ان کے

”یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔“

اور انجیل لوقا باب ۳۲ آیت ۳۶ میں ہے :-

”پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ! میں اپنی روح تیرے ہاتھو
میں سونپتا ہوں؟“

یہ ارشاد مسیح کے معہود ہونے کی قطعی تردید کرتا ہے، خصوصاً حلول مانند والوں
کے ذہب کی بناء پر، یا انقلاب کے قائمین کے مسلک پر اس لئے کہ اگر آپ
معہود ہوتے تو دوسرے معہود سے فریاد کیوں کرتے؟ اور یہ کیونکر کہنے کہ اے
میرے معہود! اے میرے معہود! آپ نے مجھے کس لئے پھوڑ دیا؟ اور وہ یہ
فرماتے کہ اے میرے باپ میں اپنی روح آپ کو سونپ رہا ہوں کیونکہ معہود
پر موت کا واقع ہونا اور عاجز ہونا آیاتِ ذیل کی بناء پر محال ہے،

کتاب یسوعیہ باب ۳۰ آیت ۲۸ میں

ہے:

”کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سننا کہ
خداوند خداۓ ابدی و تمام زین کا خالق

**کتب مقدسہ کی رو سے معہود
کو موت نہیں آ سکتی،**

نہ کتنا نہیں اسکی حکمت اور اک سے باہر ہے؟“

اسی کتاب کے باب ۳۴ آیت ۶ میں ہے:-

”خداوند مارائیل کا بادشاہ اور اس کا فریب دینے والا رب الافواج یوں فرماتا

ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں!“

اور کتاب یہ میاہ کے باب ۱ آیت ۱۰ میں ہے:-

”یکن خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا اور ابدی بادشاہ ہے!“

اور کتاب حقوق باب اول کی آیت ۱۱ سطر ج ہے:-

”اے خداوند میرے خدا! اے میرے قدوس! کیا تو اذل سے نہیں ہے (اور تو نہیں
مرے گا)“

اور تیس تیس کے نام پہلے خط کے باب اول آیت ۷۱ میں ہے :-

”رب اذ لی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیرہ واحد خدا کی عزت اور تجید ابد الآ باد ہوتی ہے“

پس جو ذات معبود دامنگی ہو، اور کمزوری اور تحکماً و ط می سے پلک ہو، لازوال اور غیر فانی ہو وہ کس طرح عاجز ہو سکتی ہے یا مرسکتی ہے؟ کیا ایک فانی اور عاجز چیز معبود ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو پہا بیکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی معبود وہی ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے خیال کے مطابق اس وقت پھاڑ کر خیال کر رہے تھے، اور تعجب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے معبور کے مرجانے پر اکتفاء نہیں کرتے، بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد جہنم میں بھی داخل ہوا۔

عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح مرنے کے
چنانچہ جوادین سا باطن نے یہ عقیدہ کتاب
الصلوٰۃ مطبوعہ ۱۵۰۶ء سے اس طرح نقل
بعد جہنم میں داخل ہوئے
 کیا ہے:-

”جس طرح مسیح ہمارے لئے مرے اور دفن ہوئے اسی طرح ہم کو یہ عقیدہ بھی رکھنا لازم ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوئے“

پادری فلپس گواو تو لیں نے احمد الشتر لیث بن زین العابدین کے رسالہ کی تردید میں عربی زبان میں ایک کتاب مکھی، جس کا نام خیالات فلپس رکھا، یہ کتاب رومہ المکری کے علاقہ بسلو قیت میں ۱۴۶۹ھ میں طبع ہوئی ہے، محمد کو ایک کتاب کا ایک نسخہ عاریت کے طور پر شہر دملکی کی انگریزی لاشہری سے ملا، پادری موصوف نے اپنی س کتاب میں یوں مکھا ہے:-

”جس نے ہماری رہائی کے لئے دکھ اٹھایا ہے، اور دوزخ میں گرا، پھر تیرے دن مردوں کے درمیان اٹھ کھڑا ہوا المخ“

صغر کنز شریف کا حاشیہ، ملہ اطہار المحن کے دونوں سخنوں میں یہی الفاظ مذکور ہیں لیکن ہمارے پاس جتنے قدیم وجدید ترجیح ہیں ان سب میں اس کے بجائے اور ہم نہیں مرسیں مجھے ”کے الفاظ ہیں، اطہار المحن کے انگریزی ترجمہ نے یہ جملہ ہی سے سے تقلیل نہیں کیا، البتہ ”کیا توازل سے المحن کے

اور پریسٹر بک میں اتہاںی شیش کے عقیدہ کے ذیل میں جس پر تمام عیاشی ایمان رکھتے ہیں، " فقط " ہیل " موجود ہے جس کے معنی جہنم ہیں، جو لوگ بن سا با ط کہتے ہیں کہ :-

" پادری مارٹیر و کرس نے مجھ سے اس عقیدہ کی توجیہ کرنے ہوئے کہا کہ جب مسیح نے انسانی جسم کو قبول کیا تو اس کے لئے ضروری ہو گیا کہ تمام انسانی عوارض کو قبول اور برداشت کرے، لہذا وہ جہنم میں بھی داخل ہوا اور عذاب بھی ریا گیا، اور جب جہنم سے نکلا تو اپنے ساتھ ان تمام لوگوں کو جہنم میں مسیح کے داخل سے قبل موجود تھے جہنم سے نکال لایا میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا اس عقیدہ کی کوئی دلیل نقلی بھی ہے، کچھ لگا کہ اس کے لئے کسی دلیل کی حاجت نہیں، اس پر اس مجلس کے شرکاء میں سے ایک عیاشی نے بطور ظرافت کے کہا کہ پھر تو باپ بڑا ہی سنگمل نہ کا، ورنہ اپنے بیٹے کو ہرگز جہنم میں جانے نہ دیتا، یہ

PRAVER BOOK ۵

۵۰ عقیدہ اتہاںی شیش (مشور)

عیاشی عالم ہد فلسفہ اتہاںی شیش کی طرف مسوب ہے (پ ش ۱۹۴۸ء م ۳۳ء) جو عرصہ دراز تک اسکندریہ کا بیش رہا ہے اس کے زمانہ میں آریوس ر دیکھئے ص ۴۱۳ جلد ہذا کا حاشیہ ملے کافر قہ اپنے شہاد پر تھا جو حضرت مسیح کو خدا سے الگ مانتا تھا، اتہاںی شیش نے اس فرقہ کی زردی کو اپنی زندگی کا مشین بیلا اور اسی ہد و چہد میں اسے پانچ مرتبہ جلا و طی کیا گیا، لیکن بالآخر یہ اپنے مشن میں کامیاب ہوا، اور تاپرین فرقہ کے نظریات کو غلط قرار دے دیا گیا، نیتفاوی کو نسل دیکھئے ص ۶۸ جلد ہذا) کے فیصلہ میں بھی اس پر دہ اسی کا ہاتھ نہ کا، اس کا ہاتھ نہ کا کہ حضرت مسیح ع خدا کا یک افnom ہیں جو خدا سے مختلف نہیں ہے، اس کے اسی نظریہ کو عیاشیوں میں قبول عام حاصل ہوا، بعد میں اس کے عقائد کو کسی نے نظم کر دیا، اسی نظم کو عقیدہ اتہاںی شیش " کہا جاتا ہے، واضح رہے کہ یہ نظم خود اس کی نہیں ہے بلکہ اس کے عقیدہ کو دوسرا نے نظم کر دیا ہے (دیکھئے برٹائیکا، ص ۷۵۹ جلد ۲، مقابلہ اتہاںی شیش اور شارٹ ہسٹری آف دی چرچ ارکلیئر ک ص ۷۰) ۱۲ لفظی ۳۵ HELL

شیکر پادری مذکور نے غصہ ہو کر اس مجلس سے محترض کو نکلوادیا، یہ شخص میرے پاس آیا اور اسلام قبول کیا، مگر اس نے مجھ سے یہ عہد لیا کہ "ماجیات اس کے مسلمان ہونے کا اظہار کسی سے نہ کروں" ۱۸۳۸ء مطابق ۱۴۲۸ھ شہر لکھنؤ میں سے ایک بڑا مشہور پادری بوف دلف نامی آیا، جو پہنے لئے الہام کا بھی دعویٰ کرتا تھا، اور اس کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ حضرت مسیح کا نازول ۱۸۳۶ء میں ہو گا، اس کے اور شیعہ مجتہد کے درمیان اس بارے میں زبانی اور تحریری مناظرہ ہوا، شیعہ مجتہد نے اس سے اس عقیدہ کی نسبت سبھی سوال کیا، ہمینے لکھا بیشک مسیح جہنم میں داخل ہوئے اور انہیں عذاب دیا گیا، لیکن اس میں کوئی مضائقہ نہیں، اس لئے کہ یہ جہنم کا داخلہ اپنی امت کی نجات کے لئے تھا، عیاشیوں کے بعض فرقے اس سے بھی زیادہ قبیح اعتقاد رکھتے ہیں، بل اپنی تاریخ میں مرسلیون فرقہ کا بیان کرتے ہوئے کہنا ہے :-

"اس فرقہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ مرنے کے بعد داخل جہنم ہوا، اور قابل اور اہل سعدوم کی روحوں کو نجات دی، کیونکہ یہ سب دنیا موجود تھے،

یزیر پوگ خالق مشرکے فرماداروں میں سے نہ تھے، اور ہابیل اور حضرت نوح اور ابراہیم اور دوسرے صلحاء متقدیں کی روحوں کو بستور جہنم میں باقی رہنے دیا، کیونکہ یہ سب پہلے فرقہ کے مقابلہ تھے، اور اس فرقہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خالق عالم اس خدا میں سمجھ رہیں جس نے عیسیٰ کو سمجھا تھا، اور اسی سببے یہ فرقہ عہد غنیم کی کتابوں کے الہامی ہونے کا منکر ہے الخ" ۱۸۳۷ء

پس اس فرقہ کا عقیدہ چند چیزوں پر مشتمل ہے :-

لہ جسے مرقوی نبھتے ہیں، اس فرقہ کے مفصل تعارف کے لئے دیکھئے ص ۲۷۷ اور ص ۵۹۰ کے حاشی ۱۲۳ سو ۳ سو ۳ میں (SADDAM) ملکیت کا وہ شہر جہاں حضرت نوٹ مسعود فرمائے گئے تھے اور اسے انہی بد عنوانیوں کی وجہ سے ایک ہوناک عذاب کے ذریعہ تباہ کر دیا گیا، اس تباہی کا واقعہ قرآن کریم سورہ ہود اور کتابت بہأش باقی میں موجود ہے، آج یہاں بحربت بہتا ہے ۱۲ تقی

ایک یہ کہ ساری رویں خواہ وہ انبیاء اور صلحاء کی ہوں یا بد بختوں کی عیسیٰ علیہ السلام کے داخل جہنم ہونے سے قبل عذاب میں مبتلا تھیں،

دوسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام میں داخل ہوئے،

تیرے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بد بختوں کی روحوں کو عذاب سے نجات دی، اور انبیاء و صلحاء کی روحوں کو جہنم میں باقی رکھا،

پھر تھے یہ کہ صلحاء عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلت اور بد بخت لوگ عیسیٰ کے موافق تھے، پانچوں یہ کہ خالق عالم و معبود ہیں، ایک نیکی کا خالق، دوسرے بدی کا، اور علیہ پہلے خدا کے رسول اور باقی تمام مشوراء انبیاء دوسرے خدا کے پیغبر ہیں،

پھر یہ کہ عہدِ عتیق کی کتابوں الہامی نہیں ہیں،

میزان الحق کے مصنفوں نے اپنی کتاب حل الاشکال میں (جو کشف الاستار کے حواب میں لکھی گئی ہے) یوں کہا ہے کہ :-

"پسی بات تو یہ ہے کہ مسیحی عقیدہ میں یہ پیغمبر موجود ہے کہ عیسیٰ داخل جہنم ہوئے،

اور تیرے روز نکل آئے، اور آسمان پر چڑھ گئے، لیکن اس موقع پر جہنم سے مراد

"ہاؤس" ہے جو جہنم اور فلق اعلیٰ کے درمیان ایک مقام ہے، اور مطلب یہ ہے کہ

عیسیٰ علیہ السلام میں داخل ہوئے، تاکہ دہائی کے لوگوں کو اپنی عظمت و جلال کا مشاہدہ

کرائیں، اور ان پر ظاہر کر دیں کہ میں مالکِ حیات ہوں، اور یہ کہ میں نے سول پر چڑھ

کر اور مرکر گناہ کا کفارہ دے دیا، اور شیطان د جہنم کو مغلوب اور ایمان والوں کے

لئے ان دونوں کو کا لعدم بنادیا (معنی)

اول تو یہ کتاب القصّة اور پادری فلپس کو ادنولیس کے ظاہر کلام سے اور پادری

ماد طیروں اور یوسف ولف کے صراحت نہ اقرار سے نیز عقیدہ اتسہانی عثیس سے یہ

بات ثابت ہو چکی ہے کہ جہنم کے حقیقی معنی مراد میں، اور خود صاحب میزان الحق نے بھی

اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ بات اس عقیدہ میں موجود ہے، پھر بغیر کسی دلیل کے نا دلیل

کی ہے جو قابل قبول نہیں، ان کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنی مذہبی کتب سے یہ بھی ثابت

گریں کہ فلک اعلیٰ اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، جس کا نام ”ہاؤس“ ہے پھر ان کتابوں سے یہ ثبوت کبھی پیش کریں کہ جہنم میں مسیح کا داخلہ اس غرض سے تھا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اپنی عظمت دجلال کا مشاہدہ کرائیں اور مالک حیات ہو پر تنبیہ کریں، پھر یہ بات اس وقت اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ عجمائی پورپ کے نزدیک افلک کا کوئی وجود ہی حقیقتاً نہیں ہے، اور متاخرین علمائے پر دلستہ ان کی اس رائے کو تسلیم کر کے ان کی ہمنوائی کرتے ہیں۔ پھر یہ توجیہ ان کے زعم کے مطابق کیونکہ درست ہو سکتی ہے؟

پھر یہ ”ہاؤس“ یا خوشی لورٹو اب کی جگہ ہو سکتی ہے یا مشقت اور عذاب کا مقام؛ انہیں یہ صورت ہے تو وہاں کے رہنے والوں کو اس تنبیہ کی کیا ضرورت، اس لئے کہ وہ تو اس سے قبل ہی راحت دعیش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر دوسری شکل ہے تو اس تادیل کا کوئی فائدہ اور نتیجہ نہیں، کیونکہ ارادا حکادوزخ عذاب و تخلیف ہی کا مقام ہو سکتا ہے،

میسح علیہ السلام کا کفارہ تیسرا بات یہ ہے کہ مولیٰ کی موت کا گناہوں کے لئے کفارہ ہو جانا قطعی عقل کے خلاف ہے، یہو نکہ اس گناہ سے مراد بنجانا عقل کے خلاف ہے عیا نیوں کے خیال کے مطابق وہ اصلی گناہ ہے جو آدم علیہ السلام سے صادر ہوا تھا، نکہ وہ گناہ جوان کی اولاد سے صادر ہوئے یا ہوتے ہیں اور یہ بات عقولاً درست نہیں کہ اس گناہ کی سزا ان کی اولاد کو دی جائے، اس لئے کہ اولاد بآپ داد دن کے جرم میں مانوذ نہیں ہو سکتی، جس طرح کہ اولاد کے گناہوں کی وجہ سے بآپ داد دن کو نہیں پکڑا جاسکتا، بلکہ یہ چیز انضافات کے خلاف ہے، پچھلے

کتاب حز قیام کے اٹھارہویں باب کی آیت ۲۰ میں اس طرح کہا گیا ہے:-
”بآپ بیٹا کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے کا، اور نہ بآپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ، صدق

کی صداقت اسی کے لئے ہو گی اور شریکی شرات شتر مکے لئے“

لئے اس عقیدے کی تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائے مقدمہ ص ۵۵ ج ۱۰۱

پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اس تو بامطب ہے کہ شیطان کو موت سے بینا دیا گیونکہ شیطان ان کی انجیل کے فیصلہ کے مطابق حضرت مسیح کی پیدائش کے قبل سے ہی ابتدی بیٹھیوں میں مقید اور گرفتار ہے، یہودا کے خط کے کی چھٹی آیت اس طرح ہے ”اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا، بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روزِ عظیم کی عدالت تک رکھا ہے“

پھر تعجب بالائے تعجب یہ ہے کہ عیاذی اپنے مفروضہ معبد کے مرجانے اور دوزخ میں جانے پر اکتفاء نہیں کرتے، بلکہ اس پر تیسری بات کا یوں اضافہ کرتے ہیں کہ وہ طعون سمجھی ہوا۔ خدا کی پناہ! اور مسیح کا ملعون ہونا تمام عیاشیوں کو مسلم ہے، اور صاحب میران الحق نے سمجھی اس کو تسلیم کیا ہے، اور اپنی کتابوں میں اس کی تصریح سمجھی ہے، اور تو خود ان کے مقدس پوسن نے سمجھی اپنے خط میں جو گفتیوں کو بھیجا گیا تھا تیسرے باب کی تیرھویں آیت میں تصریح کی ہے کہ ۔ ۱

”مسیح جو ہمارے نئے لعنی بن، اس نے ہمیں مولے کو شریعت کی لعنت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے جو کوئی نکھلی پر لٹکایا گیا وہ لعنی ہے“

اور ہمارے نزدیک اس مکروہ لفظ کا استعمال کرنا بہت ہی قبیح ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو لعنت کرنے والے کو توریت کے حکم کے بوجب سنگار کرنا واجب ہے، بلکہ موئی کے زمانہ میں اس جرم پر ایک شخص کو سنگار کیا جا چکا ہے، چنانچہ سفر اجبار کے باب ۲۳ میں یہ بات صاف طور پر مذکور ہے، بلکہ ماں باپ کو لعنت کرنے والے بھی واجب القتل ہے، چنانچہ اللہ کو لعنت کرنے والا، جیسکہ کتاب مذکور کے باب ۲ میں مذکور ہے ۔

ثانیاً ارشاد [انجیل یوحنا بابت آیت ۱۸ میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے میریم کو خطاب کرنے ہوئے فرمایا ہے

لہ یہ قوریت کی اس عبارت کی طرف اشارہ ہے: بُجھے پھانسی لمتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے استثناء ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۴۱۰، ۴۴۱۱، ۴۴۱۲، ۴۴۱۳، ۴۴۱۴، ۴۴۱۵، ۴۴۱۶، ۴۴۱۷، ۴۴۱۸، ۴۴۱۹، ۴۴۲۰، ۴۴۲۱، ۴۴۲۲، ۴۴۲۳، ۴۴۲۴، ۴۴۲۵، ۴۴۲۶، ۴۴۲۷، ۴۴۲۸، ۴۴۲۹، ۴۴۳۰، ۴۴۳۱، ۴۴۳۲، ۴۴۳۳، ۴۴۳۴، ۴۴۳۵، ۴۴۳۶، ۴۴۳۷، ۴۴۳۸، ۴۴۳۹، ۴۴۳۱۰، ۴۴۳۱۱، ۴۴۳۱۲، ۴۴۳۱۳، ۴۴۳۱۴، ۴۴۳۱۵، ۴۴۳۱۶، ۴۴۳۱۷، ۴۴۳۱۸، ۴۴۳۱۹، ۴۴۳۲۰، ۴۴۳۲۱، ۴۴۳۲۲، ۴۴۳۲۳، ۴۴۳۲۴، ۴۴۳۲۵، ۴۴۳۲۶، ۴۴۳۲۷، ۴۴۳۲۸، ۴۴۳۲۹، ۴۴۳۳۰، ۴۴۳۳۱، ۴۴۳۳۲، ۴۴۳۳۳، ۴۴۳۳۴، ۴۴۳۳۵، ۴۴۳۳۶، ۴۴۳۳۷، ۴۴۳۳۸، ۴۴۳۳۹، ۴۴۳۳۱۰، ۴۴۳۳۱۱، ۴۴۳۳۱۲، ۴۴۳۳۱۳، ۴۴۳۳۱۴، ۴۴۳۳۱۵، ۴۴۳۳۱۶، ۴۴۳۳۱۷، ۴۴۳۳۱۸، ۴۴۳۳۱۹، ۴۴۳۳۲۰، ۴۴۳۳۲۱، ۴۴۳۳۲۲، ۴۴۳۳۲۳، ۴۴۳۳۲۴، ۴۴۳۳۲۵، ۴۴۳۳۲۶، ۴۴۳۳۲۷، ۴۴۳۳۲۸، ۴۴۳۳۲۹، ۴۴۳۳۳۰، ۴۴۳۳۳۱، ۴۴۳۳۳۲، ۴۴۳۳۳۳، ۴۴۳۳۳۴، ۴۴۳۳۳۵، ۴۴۳۳۳۶، ۴۴۳۳۳۷، ۴۴۳۳۳۸، ۴۴۳۳۳۹، ۴۴۳۳۳۱۰، ۴۴۳۳۳۱۱، ۴۴۳۳۳۱۲، ۴۴۳۳۳۱۳، ۴۴۳۳۳۱۴، ۴۴۳۳۳۱۵، ۴۴۳۳۳۱۶، ۴۴۳۳۳۱۷، ۴۴۳۳۳۱۸، ۴۴۳۳۳۱۹، ۴۴۳۳۳۲۰، ۴۴۳۳۳۲۱، ۴۴۳۳۳۲۲، ۴۴۳۳۳۲۳، ۴۴۳۳۳۲۴، ۴۴۳۳۳۲۵، ۴۴۳۳۳۲۶، ۴۴۳۳۳۲۷، ۴۴۳۳۳۲۸، ۴۴۳۳۳۲۹، ۴۴۳۳۳۳۰، ۴۴۳۳۳۳۱، ۴۴۳۳۳۳۲، ۴۴۳۳۳۳۳، ۴۴۳۳۳۳۴، ۴۴۳۳۳۳۵، ۴۴۳۳۳۳۶، ۴۴۳۳۳۳۷، ۴۴۳۳۳۳۸، ۴۴۳۳۳۳۹، ۴۴۳۳۳۳۱۰، ۴۴۳۳۳۳۱۱، ۴۴۳۳۳۳۱۲، ۴۴۳۳۳۳۱۳، ۴۴۳۳۳۳۱۴، ۴۴۳۳۳۳۱۵، ۴۴۳۳۳۳۱۶، ۴۴۳۳۳۳۱۷، ۴۴۳۳۳۳۱۸، ۴۴۳۳۳۳۱۹، ۴۴۳۳۳۳۲۰، ۴۴۳۳۳۳۲۱، ۴۴۳۳۳۳۲۲، ۴۴۳۳۳۳۲۳، ۴۴۳۳۳۳۲۴، ۴۴۳۳۳۳۲۵، ۴۴۳۳۳۳۲۶، ۴۴۳۳۳۳۲۷، ۴۴۳۳۳۳۲۸، ۴۴۳۳۳۳۲۹، ۴۴۳۳۳۳۳۰، ۴۴۳۳۳۳۳۱، ۴۴۳۳۳۳۳۲، ۴۴۳۳۳۳۳۳، ۴۴۳۳۳۳۳۴، ۴۴۳۳۳۳۳۵، ۴۴۳۳۳۳۳۶، ۴۴۳۳۳۳۳۷، ۴۴۳۳۳۳۳۸، ۴۴۳۳۳۳۳۹، ۴۴۳۳۳۳۳۱۰، ۴۴۳۳۳۳۳۱۱، ۴۴۳۳۳۳۳۱۲، ۴۴۳۳۳۳۳۱۳، ۴۴۳۳۳۳۳۱۴، ۴۴۳۳۳۳۳۱۵، ۴۴۳۳۳۳۳۱۶، ۴۴۳۳۳۳۳۱۷، ۴۴۳۳۳۳۳۱۸، ۴۴۳۳۳۳۳۱۹، ۴۴۳۳۳۳۳۲۰، ۴۴۳۳۳۳۳۲۱، ۴۴۳۳۳۳۳۲۲، ۴۴۳۳۳۳۳۲۳، ۴۴۳۳۳۳۳۲۴، ۴۴۳۳۳۳۳۲۵، ۴۴۳۳۳۳۳۲۶، ۴۴۳۳۳۳۳۲۷، ۴۴۳۳۳۳۳۲۸، ۴۴۳۳۳۳۳۲۹، ۴۴۳۳۳۳۳۳۰، ۴۴۳۳۳۳۳۳۱، ۴۴۳۳۳۳۳۳۲، ۴۴۳۳۳۳۳۳۳، ۴۴۳۳۳۳۳۴، ۴۴۳۳۳۳۳۵، ۴۴۳۳۳۳۳۶، ۴۴۳۳۳۳۳۷، ۴۴۳۳۳۳۳۸، ۴۴۳۳۳۳۳۹، ۴۴۳۳۳۳۳۱۰، ۴۴۳۳۳۳۳۱۱، ۴۴۳۳۳۳۳۱۲، ۴۴۳۳۳۳۳۱۳، ۴۴۳۳۳۳۳۱۴، ۴۴۳۳۳۳۳۱۵، ۴۴۳۳۳۳۳۱۶، ۴۴۳۳۳۳۳۱۷، ۴۴۳۳۳۳۳۱۸، ۴۴۳۳۳۳۳۱۹، ۴۴۳۳۳۳۳۲۰، ۴۴۳۳۳۳۳۲۱، ۴۴۳۳۳۳۳۲۲، ۴۴۳۳۳۳۳۲۳، ۴۴۳۳۳۳۳۲۴، ۴۴۳۳۳۳۳۲۵، ۴۴۳۳۳۳۳۲۶، ۴۴۳۳۳۳۳۲۷، ۴۴۳۳۳۳۳۲۸، ۴۴۳۳۳۳۳۲۹، ۴۴۳۳۳۳۳۳۰، ۴۴۳۳۳۳۳۳۱، ۴۴۳۳۳۳۳۳۲، ۴۴۳۳۳۳۳۳۳، ۴۴۳۳۳۳۳۴، ۴۴۳۳۳۳۳۵، ۴۴۳۳۳۳۳۶، ۴۴۳۳۳۳۳۷، ۴۴۳۳۳۳۳۸، ۴۴۳۳۳۳۳۹، ۴۴۳۳۳۳۳۱۰، ۴۴۳۳۳۳۳۱۱، ۴۴۳۳۳۳۳۱۲، ۴۴۳۳۳۳۳۱۳، ۴۴۳۳۳۳۳۱۴، ۴۴۳۳۳۳۳۱۵، ۴۴۳۳۳۳۳۱۶، ۴۴۳۳۳۳۳۱۷، ۴۴۳۳۳۳۳۱۸، ۴۴۳۳۳۳۳۱۹، ۴۴۳۳۳۳۳۲۰، ۴۴۳۳۳۳۳۲۱، ۴۴۳۳۳۳۳۲۲، ۴۴۳۳۳۳۳۲۳، ۴۴۳۳۳۳۳۲۴، ۴۴۳۳۳۳۳۲۵، ۴۴۳۳۳۳۳۲۶، ۴۴۳۳۳۳۳۲۷، ۴۴۳۳۳۳۳۲۸، ۴۴۳۳۳۳۳۲۹، ۴۴۳۳۳۳۳۳۰، ۴۴۳۳۳۳۳۳۱، ۴۴۳۳۳۳۳۳۲، ۴۴۳۳۳۳۳۳۳، ۴۴۳۳۳۳۳۴، ۴۴۳۳۳۳۳۵، ۴۴۳۳۳۳۳۶، ۴۴۳۳۳۳۳۷، ۴۴۳۳۳۳۳۸، ۴۴۳۳۳۳۳۹، ۴۴۳۳۳۳۳۱۰، ۴۴۳۳۳۳۳۱۱، ۴۴۳۳۳۳۳۱۲، ۴۴۳۳۳۳۳۱۳، ۴۴۳۳۳۳۳۱۴، ۴۴۳۳۳۳۳۱۵، ۴۴۳۳۳۳۳۱۶، ۴۴۳۳۳۳۳۱۷، ۴۴۳۳۳۳۳۱۸، ۴۴۳۳۳۳۳۱۹، ۴۴۳۳۳۳۳۲۰، ۴۴۳۳۳۳۳۲۱، ۴۴۳۳۳۳۳۲۲، ۴۴۳۳۳۳۳۲۳، ۴۴۳۳۳۳۳۲۴، ۴۴۳۳۳۳۳۲۵، ۴۴۳۳۳۳۳۲۶، ۴۴۳۳۳۳۳۲۷، ۴۴۳۳۳۳۳۲۸، ۴۴۳۳۳۳۳۲۹، ۴۴۳۳۳۳۳۳۰، ۴۴۳۳۳۳۳۳۱، ۴۴۳۳۳۳۳۳۲، ۴۴۳۳۳۳۳۳۳، ۴۴۳۳۳۳۳۴، ۴۴۳۳۳۳۳۵، ۴۴۳۳۳۳۳۶، ۴۴۳۳۳۳۳۷، ۴۴۳۳۳۳۳۸، ۴۴۳۳۳۳۳۹، ۴۴۳۳۳۳۳۱۰، ۴۴۳۳۳۳۳۱۱، ۴۴۳۳۳۳۳۱۲، ۴۴۳۳۳۳۳۱۳، ۴۴۳۳۳۳۳۱۴، ۴۴۳۳۳۳۳۱۵، ۴۴۳۳۳۳۳۱۶، ۴۴۳۳۳۳۳۱۷، ۴۴۳۳۳۳۳۱۸، ۴۴۳۳۳۳۳۱۹، ۴۴۳۳۳۳۳۲۰، ۴۴۳۳۳۳۳۲۱، ۴۴۳۳۳۳۳۲۲، ۴۴۳۳۳۳۳۲۳، ۴۴۳۳۳۳۳۲۴، ۴۴۳۳۳۳۳۲۵، ۴۴۳۳۳۳۳۲۶، ۴۴۳۳۳۳۳۲۷، ۴۴۳۳۳۳۳۲۸، ۴۴۳۳۳۳۳۲۹، ۴۴۳۳۳۳۳۳۰، ۴۴۳۳۳۳۳۳۱، ۴۴۳۳۳۳۳۳۲، ۴۴۳۳۳۳۳۳۳، ۴۴۳۳۳۳۳۴، ۴۴۳۳۳۳۳۵، ۴۴۳۳۳۳۳۶، ۴۴۳۳۳۳۳۷، ۴۴۳۳۳۳۳۸، ۴۴۳۳۳۳۳۹، ۴۴۳۳۳۳۳۱۰، ۴۴۳۳۳۳۳۱۱، ۴۴۳۳۳۳۳۱۲، ۴۴۳۳۳۳۳۱۳، ۴۴۳۳۳۳۳۱۴، ۴۴۳۳۳۳۳

”مجھے زچھو، یکونکہ میں اب تک باپ کے پاس اور نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کر میں اپنے باپ اور تمھارے باپ اور اپنے خدا اور تمھارے خدا کے پاس اور جاتا ہوں۔“

اس قول میں مسیحؑ نے خود کو باقی سب النسلوں کے برابر قرار دیا ہے کہ میرا باپ اور تمھارا باپ اور میرا خدا اور تمھارا خدا (ناکہ لوگ مسیح پر غلط بہتان نزابشی کرتے ہوئے یوں نہ کہیں کہ وہ معجود ہیں، یا خدا کے بیٹے ہیں، لیں جس طرح مسیح کے تمام شاگرد خدا کے بنے ہیں، اور واقع میں خدا کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ صرف مجازی معنی کے لحاظ سے ان کو بیٹا کہدیا گیا ہے، بالکل اسی طرح مشین خدا کے بنے اور ہیں اور حقیقت خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اور چونکہ یہ ارشاد عیا یؤں کے دعوے کے مطابق موت کے بعد زندہ ہونے پر اور آسمان پر چڑھنے سے کچھ قبل فرمایا گیا ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ مسیح آپ نے آسمان پر چڑھنے کے زمانہ تک اپنے خدا کے بنے ہونے کی تصریح کرتے رہے اور یہ قول فرآن کریم کے بیان کے تلافی صدی مطابق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے ۔

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتُنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُ لِفْلَلَهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ
”میں ننان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا تھا جس کا حکم آپ نے مجھے دیا تھا، یعنی یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو تمھارا بھی پروردگار ہے اور میرا بھی“

آٹھواں ارشاد [انجیل یوحنا کے باب ۱۲ آیت ۲۸ میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد اس طرح منقول ہے ۔]

”باپ مجھ سے بڑا ہے“

اس میں بھی وہ اپنے معبد ہونے کا انکار فرمایا ہے یہ یکونکہ اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، چہ جائیں کہ اس سے بڑا ہو،

لہ لہذا یوں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے یہودیوں کے خوف سے اپنا معبد اور خدا ہونا واضح طور سے بیان نہیں فرمایا تھا، یکونکہ اب تو کسی کا خوف نہ تھا۔ ۲۳ نقی

نواف ارشاد | انجیل یوحنا باب ۱۲ آیت ۳ میں آپ کا ارشاد راست داس طرح ذکر کیا گیا ہے :-

”جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں، بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیج لیا ہے“
یعنی! اس میں توصیف موجود ہے کہ یہ صرف رسول اور ہنگامہ رہوں، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ ائمہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے۔

دسواف ارشاد | انجیل متی باب ۲۳ میں ہے کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو خطاب کرنے ہوئے فرمایا:-

”و اور زین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمھارا باپ ایک ہی ہے، جو آسمانی ہے، اور نہ تم ہادی کہلاو، کیونکہ تمھارا ہادی ایک ہی ہے یعنی مسیح“ (آیات ۹، ۱۰)

اس میں بھی یہ تصریح فرمادی گئی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اور میں صرف ہادی ہوں،
گیارہوا ارشاد | انجیل متی کے باب ۲۴ آیت ۳۶ میں ہے کہ:-

”اس وقت یسوع ان کے سانحہ کشمنی نام ایک جگہ میں آیا، اور اپنے شاگردوں سے کہا یہیں بٹھے رہنا، جب تک کہ میں دہاں جا کر دعاء کروں، اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا، اس وقت میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہر دو میرے ساتھ جائے گے رہو، پھر ذرا آگے بڑھا، اور منہ کے بل گر کر یوں دعاء کی کرے میرے باپ! اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے مل جائے، تو بھی نہ جیسا یہیں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو جا ہتا ہے (ویسے ہی ہو)، پھر شاگردوں کے پاس اگر..... پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعاء کی کہ اے میرے باپ! اگر یہ میرے پیئے بغیر نہیں مل سکا تو تیری مرضی پوری ہو، اور اگر پھر انہیں سوتے پایا..... اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعاء کی“ (آیات ۳۶ تا ۴۳)

لہ یعنی یوحنا اور یعقوب، ملے اس سے مراد موت کا پیالہ ہے ॥

لہ یہ الفاظ اطھارالحق میں نہیں ہیں ۱۲

ان آیتوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اقوال و افعال سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ پسند کر رکھتے تھے، کیا کوئی معمور غمگین اور نجیب ہو سکتا ہے؟ اور کیا وہ دوسرے معبود کے لئے نماز پڑھتا اور گزارتا ہے؟ نہیں خدا کی قسم نہیں! اور جب کہ حضرت مسیح کی ذات گرامی نے اس عالم میں اگر جسمانی بیان پہنچاتا کہ ان کے خون سے سارا علم جہنم کے عذاب سے چھپ کارا پائے، تو پھر نجیب اور غمگین ہونے کا کیا مطلب؟ اور اس دعاء کے کیا معنی کہ اگر اس پیالہ کا ہٹایا جانا ممکن ہو تو ہشاد یہ بھئے،

بارہواں ارشاد آپ کی عادت شریف یہ تھی کہ جب اپنلاؤ کر فرماتے تو اپنے کو انسان کے بیٹے کے الفاظ سے تعبیر کرتے جیسا کہ مرد جہاں بخیل کے ناظروں سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے مثلاً آیات ۲۰ باب ۸ و آیت ۶ باب ۹ و ۱۳ د، ۲ باب ۹ و آیت ۴ و ۱۲ د ۲۳ باب ۱ و آیت ۱۱ باب ۱۸ و آیت ۲۸ باب ۹ و آیت ۲۷ باب ۲۳ و آیت ۲۳ و ۳۵ و ۳۷ باب ۱، بخیل مثی میں اور اسی طرح دوسری کتابوں میں ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کا بیٹا انسان ہی ہو سکتا ہے:-



لہ مثلاً ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا الخ، "د متی ۱۶: ۲۸، اسی کتاب

تیسرا فصل

نصاریٰ کے دلائل پر ایک نظر

مقدمہ کے پانچویں اصول سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ یوحنًا کا کلام مجاز سے بھرا ہوا ہے، اور شاذ و نادر ہی کوئی فقرہ ایسا مطے کا جو تادیل کا محتاج نہ ہو، اسی طرح مقدمہ کے چھٹے اصول سے یہ بھی واضح ہو چکا کہ میشح کے اقوال میں اجمال بکثرت پایا جاتا ہے، اور وہ بھی اس قدر کہ اکثر اوقات ان کے معاهرین اور شاگرد بھی اس کو نہ سمجھتے تھے، تا وقت تک کہ خود میشح اس کی تفسیر نہ فرمادیں۔ اسی طرح بارہویں نمبر سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ حضرت میشح نے آسمان پر تشریف لے جانے تک کبھی بھی اپنی اُنہیت اور معنوں ہونے کا ذکر اس طرح وضاحت کے ساتھ نہیں کیا جس میں دراسی بھی شبہ کی گنجائش نہ ہو، اور حضرت میشح علیہ السلام کے جن اقوال سے عیسائی حضرات استند لال کرتے ہیں وہ عموماً بمحمل اور بجھل یوحنًا سے منقول ہیں، ان اقوال کی تین قسمیں ہیں :

بعض اقوال تو وہ ہیں جو اپنے حقیقی معانی کے لحاظ سے ان کے مقصد پر دلالت

ہی نہیں کرتے، اس لئے ان اقوال سے یہ سمجھنا کہ حضرت مسیح خدا تھے محسن ان کا زعم باطل ہے، اور یہ استنباط اور زعم دلائل عقلیہ و قطعیہ اور نصوص عیسویہ کے مقابلہ میں نہ جائز ہے نہ کافی ہے، جیسا کہ گذشتہ دونوں فضلوں سے معلوم ہو چکا ہے، اور بعض اقوال ایسے ہیں کہ ان کی تفسیر و انجیل کے دو سکریفیقات اور مسیح کے دوسرے ارشادات سے ہو جاتی ہے، اس لئے ان میں بھی عیا یوں کی اپنی تفاسیر کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا، اور بعض اقوال ایسے ہیں جن کی تاویل خود عیاشیوں کے نزدیک بھی ضروری ہے، پھر جب تاویل ہی ضروری ہوئی تو پھر مجہتے ہیں کہ تاویل الیسی ہونی چاہئے کہ جو دلائل اور نصوص کے خلاف نہ ہو، اس لئے یہاں ان کے تمام اقوال کو نقل کرنے کی چندان ضرورت نہیں ہے بلکہ اکثر اقوال کا نقل کرنا کافی ہے، تاکہ ناظرین کو ان سے استدلال کا حال معلوم ہو سکے اور باقی کو اسی پر قیاس کریں،

پہلا استدلال، خدا کا بیٹا عیاشیٰ حضرات سے پہلے انجیل کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں، جن میں حضرت مسیح

علیٰ السلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، لیکن یہ دلیل دو وجہ سے انہائی کمزور ہے:-
اول تو اس لئے کہ یہ آیتیں ان آیتوں سے متصادم ہیں جن میں حضرت مسیح کو انسان کا بیٹا کہا گیا ہے، اسی طرح حضرت مسیح کو داؤ دکا بیٹا کہنے کے بھی معارض ہے
ہذا اس قسم کی تطبیق ضروری ہے کہ جو عقلی دلائل کے بھی مخالف نہ ہو، اور محال بھی لازم نہ آئے۔

दوسرے اس لئے کہ "ابن" کو اس کے حقیقی معنی میں لینا درست نہیں ہو سکتا، یونہر اس کے معنی تمام جہان کے ائمہ نعمت کے نزدیک متفق علیہ طور پر یہ لئے مثلاً میثی ۲۶: ۳ و ۱۴، اور یوحنا ۱۸: ۳ و ۱۶ و ۱۸ و ۱۹: ۹ یوحنا ۱۰: ۹۔

لئے انجیل میں ساتھ جگ آپ کو ابن آدم کہا گیا ہے، (نوید جاوید)
لئے جیسا کہ میثی ۱: ۱ و ۹: ۲ و ۲۸: ۹ میں آپ کا رد داؤ دکا بیٹا ہی کہا گیا ہے،

ہیں کہ جو شخص مان باپ دونوں کے مشترک نظر سے پیدا ہوا ہو، اور یہ معنی یہاں پر
محال ہیں، اس لئے کسی ایسے مجازی معنی پر محول کرنا ضروری ہے جو مسیح کی شان
کے مناسب بھی ہوں، باخصوص جبکہ انخلیل ہی سے یہ بات بھی معلوم ہو چکی ہے کہ
یہ لفظ مسیح کے حق میں راست باز شخص کے معنی میں استعمال ہوا ہے، چنانچہ
انخلیل مرقس کے پندرہویں باب کی آیت ۳۹ میں ہے:

”اور جو صوبہ دار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اُسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھے
کر کہا بہت کہ یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا“

اور لوٹا نے اپنی انخلیل کے باب ۳۲ آیت ۲۳ میں اس صوبہ دار کا قول اس طرح نقل
کیا ہے:

”یہ ما جسرا دیکھ کر صوبہ دار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بیشک یہ آدمی راستباز تھا“
یکھئے انخلیل مرقس میں ”خدا کا بیٹا“ کا لفظ اور انخلیل لوٹا میں اس کے بجائے —
”راستباز“ کا لفظ استعمال ہوا، بلکہ اس لفظ کا استعمال صارع شخص کے معنی
میں مسیح کے علاوہ دوسروں کے لئے بھی اس طرح کیا گیا ہے جس طرح بد کار کے حق
میں ”ابلیس کا بیٹا“ کہا گیا ہے، چنانچہ انخلیل مشی کے باقی میں ہے:
”مبارک ہیں وہ جو صلح کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے“

پھر آیت ۳۳ میں ہے:

”یکن ہیں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اور اپنے ستانے والوں
کے لئے دعا کر و راپنے بعض رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جو لوگ
تھیں گایاں دیتے ہیں ان پر حم کر لے، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے
”شہرو“ رآیات ۳۴، ۲۵)

لہ یعنی حضرت مسیح گوئی اس
لہ قویین کی عبارت مصنف نے نقل فرمائی ہے، قدیم عربی اور انگریزی ترجمہ میں بھی موجود ہے۔
مگر جدید اردو اور انگریزی ترجمہوں میں نہ جانے کس مصلحت سے اس کو حذف کر دیا گیا ہے اس ت

ملا خطرہ فرمائیے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلح کرنے والوں اور مذکورہ اعمال کرنے والوں پر خدا کے بیٹے، کا اطلاق فرمایا ہے، اور انہوں کو ان کی نسبت سے باپ قرار دیا ہے، اس کے علاوہ انہیں یوحنان کے باپ میں حضرت مسیح علیہ السلام اور یہودیوں کے سوال و جواب بیان کرتے ہوئے آپ کا رشتاد اس طرح نقل کیا گیا ہے:-

«تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو، انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا، یسوع نے ان سے کہا اگر خدا تمھارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے؟»

اس کے بعد آیت ۳۲ میں ہے:

«تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشون کو پورا کرنا چاہتے ہو، وہ شروع ہی سے خونی ہے، اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ مانے ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔»

پس یہودی مدعی تھے کہ ہمارا باپ ایک ہی ہے، یعنی اللہ، اور مسیح ہے کہتے تھے کہ نہیں، بلکہ تمھارا باپ شیطان ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ اور شیطان حقیقی معنی کے لحاظ سے کسی کے بھی باپ نہیں، اس لئے اس لفظ کو معنی مجازی پر معمول کرنا ضروری ہے، مقصود یہود کا یہ تھا کہ ہم نیک اور خدا کے فرمانبردار ہیں، اور مسیح کو مراد یہ تھی کہ تم ہرگز ایسے نہیں ہو، بلکہ تم بد کار اور شیطان کے فرمان بردار ہو، یوحنان کے پہلے خط باتیں آیت ۹ میں ہے:

«جو کوئی خدا سے پیدا ہو لے دہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنارتا ہے بلکہ دہ گناہ کر سکتا، کیونکہ خدا سے پیدا ہو لے، اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔» (رأیات ۹ و ۱۰)

اسی خط کے پانچویں باب میں ہے:-

”جس کا یہ ایمان ہے کہ میوں ع ہی سیع ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی
والد سے محبت رکھتا ہے وہ اسکی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے، جب ہم خدا
سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے
کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔“

اور روپیوں کے نام خط کے باب آیت ۱۲ میں ہے:

”اس لئے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔“
اور فلپیوں کے نام خط کے باب آیت ۱۲ میں پوسٹر قیطراز ہے:
”سب کام شکایت اور تحریر کے بغیر کیا کرو، تاکہ تم بے عیب اور بھوے ہو کر ڈیر ڈھنے
اور کجرد لوگوں میں خدا کے بے نفس فرزند بنئے رہو۔“

یہ اقوال ہمارے دعوے..... پر وضاحت سے دلالت کرتے ہیں، اور جب کہ
لفظ اللہ ”دیغیرہ“ جیسے الفاظ کے استعمال سے الوہیت ثابت نہیں ہوتی، جیسا کہ
مقدمہ کے امر رابع سے معلوم ہو چکا ہے تو ”ابن اللہ“، جیسے الفاظ سے کیونکر ثابت
ہو سکتا ہے؟ بالخصوص جب کہ ہمارے پیش نظر عہدِ عقیق درجید کی کتابوں میں
مجاز کا بے شمار استعمال بھی ہے، جیسا کہ مقدمہ سے معلوم ہوا، اور پھر خاص طور سے
جب کہ دونوں عہدوں کی کتابوں میں بے شمار مقامات پر باب اور بیٹے کے الفاظ
کا استعمال پایا جاتا ہے، جن میں سے ہم کچھ نمونے کے طور پر نقل کرتے ہیں:-

بائبل میں انسانوں کیلئے لوقارے اپنی انجیل کے باب میں سیع علیہ السلام کا
”خدا کے بیٹے، کا استعمال“ نسب بیان کرتے ہوئے کہلہ ہے کہ:-

”وہ یوسف کا بیٹا اور آدم خدا کا بیٹا ہے۔“
اور ٹھاہر ہے کہ آدم علیہ السلام حقیقی معنی کے لحاظ سے خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اور
ذمہ بیویوں ہیں، مگر چونکہ ”بیٹا“ کے پیدا ہوئے، اس لئے ان کو اللہ کی طرف مسوب
کر دیا اور اس موقع پر لوقارے بڑا ہی بہترین کام کر دیا ہے، وہ یہ کہ مسیح علیہ السلام
لئے دیکھئے میں ۸۶۱ جلد اول، ۲۵ دیکھئے میں ۸۷۸، جلد اول،

چونکہ بغیر باب کے پیدا ہوئے اس لئے ان کو یوسف بخار کی طرف منسوب کر دیا، اور آدم علیہ السلام چونکہ بغیر مان باب کے پیدا ہوئے اس لئے ان کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا،

اس بکے علاوہ خروج کے باب آیت ۲۲ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح—
مذکور ہے :

”اور فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں کہتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹھا ہے“
اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے، تاکہ وہ میری عبارت کرے،
اور تو نے اسے اب تک جانے دینے سے انکار کیا ہے، سودیکھ میں تیرے بیٹے
کو بلکہ تیری پہلوٹھ کو مار ڈالوں گا“ (آیات ۲۲ و ۲۳)

اس عبارت میں دو حصہ اسرائیل کو ”خدا کا بیٹا“ کہا گیا ہے، بلکہ ”پہلوٹھ“ کا لفظ
استعمال کیا گیا ہے؟

۳ زبور نمبر ۸۸ آیت ۱۹ میں اللہ تعالیٰ سے خطاب کرنے ہوئے حضرت داؤد علیہ
السلام کا ارشاد اس طرح نقل کیا گیا ہے :

”اس وقت تو نے رُؤیا میں اپنے مقدسوں سے کلام کی، اور فریا یا کہ میں نے ایک نبرد
کو مددگار بنایا ہے، اور قوم میں سے ایک کو چن کر سر فراز کیا ہے، میرا بندہ داؤد
مجھے مل گیا، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا ہے..... وہ مجھے
پکار کر کہے گا تو میرا باب میرا خدا اور میری نجات کی چنان ہے، اور میں اس کو اپنا
پہلوٹھا بناؤ گا اور دنیا کا شہنشاہ گا“ (آیات ۱۹ تا ۲۰)

۴ دیکھئے! یہاں اللہ کے لئے ”باب“ کا فقط اور داؤد علیہ السلام کے لئے ”زبرد“
چنا ہوا، مسیح اور ”اللہ کا پہلوٹھا“ جیسے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں،
گتاب یرمیاہ کے بابت آیت ۹ میں باری تعالیٰ کا ارشاد اس طرح منقول ہے:
”میں اسرائیل کا باب ہو اور افرائیم میرا پہلوٹھا ہے“

۵ موجودہ زبور نمبر ۸۹، لہ افرائیم یوسف علیہ السلام کے چھوٹے صاحبوں کے

پیدائش ۲۱: ۵۲) ان کی طرف اسرائیلیوں کا افرائیمی قبیلہ منسوب ہے، ان کی اولاد کی تفصیل کے لئے دیکھئے گئی اور

اس میں بھی افرائیم کے لئے "الش کا پہلو طھا" کے الفاظ کہے گئے ہیں، لیس اگر ایسے الفاظ کا استعمال معبد ہونے کو مستلزم ہوتا تو داؤد علیہ السلام افرائیم والریل معبد ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ گذشتہ شریعتوں کے مطابق بھی اور عام رواج کے لحاظ سے بھی پہلو تھا بہ نسبت دوسروں کے اکرام کا زیادہ حقدار ہے، اور اگر عیاں حضرات یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ع کے بارے میں "اکلو تاپیٹا" کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو پھر ہم عرض کریں گے کہ یہ اپنے حقیقی معنی پر ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے عیسیٰ ع کے بہت سے بھائیوں کا ذکر کیا ہے، اور ان میں سے تین کے حق میں تو پہلو طھا کے الفاظ استعمال کئے ہیں، لہذا اصروری ہے کہ یہی کی طرح "اکلو تاپیٹا" کے بھی مجازی معنی مراد لئے جائیں،

۵ کتاب سموئیل دوم کے باب ۷ میں اللہ تعالیٰ کا قول سليمانؑ کے حق میں اس طرح بیان ہوا ہے:-

"اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہو گا"

اب اگر اس لفظ کا اطلاق معبد ہونے کا سبب ہوتا تو سليمانؑ عیسیٰ ع سے مقدم ہونے کی وجہ سے اس کے زیادہ حقدار تھے، اور اس لئے بھی کہ وہ عیسیٰ ع کے اجداد میں سے ہیں،

۶ کتاب استثناء کے باب ۳ آیت ۱۹ اور باب ۴ کی پہلی آیت میں اور کتاب یسعیاہ کے بابت کی آیت ۸ میں، اور ہوشع لکی کتاب کے بابت کی آیت ۱۰ میں "الش کے بیٹوں" والے لفظ کا اطلاق تمام بنی اسرائیل کے لئے کیا گیا ہے، کتاب یسعیاہ بابت آیت ۱۶ میں ہے کہ حضرت یسعیاہ علیہ السلام باری تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

"یقین تو ہمارا بایپ ہے، اگرچہ ابراہام ہم سے ناقص ہو، اور اسرائیل کو نہ پہچانے تو اے خداوند ہمارا بایپ اور فریب دینے والا ہے، تیرانام ازل سے یہی ہے"

لہ دیکھئے یو خنا ۱۳، لہ آیت ۱۳،

اور اسی کتاب کے باب ۸ آیت ۸ میں ہے:

”تو بھی سے خداوند! تو ہمارا باپ ہے“

ان آیتوں میں حضرت یسوعیہ علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنا اور تمام بُنی اسرائیل کا باپ قرار دیا ہے۔

(۸) کتاب یلوب باب ۳۸ آیت ۷ میں ہے:

”جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے سکاتے تھے“

(۹) شروع جواب میں معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے بیٹے کا اطلاق نیک لوگوں، عیاش پر ایمان لانے والوں، محبت کرنے والوں، اللہ کے فرمابرداروں اور نیک اعمال کرنے والوں پر کیا گیا ہے،

(۱۰) زبور نمبر ۴۶ کی پانچویں آیت میں ہے:

”خود اپنے مقدس مکان میں شیئن کا باپ اور یہ وائے کا دادرس ہے“

یہاں اللہ کو ”بیتیوں کا باپ“ کہا گیا،

(۱۱) کتاب پیدائش بابت آیت ۱۶ میں ہے،

”جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹیوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوب صورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنان سے بیاہ کریا“

پھر آیت ۳ میں ہے:

”ان دونوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے، تو ان کے لئے ان سے اولاد ہوئی، یہی قدیم زمانہ کے سوراہ میں بوجہ سے نامور ہوئے“

اللہ کے بیٹیوں سے مراد شرفاء کی اولاد اور لوگوں کی بیٹیوں سے مراد عوام ان کی لڑکیاں ہیں، اسی لئے تو عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۱۸۱ھ کے مترجم نے پہلی آیت

”موجو دہ زبور نمبر ۶۸“

کاتر جسے یوں کیا ہے کہ شرفاء کے رہکوں نے عوام کی لڑکیوں کو خوب صورت پایا پس ان کو اپنی بیویاں بنالیا۔ پس "اللہ کے بیٹوں" کا اصطدق علی الاطلاق شرفاء کی اولاد کے لئے کیا گیا ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لفظ اللہ کا استعمال شریف کے معنی میں درست ہے۔

(۱۲) انجیل کے بکثرت مواقع پر تھا سے باپ "کا لفظ اپنے ساتھ گردوں اور درسروں کے حق میں خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نئے استعمال کیا گیا ہے،

(۱۳) کبھی کبھی لفظ بیٹا یا باپ کی نسبت کسی ایسی چیز کی جانب سمجھی کر دی جاتی ہے جس کو معمولی سی مناسبت حقيقة معنی کے ساتھ ہوتی ہے، جس طرح شیطان کے لئے "سچھوٹ کا باپ" جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہو چکا ہے، یا جس طرح جہنم کی اولاد یا اور شدیم کے لئے "وائے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں یہ وہ کوئے حق میں موجود ہیں، جب کہ انجیل متی کے بابت میں ہے، یا اسی طرح "زمانہ کے بیٹے" دنیا والوں کے لئے یا "اللہ کے بیٹے" اور "قیامت کے بیٹے" وائے الفاظ جنتیوں کے حق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں ملتے ہیں، جیسا کہ لوقا کے بابت میں اور تخلیقیوں کے نام پہلے خط کے بات میں استعمال کئے گئے ہیں،

عیسائی حضرات کا انجیل یوحنا باب ۸ آیت ۲۳ میں ہے:

"اس نے ان سے کہا تم بیچ کے ہو، میں اوپر کاہوں، تم دنیا دوسرا استدلال، کے ہو میں دنیا نہیں ہوں"

حضرت مسیح علیہ السلام کے اس ارشاد سے عیسائی حضرات یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ "میں معبود ہوں اور آسمان سے اُنتر کر انسانی جسم میں آیا ہوں" عیسائی حضرات کو اس ارشاد کی یہ تشریح کرنے کی اس لئے ضرورت ہیش آئی کہ اس کا ظاہری مفہوم مشاهدہ کے خلاف تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھلی آنکھوں اسی دنیا میں لے مثلاً، "تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ظہرِ الدنیا" (رمتی ۵: ۲۵، نیز ملاحظہ ہوتی

۱۴: ۱۵، ۱۶: ۲۸ و لوقا ۱۲: ۱۱ و ۳۰: ۶ و یوحنا ۱۰: ۱۶)

پسیدا ہوئے تھے، لیکن یہ تاویل دو وجہ سے غلط ہے:

اول تو اس لئے کہ یہ بات عقلی دلائل اور فصوص قطعیہ کے خلاف ہے۔

دوسرے اس لئے کہ اس قسم کی بات حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کے حق میں سمجھی فرمائی ہے۔ چنانچہ انجیل یوحنا بھی کے باہم کی آیت ۱۹ میں ہے:-

”اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنے کو عزیز رکھتی۔ لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ

میں نے تم کو دنیا میں سے چین لیا ہے اس واسطے دنیا تم سے خداوت رکھتی ہے۔“

اور یوحنا بائیک آیت ۳۳ میں ہے:-

”جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ سمجھی دنیا کے نہیں۔“

پس مسیحؐ نے اپنے شاگردوں کے حق میں سمجھی بھی فرمایا کہ وہ اس جہان کے نہیں ہیں تھیں جس طرح اپنے لئے یہ بات کہی تھی.....، لہذا یہ بات اگر انوہیت اور خدائی کو مستلزم ہے، جیسا کہ عیسائیٰ حضرات کا خیال ہے، تو لازم آتا ہے کہ تمام شاگردان میسیحؐ بھی معبور ہوں، خدا کی پیشہ! بلکہ صحیح مطلب اس کلام کا یہ ہے کہ تم کمیتی دنیا کے طالب ہو اور یہ (الیسا نہیں) ہوا، بلکہ عالم پ آخر، اور انشد کم نہ نہ سو و کامال پ، ہوا، اور افسوس کا مجاز اہل ربان کے یہاں بحثت ہت، چنانچہ زاہدوں اور صاحبین کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے نہیں ہیں،

تیسرا دلیل [انجیل یوحنا کے پابنبر] آیت ۳۰ میں مذکور ہے کہ :

”میں اور ہاپ ایک ہیں :“

یہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ میسیحؐ اور حصہ مقرر ہیں،

یہ دلیل سمجھی دو وجہ سے درست نہیں،

اول تو اس لئے کہ عیسائیوں کے نزدیک سمجھی مسیحؐ نفس ناطقہ رکھنے والے انسان ہیں، لہذا اس لحاظ سے تو اتحاد ناممکن تھا، اس لئے لامحال انہیں یہ تاویل کرنی پڑتے گی کہ جس طرح وہ انسان کا دل ہیں اسی طرح خلائق کامل بھی ہیں، لیکن اس تاویل پر پہلے اعتبار سے خدا کے ساتھ معاشرت اور دوسرے لحاظ سے اتحاد لازم

آتا ہے، اور آپ کو سمجھے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ بات بالکل باطل ہے، دوسرے یہ کہ اس قسم کے الفاظ حواریین کے حق میں بھی فرمائے گئے ہیں، انہیں یوختا باب آیت ۲۱ میں ہے:

”تَمَرِدَهُ سَبْ اَيْكَ هُونَ، يَعْنِي جِنْ طَرَحَ اَسَے بَأْپَ! تَوْ مَجْهَ مِينَ ہے اُور مِينَ تَجْهَ مِينَ
ہُونَ دَهْ بَھِی ہُمَ مِينَ ہُونَ، اُور دِنِیَا ایمان لَائِئے کَهْ تَوْ نَے ہِی مَجْهَ سَبْ بَھِیجا، اُور دَهْ
جلال جو تَوْ نَے مَجْهَ دِیلَے ہے بِسْ نَے انھیں دِیا ہے، تاکَهْ دَهْ اَيْكَ هُونَ جِیسَے ہُمَ اَيْكَ
ہُسْ“

پس یہ تُکپنا کہ ”وَهْ سَبْ اَيْكَ هُونَ“ کا جملہ ان کے اتحاد پر دلالت کرتا ہے، دوسرے
قوں میں اپنا خدا کے ساتھ متعدد ہونا اور حواریین کے ساتھ متعدد ہونا دونوں
چیزوں میں یکساںیت ثابت کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان سب کا حقیقتاً ایک بن جانا
ممکن نہیں، اسی طرح مسیحؐ اور خدا کا یہ۔ بن جانا بھی غیر ممکن ہے، بلکہ سچی بات
یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ متعدد ہونے۔ معنی اس کے احکام کی اطاعت کرنا اور
یہک اعمال کرنا ہے، اس قسم کے اتحاد میں واقعی مشیحؐ اور حواریین اور تمام
اہل ایمان برابر ہیں، پاں فرق قوت اور ضعف کا ہے، اس معنی کے لحاظ سے
مسیحؐ کا اتحاد قوی اور شدید ہے، اور دوسروں کا ان کی نسبت سے کم، اور
متعدد ہونے کے جو معنی ہم نے عرض کئے دہی معنی یوختا حواری کے ایک ارتاد
سے ثابت ہوتا ہیں جو ان کے پہلے خط باب اوقل آیت ۵ میں اس طرح مذکور ہے:
”اس سے شکر جو پیغام ہم تھیں دیتے ہیں دو یہ ہے کہ خدا نور ہے، اور اس

میں ذرا بھی تاریخی نہیں، اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شرکت ہے اور پھر
تاریکی میں چلیں تو ہم صحبوتے ہیں، اور حق پر عمل نہیں کرتے، لیکن اگر ہم نور میں
چلیں جس طرح کہ دو نور میں ہے تو ہماری آپس میں شرکت ہے“

لہ اس لئے کہ ایک چیز دوسری چیز کا یا عین ہو سکتی ہے یا بغیر، بیک وقت عین اور غیر دونوں نہیں
ہو سکتی جس کے تفصیلی: لاٹل آپ اس باب کی فصل اوقل میں پڑھ چکے ہیں ۱۴ آنکہ۔

اور چھٹی ساتویں آیت فارسی تراجم میں اس طرح مذکور ہے :

”اگر گوئیم کہ بادے متخد یم و در نظمت رفتار نمائیم در دغ گوئیم در راستی عمل
نمایم، واگر در دشناقی رفتار نمائیم، چنانچہ اودر در دشناقی می باشد
با یکدیگر متخد ہستیم“

بعضی : اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس کے ساتھ متخد ہیں اور انہی ہیرے میں چلنے لگیں
 تو ہم جھوٹ بولتے ہیں اور پسچ پر عمل نہیں کرتے، اور اگر دشمنی میں چلیں
 جیسے وہ دشمنی میں ہے تو ہم ایک دسرے کے ساتھ متخد ہیں،

اس میں بجائے شرکت کے لفظ کے اتحاد کا لفظ استعمال ہوا ہے جسے
معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ شرکیہ ہونے یا اس کے ساتھ متخد ہونے کا دہی
مطلب ہے جو ہم نے عرض کیا ہے،

پھر تھی دلیل | ابھیل یو خدا باب ۱۳ آیت ۹ میں ہے :

”جس نے مجھے دیکھا اُس نے باپ کو دیکھا، تو کیونکر کہتا ہے کہ باپ
کو ہمیں دکھا کیا تو یقین نہیں کہ تاکہ میں باپ میں ہوں، اور باپ مجھے میں ہے، یہ بتیں
جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھے میں رہ کر اپنے کام
کرتا ہے“

اس عبارت میں حضرت مسیح کا یہ فرمانا کہ ”میں باپ میں ہوں اور باپ
مجھ میں ہے“ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مسیح اور خدا ایک ہیں
لیکن یہ دلیل بھی دو وجہ سے کمزور ہے :

اول اس لئے کہ عیسائیوں کے نزدیک دنیا میں خدا کا دیکھا جانا محال ہے،
جیسا کہ آپ سے مر کے امر رائع میں معلوم کر چکے ہیں۔ اس لئے وہ لوگ اس کی تاویل معرفت
کے ساتھ کرتے ہیں، مگر چونکہ اس طرح مسیح، اور خدا کا ایک ہونا لازم نہیں
آتا، اس لئے ہکتے ہیں کہ دوسرے کر اور تیسراے قول میں جس حلول کا تذکرہ ہے
لئے دیکھئے صفحہ ۸۶۱ جلد ہذا۔

وہ اور حضرت مسیح کی خدائی کی معرفت تمام اہل تئیث کے نزدیک واجب اتنا ویل ہے یعنی اس سے مراد اتحاد باطنی ہے، پھر ان تاویلات کے بعد کہتے ہیں کہ چونکہ مسیح انسان کامل بھی ہیں، اس لئے ان کے نینوں اقوال دوسرے بحاظ سے درست ہیں، حالانکہ آپ بار بار جان پکے ہیں کہ یہ باطل ہے۔ کیونکہ تاویل کے لئے ضروری ہے کہ وہ دلائل اور نصوص کے خلاف نہ ہو،

دوسرے اس لئے کہ اس باب کی آیت ۲۰ میں ہے کہ :-

”میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھے میں اور میں تم میں“ ۱۷

اسی طرح تیسرا دلیل کے جواب میں آپنے پڑھا کہ مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے حق میں فرمایا تھا:-

”جس طرح اے باپ! تو مجھے میں ہے اور میں تجھ میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں“ ۱۸
اور ظاہر ہے کہ الفت، بَتْ میں سمایا ہوا ہوا درست، جَ میں تو اس سے لازم آتا ہے کہ خود الفت بھی جَ میں سمایا ہو لے، اور کرنٹھیوں کے نام پہلے خط کے بابت آیت ۱۹ میں ہے:-

”کیا تم نہیں جانتے کہ متعارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں“ ۲۰

اور کرنٹھیوں ہی کے نام دوسرے خط کے بابت آیت ۱۶ میں ہے:-

”اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس میں چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بیوں گا، اور ان میں چلوں پھر وон گا الحز“ ۲۱

اور افسیوں کے نام خط بابت آیت ۶ میں ہے:-

”اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے“ ۲۲

پس اگر سماں اتحاد کو ظاہر کرتا اور معبد ہونے کو ثابت کر سکتا ہے تو پھر ضروری ہو گا کہ حواریین بلکہ تمام کو رشته اور افسس کے باشندے بھی معبد قرار دیئے جائیں

پسی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی "چھوٹا مشلا" قاعدہ، غلام یا شاگرد اپنے کسی بڑے کے تابع ہوتا ہے تو اس کی تعلیم کو بڑے کی تعظیم، اس کی تحریر کو بڑے کی تحریر اور اور اس سے محبت کو بڑے سے محبت سمجھا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ اسلام نے خواریوں کے بارے میں ارشاد فرمایا:-

"جو تو کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے" (بخاری باب ۱۰)

اور آپ ہی نے ایک بچتے کے بارے میں ارشاد فرمایا:-

"جو کوئی اس بچتے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے" روضۃ البال ۱۹ آیت ۳۸

اسی طرح جن نشراً شخص کو آپنے دودو کی ٹولیوں میں تقسیم کر کے مختلف شہروں میں بغرض تبلیغ بھیجا تھا ان کے حق میں ارشاد فرمایا:-

"جو تمہاری سنت ہے وہ میری سنت ہے، اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا"

اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں مانتا" روضۃ البال آیت ۱۶

اسی طرح مشیٰ کے باب ۷ میں "اصحاب الیمن" اور "اصحاب الشمال" کے نئے بھی اسی قسم کی بات کی گئی ہے، اور انش تعالیٰ نے حضرت ارمیاہ علیہ السلام کی زبانیوں فرمایا:-

"شاد بابل بنو کدر رضنے مجھے کھایا، اس نے مجھے شکست دی ہے، اس نے مجھے خالی برتن کے مانند کر دیا، اڑدہا کے مانند وہ مجھے نکل گیا" (کتاب یرمیاہ باب ۵۱)

اسکل اسی طرح قرآن کریم میں ہے:-

أَلَّا ذَيْنَ يَبَايِقُونَ لِقَاءَ إِنَّمَا يَبَايِقُونَ اللَّهَ يَدُّ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ،

"وَهُوَ لَوْكٌ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے"

لہ مدحظہ ہوں آیات ۳۳ تا ۴۶ تا ۳۶ آیت ۳۳

اور حضرت مولانا روم? اپنی مشنوی میں فرماتے ہیں ہے
 گر تو خواہی ہمشیشی با خدا
 رو، نشیں تو در خنور اولیاء

”یعنی تو اگر اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے تو جگر اولیاء اللہ کے پاس بیٹھ۔“
 لہذا اس طریقہ پر حضرت مسیح علیہ السلام کی معرفت بلاشبہ اللہ ہی کی معرفت ہے، برہا کسی شخص کا اللہ میں سما جانا، یا اللہ کا اس میں سما جانا، اسی طرح مسیح کا کسی میں یا کسی کا مسیح یہی سما جانا، سواس سے مراد ان کی اطاعت اور فرمان برداری ہے جیسا کہ پوچھا کے پہلے خط کے تیسرے باب میں ہے کہ :-

”اور جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ اس میں اور یہ اس میں قائم رہتا ہے، اور اسی سے یعنی اس روح سے جو اُس نے ہمیں دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم میں قائم رہتا ہے۔“

بغیر باب کے پیدا ہونا اور کبھی کبھی وہ مسیح علیہ السلام کے بعض حالات سے استدلال کرتے ہیں، چنانچہ ان کے بغیر باب کے پیدا پا پہنچوں پس دلیل ہونے سے سبھی استدلال کرتے ہیں، یہ استدلال نہیں بنتا ہی کمزور ہے، کیونکہ عالم تمام کا تمام حادث ہے، اور عیسائیوں کے خیال کے مطابق اس زمانہ تک اس کے حدوث کوچھے پزار سال بھی نہیں گزئے، اور ساری مخلوق خواہ آسمان ہو یا زمین، حمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہو یا بنی آدم، عیسائیوں کے نزدیک بھی ایک ہفتہ کے اندر پیدا ہوئے، اور سارے ہی حیوانات بغیر ماں باب کے پیدا ہوئے، تو یہ سب حیوانات بغیر باب کے پیدا ہونے میں مسیح کے ساتھ شریک ہیں، بلکہ اس بات میں مسیح علیہ السلام سے بھی بڑے ہوئے ہیں، کہ یہ بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے، اسی طرح کہرے مکوڑے کی بھی صد ہا اقسام ہیں، جو برسات کے موسم میں ہر سال بغیر ماں باب کے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ بات محض معبد ہونے کی وجہ سے کیونکہ پوسکتی ہے؟ اگر نوع انسانی کا خیال کیا جائے تو پھر بھی آدم علیہ السلام اس معاملہ میں مسیح علیہ السلام

سے بڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بغیر مان کے سبھی پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح صدقہ کا ہن جواباً ہیم علیہ السلام کا معاصر اور ہم زمانہ تھا اس کا حال عبرانیوں کے نام خط کے باب آیت ۳ میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے:

”یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر“

یہ شخص میشح سے دو باتوں میں بڑھا ہوا نکلا، ایک تو بے ماں کے پیدا ہونے میں اور دوسری پر کہ اس کی کوئی ابتداء نہیں ہے،

چھٹی دلیل، معجزات اور کبھی میشح کے معجزات سے استدلال کرتے ہیں، یہ کبھی ہنایت کمزور اور بودی دلیل ہے، کیونکہ ان کا سببے بڑا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا ہے، اس معجزہ کے ثبوت سے قطع نظر کرتے ہوئے اور اس امر کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے کہ موجودہ انجیل اس کی تکذیب کرتی ہے،..... میں کہتا ہوں کہ موجودہ انجیل کے مطابق میشح نے اپنے سولی چڑھائے جانے تک

کے باقی ۳۰ میں تصریح موجود ہے، لہذا اگر مردوں کو زندہ کرنا معمور بننے کے لئے کافی ہے تو وہ معبود ہونے کے میشح سے زیادہ مستحق ہیں،

اسی طرح ایساں علیہ السلام نے بھی ایک مردہ کو زندہ کیا، جیسا کہ کتاب سلطین اول کے باب ۱ میں صاف موجود ہے۔ نیز الیسع علیہ السلام نے ایک مردہ کو زندہ کیا، جیسا کہ کتاب سلطین کے باب ۲ میں مصقر ہے، اور الیسع علیہ السلام سے تو یہ معجزہ ان کی لئے اس کا پورا نام ملک صدق ملکیت edek King of Islam ہے، اس کا ذکر کتاب پیدائش ۱۸، ۱۷ میں ہے، یا ہے ۲۰ تھی تھے آیات ۱۶، ۱۵، ۱۴ اس میں فاقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ایساں علیہ السلام ایک بیوہ کے مہماں ہوئے، اس کا لٹ کا پیمار ہو کر چل ببا، حضرت ایسا نے اللہ سے دعا کر کے اُس سے پھر زندہ کر دیا، (۱۰۔ سلطین ۲۱، ۲۰: ۱۶)

لئے اس میں بھی ہے کہ حضرت الیسع نے ایک مہماں نواز عوت یکلئے پہلے پیٹا ہونے کی دعا کی پھر جب وہ پیٹا ہو کر مر گی تو اُس سے بحکم خدا زندہ کیا (۱۰۔ سلطین ۲۰: ۳۵)

وفات کے بعد بھی صادر ہوا، کہ ایک، مردہ ان کی قبر میں ڈالا گیا، جو اندھے کے حکم سے زندہ ہو گیا، جیسا کہ اسی کتاب کے باب ۱۳ میں موجود ہے، اسی طرح ایک کو ٹھنڈی کو اچھا کر دیا جیسا کہ سفر مذکور کے باب ۵ میں مذکور ہے،

ادرک صحیح عیائی لوگ عہدہ عیق کی کتابوں کی بعض آیات اور حوار میں کے بعض اقوال سے استنہ لال کرتے ہیں، میں نے یہ تمام دلائل اور ان کے جوابات کتاب

ازالۃ الاویام میں نقل کئے ہیں جو صاحب دیکھنا چاہیا ہیں اس کو ملاحظہ فرمائیں گے، اس کتاب میں میں نے ان کو اس لئے ذکر نہیں کیا کہ پہلے ہی دلائل نہایت کمزور ہیں، اور اگر کمزوری کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو بھی ان سے عیاشیوں کے زعم کے بھوجب بھی معبد ہونا ثابت نہیں ہوتا، جتنک یہ نہ مانا جائے کہ مسیح علیہ السلام انسان کامل بھی ہیں، اور مسجد کا مل بھی، اور یہ بات قطعی باطل ہے جیسا کہ۔

اور اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ ان کے بعض اقوال اس معاملہ میں نص ہیں تو

بھی کہا جائے گا کہ یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، حالانکہ آپ کو باب اول سے معلوم ہو چکا ہے کہ اور ان کی تمام تحریرات الہامی نہیں ہیں، اور ان تحریروں میں — غلطیاں بھی صادر ہوئیں ہیں، اور اختلاف و تناقض بھی یقیناً موجود ہے،

اسی طرح ان کے مقدس پوس کی بات ہمارے لئے قابل تسلیم نہیں، ایک تو اس لئے کہ وہ حواری نہیں، نہ ہمارے لئے واجب التسلیم ہے، بلکہ ہم تو اس کو معتبر بھی جاننے کے لئے تیار نہیں،

اب آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہئے کہ میں نے جو مسیح کے اقوال نقل کئے اور ان کے معانی بیان کئے عرض الزام کی تکمیل کے لئے، اور یہ ثابت کرنے کے لئے

لہ آیات ۲۱، تہ آیت ۱۳،

تلہ دیکھئے ازالۃ الاویام، باب دوم فصل سوم، ص ۷، مطبوعہ سید المطابع شاہ

کہ عیسائیوں کا استدلال ان اقوال سے نہایت کمزور ہے، اسی طرح حواریین کے اقوال کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ یہ تسلیم کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حواریین کے ہی اقوال ہیں درد ہمارے نزدیک ان اقوال کا مسیح یا ان کے حواریین کے اقوال ہونا اس لئے ثابت نہیں ہے کہ ان کتابوں کی کوئی سند موجود نہیں، جیسا کہ آپ کو باب اول میں معلوم ہو چکا ہے، نیز اس لئے بھی کہ ان کتابوں میں عموماً اور اس علیہ میں خصوصاً بہت تحریفات واقع ہوئیں ہیں، جیسا کہ آپ کو دوسرے باب سے معلوم ہوا، عیسائیوں کی عام عادت اس قسم کے امور میں یہ ہے کہ وہ عبارتوں کو جس طرح چاہتے ہیں پہل ٹالتے ہیں، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ مسیح اور ان کے حواری اس قسم کے گندے کفر یہ عقیدہ سے یقیناً پاک ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے بندے اور رسول ہیں، اور میں یہ بھی اللہ کے بندے اور رسول تھے، اور حواریین اللہ کے رسول کے فرستادے اور قاصد تھے،

امام رازی اور ایک پادری کا لچک پر مناظرہ

امام فخر الدین رازی[ؑ] اور ایک پادری کے درمیان تسلیت کے مسئلہ پر خوارزم میں ایک مناظرہ پیش آیا تھا، چونکہ اس کا نقل کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے اس لئے میں ان کو نقل کرتا ہوں، امام موصوف[ؑ] نے اپنی مشہور تفسیر میں سورہ آل عمران کی آیت ذیل کی تفسیر کے سخت فرمایا ہے:

فَمَنْ حَاجَكُوكَفِيهِ مِنْ بَعْدِ "تَوْجِيْخِ أَبْشِرِ" كَمَا جَاءَكَ فِي مِنَ الْعِلْمِ، الْأُبْيَةِ

”اتفاق سے جب میں خوارزم میں تھا تو مجھ کو اطلاع ملی کہ ایک عیسائی آیا ہوا ہے۔ جو اپنے مذہب کا تحقیقی اور عین علم رکھنے کا مدعی ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا، ہم نے گفتگو شروع کی، کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ:

کے بنی جونے کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا کہ جس طرح موسیٰ اور عیسیٰ پر
کے باقاعدہ سے خلاف عادت امور کا صادر ہونا ہم بک روایات کے ذریعہ
پہنچائیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ سے خلاف عادت
کاموں کا صدور ہم کو روایات کے ذریعہ پہنچا، لہذا اگر ہم قواتر کا انکار
کریں یا اس کو تو تسلیم کریں لیکن یہ نہ مانیں کہ معجزہ بنی کی سچائی پر دلالت
کرتا ہے تو اس صورت میں تمام انبیاء کی بتوت باطل ہو جاتی ہے،
اور اگر ہم قواتر کی صحت بھی تسلیم کریں، اور یہ بھی مان لیں کہ معجزہ
صدق بتوت کی دلیل ہے، اور آخر یہ دونوں چیزوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے حق میں ثابت ہیں، تو پھر یقینی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی بتوت کا اعتراف واجب ہونگا، کیونکہ دلیل کی یکسانیت کی صورت میں
دلول کی یکسانیت ضروری ہے،

اس پر وہ نصرانی کہنے لگا کہ میں عیسیٰ ع کو بنی نہیں کہتا، بلکہ خدا کہتا
ہوں یعنی کہا ٹھیک ہے، ثبوت میں گفتگو کرنے کے لئے ضروری ہے کہ
پہلے خدا کی پہچان ہو جائے، اور تم نے خدا کے باسے میں جو بات کہی ہے
وہ اس لئے غلط ہے کہ معیود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو موجود اور واجب
الوجود بالذات ہو، نیز اس کے لئے ضروری ہے کہ نہ وہ جسم رکھتا ہو،
نہ کسی احاطہ میں ہو، نہ عرض ہو، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی
حالت یہ ہے کہ وہ ایک جسم رکھنے والے انسان ہیں، جو پہلے ناپید
تھے، پھر پیدا ہوئے، اور زندہ ہونے کے بعد قتل کر دیئے گئے، ابتداء
میں بچے تھے، پھر پھولے پھلے، پھر جوان ہوئے، کھاتے تھے، پینتے
تھے، پاخانہ پیشاب کرتے، اور سوتے جا گئے تھے، اور یہ بات عقلنا
بدیہی اور کھلی ہوئی ہے کہ حادث قدیم نہیں ہو سکتا، اور محتاج غنی
نہیں ہو سکتا، متغیر ہونے والا دائمی نہیں ہو سکتا،

دوسری وجہ اس دلیل کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ یہود نے عیسیٰؑ کو گرفتار کیا اور سولی دی، اور تحفظ پر لٹکا کر ان کی پسیاں توڑ دیں، اور مسیح نے ان سے چھوٹ کر بھاگنے کی امکانی گوشش بھی کی اور روپوش ہونے کی بھی، نیز ان واقعات کے پیش آئے پس گھراہٹ اور جذع دفعہ بھی ظاہر کیا، اب اگر وہ معبد تھے یا خدا ان میں سمائے ہوئے تھا، یادہ خدا کا ایسا جزو تھے جو خدا میں سمایا ہوا تھا، تو پھر انہوں نے یہود کو اپنے سے کیوں دفعہ نہیں کیا؟ اور ان کو نیست و نابود کیوں کیا؟ اور ان کو دو نے دھونے اور گھرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ان سے نکل بھاگنے کی تدبیر کرنے کی کیا حاجت تھی؟ خدا کی قسم مجھ کو بے حد تعجب ہوتا ہے کہ کوئی عاقل اس قسم کی بات کس طرح کہہ سکتا ہے؟ اور اس کو صحیح بھی سمجھتا ہو، حالانکہ عقل اس کے باطل ہونے پر کھلی شہادت دے رہی ہے،

تیسرا دلیل یہ ہے کہ تین صورتوں میں سے بہر حال ایک شکل قبول کرنا پڑے گی، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ خدا وہ یہی جسمانی شخص تھا جو دیکھا جاتا اور نظر آتا تھا، یا یہ کہا جائے کہ خدا پورے طور پر اس میں سمایا ہوا تھا، یا یہ کہ خدا کوئی جزو اس میں سمائے ہوئے تھا، مگر یہ تینوں شکلیں باطل ہیں:

پہلی تو اس نے کہ عالم کا معبد اگر اس جسم کو مان لیا جائے تو جس وقت یہود نے اس کو قتل کر دیا تھا تو گویا یہ مان لیا جائے کہ یہود نے عالم کے خدا کو قتل کر دیا، پھر عالم بغیر خدا کے کس طرح باقی رہ گیا؟ پھر یہ چیز بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ یہود دنیا کی ذلیل ترین اور کمینی قوم ہے، پھر جس خدا کو ابیسے ذلیل لوگ بھی قتل کر دیں گے تو وہ انتہائی عاجز اور بے لبس خدا ہوا،

دوسری صورت اس ہے باطل ہے کہ اگر خدا نہ جسم والی ہے نہ عرض لئے والا۔ تو اس کا کسی جسم میں سما یا جانا عقلائی محال ہے۔ اور اگر وہ جسم رکھتا ہے تو اس کے کسی دوسرے جسم میں سما نہ سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ اس خدا کے اجزاء اس جسم کے اجزاء کے ساتھ مخلوط ہو جائیں، اور اس سے لازم آئے گا کہ اس خدا کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا اور الگ ہیں۔ اور اگر وہ عرض ہو تو محل کا محتاج ہو گا، اور خدا دوسرے کا محتاج بنے گا، اور یہ تمام صورتیں نہایت ہی رکیک اور بودی ہیں۔

تیسرا شکل یعنی یہ کہ خدا کا کچھ حقہ اور اس کے بعض اجزاء سما گئے ہوں۔ یہ بھی محال ہے، کیونکہ یہ جزو یا تو خدائی اور الوہیت میں قابلِ لحاظ اور لائق اعتبار ہے۔ تو اس جزو کے علیحدہ اور خدا سے جدا ہونے کی شکل میں ضروری ہوا کہ خدا و ندر ہے۔ اور اگر وہ ایسا جزو ہے، جس پر خدا کی خدائی موقوف نہیں تو وہ درحقیقت خدا کا جزو نہیں ہے لہذا تمام صورتوں کے بطلان کے ثابت ہونے پر عیاشیوں کا دعویٰ بھی باطل جوا،

چونکہ دلیل عیاشیوں کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ متوatz طریق سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ عینی علیہ السلام کو اللہ کی عبادت اور فرمابرداری کی طرف بے انتہا رغبت تھی، اور اگر وہ خود خدا ہوتے تو یہ بات محال ہوتی، کیونکہ خدا خود اپنی عبادت نہیں کیا کرتا، پس یہ دلائل ان کے دلائل کے فاسد ہونے کو نہایت بہترین طریقہ پر واضح کر رہے ہیں،

لئے "عرض" منطق کی اصطلاح میں اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنا کوئی الگ وجود نہ رکھتی ہو، بلکہ کسی جسم میں سما کر پائی جاتی ہو، مثلاً، زنگ، بو، روشنی، تاریخی وغیرہ ۱۲ تھی

پھریت۔ عیالی سے کہا کہ ممکنے پاس مسیح کے خدا ہونے کی کیا دلیل ہے؟

کہنے لگا کہ ان کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کر دینے۔ مادرزاداندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینے جیسے عجائبات کاظہور ان کے خدا ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ یہ کام بغیر خدائی طاقت کے ناممکن ہے۔

میں نے پوچھا، کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ دلیل کے نہ ہونے سے مدلول کا نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ یا یہ تسلیم نہیں کرتے؟ اگر تم کو یہ تسلیم نہیں ہے تو تمہارے قول سے یہ لازم آتا ہے کہ اذل میں جب عالم موجود نہ تھا تو خدا بھی موجود نہ تھا۔ اور اگر تم مانتے ہو کہ دلیل کا نہ ہونا مدلول کے نہ ہونے کو مستلزم نہیں ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ جب تم نے عینیٰ کے جسم میں خدا کے سماں کو جائز مان لیا تو تم کو یہ کیونکہ معلوم ہوا کہ خدا میرے اور تھلے بدن اور جسم میں سما یا پو انبیس ہے، اسی طرح ہر جیوان کے بدن میں موجود نہیں ہے۔

کہنے لگا اس میں تو ظاہری فرق ہے، اس لئے کہ میں نے عینیٰ میں جو خدا کے سماں کا حکم لگایا ہے تو اس لئے کہ ان سے وہ عجائبات صادر ہوئے اور ایسے عجیب افعال میرے اور تھلے ہاتھوں سے ظاہر نہیں ہوئے، معلوم ہوا کہ ہم تم میں یہ حلول موجود نہیں ہے۔

میں نے جواب دیا کہ اب معلوم ہوا کہ تم میری اس بات کو سمجھئے ہی نہیں کہ عدم دلیل سے عدم مدلول لازم نہیں آتا، یہ اس لئے کہ

لہ کیونکہ تمام کائنات اللہ کے وجود پر دلیل ہے، اور اللہ کا وجود اس کا مدلول۔ اگر دلیل کے نہ ہونے سے مدلول کا نہ ہونا لازم آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ جس وقت کائنات موجود نہ تھی اس وقت (معاذ اللہ) خدا بھی نہ تھا، اس لئے معلوم ہوا کہ اگر کسی وقت دلیل موجود نہ ہو تو یہ مزدری نہیں کہ مدلول بھی معدوم ہو ॥ ترقی

ان خلاف عادت امور کا صادر ہونا عینیٰ ہے کے جسم میں خدا کے
سمانے کی دلیل ہے، اور تمہارے ہاتھوں سے اپسے افعال
کا صادر ہونا سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ یہ دلیل نہیں پائی گئی۔
پس جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ دلیل موجود نہ ہونے سے
ملوں کا موجود نہ ہونا لازم نہیں ہے تو پھر میرے اور تمہارے
ہاتھوں ان افعال عجیب سر کے ظاہر نہ ہونے سے یہ بات بھی لازم
نہیں آتی کہ مجھے میں اور تم میں خدا سمایا ہوا نہیں، بلکہ یہ بھی کہ وہ
پڑھے مگر اور بتی میں سمایا ہوا نہیں ہے،
پھر میں نے کہا کہ جس مذہب کے ملنے پر مگر اور بتی میں خدا
سمایا ہوا ہونا تذمیر کرنا پڑے وہ مذہب نہایت ہی ذلیل اور
رکیک ہے،

دوسرا وجہ یہ ہے کہ لکڑی کا سانپ بن جانا عقل کے نزدیک
مردہ کے زندہ ہو جانے سے زیادہ بعید ہے، یکون کہ مردہ اور زندہ کے
جسم میں جس قدر مشابہت اور یکسانیت ہے، اس قدر لکڑی اور
اثد ہے میں ہرگز نہیں۔ لہذا جب لکڑی کے اثر دھا بن جلنے سے
موٹی علیہ السلام کا خدا ہونا یا خدا کا بیٹا ہونا ضروری نہیں ہوا تو مردہ
کا زندہ کر دینا بدرجئے اولیٰ خدا ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا،
اس موقع پر وہ عیسائی لا جواب ہو گیا، اور بول نہ سکا ہے ۷



باب پنجم

قرآن کریم

الشکا کلام می
مع

اگر

تمھیں اس کلام میں جو ہنسنے پسے بندے پر
آٹارا ہے، ذرا بھی شرپ ہو تو اس جیسی ایک
ہی سوت بنالاؤ، اور اللہ کے سوا اپنے تمام
حمسایتوں کو بلاو، اگر تم پستے ہو یا "البقرہ"

پانچواں باب

قرآن کریم اللہ کا کلام ہے پہلی فصل

قرآن کریم کی اعجازی خصوصیات

جو چیز سے قرآن کے کلام الہی ہونے پر دلالت کرے تو یہیں ہے شمار ہے، ان میں سے مسیح علیہ السلام کے حواریوں کے شمار کے مطابق میں بارتہ چیزوں کے بیان پر اکتفاء کرتا ہوں، اور باقی ان جیسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں مثلاً قرآن کریم میں کسی بھی یاد نبوی بات کے بیان کے وقت مخالف اور معاند کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے، اور ہر چیز کے بیان کے وقت خواہ وہ تزعیبی ہو یا مذرا نے کی ہو، شفقت ہو یا اعتاب، اعتدال ملحوظ ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزوں میں انسانی کلام میں نایاب ہیں اس لئے کہ انسان ہر حالت کے بیان میں اس کے مناسب گفتگو کرتا ہے، لہذا اعتاب اور ناراضی کے موقع پر ان لوگوں کی قطعی رعایت سنبھیں کرتا جو شفقت کے لائق

ہوں۔ اسی طرح اس کے برعکس، نیز دنیا کے ذکر کے موقع پر آخرت کا حال یا آخرت کی حالت بیان کرتے ہوئے دنیا کا حال ذکر نہیں کیا کرتا، غصہ کی حالت میں قصوے زیادہ کہہ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ،۔۔۔

پہلی خصوصیت، بلاغت [قرآن حکیم بلاغت کے اس اعلیٰ معیار پر پہنچا ہوا ہے جس کی مثال انسانی کلام میں قطعی نہیں ملتی، ان کے کلام کی بلاغت اس معیار تک پہنچنے سے قاصر ہے، بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر کلام کیا جا رہا ہے اس کے مناسب معنی کے بیان کے لئے بہترین الفاظ اس طرح منتخب کئے جائیں کہ مدعی کے بیان کرنے میں اور اس پر دلالت کرنے میں نہ کم ہوں نہ زیادہ، لہذا جس قدر الفاظ زیادہ شاندار اور معانی شکفتہ ہوں گے اور کلام کی دلالت جس قدر حال کے مطابق ہو گی اتنا ہی وہ کلام زیادہ بلیغ ہو گا، قرآن کریم بلاغت کے اس بنیت معيار پر پورا اترتا ہے، اس کے چند دلائل ہیں:-

بلاغت کی پہلی ولیل [اہل عرب کی فصاحت بالعلوم محسوسات کے بیان بہک

کی تعریف، شمشیر زنی، نیزہ بازی، جنگ یا لوٹ مار کا بیان۔ کبھی حال عجیبوں کا ہے، خواہ وہ شاعر ہوں یا الشاعر پرداز، عموماً ان کی فصاحت اپنی چیزوں کے بیان میں دائڑہ ہے، بلکہ ان اشیاء کے بیان میں ان کی فصاحت و بلاغت کا دائڑہ بڑا وسیع ہے، ایک تو اس لئے کہ یہ چیزیں اکثر انسانوں کی طبیعت کے مطابق میں دوسرے لئے «فصاحت»، علم بیان کی اصطلاح میں اُسے کہتے ہیں کہ عبارت کا ہر لفظ شکفتہ اور اسکی ادائیگی آسان ہو، عبارت میں نحوی و صرفی قواعد کا پورا الحاذر کھا گیا ہو، الفاظ مولے موٹے اور ثقیل نہ ہوں ان کے معنی عام محاوے میں مشہور ہوں۔

اور «بلاغت» کا مطلب یہ ہے کہ فصاحت کے ساتھ ساتھ اس میں مخاطب اور موقع و محل کی پوری رعایت ہو، جاہلوں کے سامنے عالمہ عبارت یا عالموں کے سامنے عالمیانہ عبارت استعمال کی جائے گی تو وہ بلاغت کے خلاف ہو گی ۱۲ ترقی

ہر ملک اور ہر زمانہ کے شاعروں اور ادیبوں نے ان اشیاء کا ذکر کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی جدید مضمون یا لطیف نکتہ بیان کیا ہے، چنانچہ بعد کے آنے والے لوگوں کے لئے پہلوں کی موشگان فیاض پہلے سے موجود ہوتی ہیں،

اب اگر کوئی شخص ^{سلیم الذہن} ہو، اور ان چیزوں کے بیان کا ملکہ حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو، تو مدلل مشق کرنے سے ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے مطابق اس کو ان اشیاء کی خوبی بیان کرنے کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، چونکہ قرآن کریم میں خاص طور پر اشیاء کا بیان نہیں کیا گیا، لہذا اس میں ایسے فیض الفاظ کا وجود نہ ہونا چاہئے جن کی فصاحت اہل عرب کے نزدیک مسلم اور متفق علیہ ہے،

دوسری دلیل قرآن کریم میں اللہ نے صحابی اور راست گوئی کا پورا اہتمام کیا ہے اور سارے قرآن میں کوئی ایک بات غلط یا جھوٹ نہیں ہے،

ادھر جو شاعر اپنے کلام میں پیغام بولنے کی پابندی کرے، اور جھوٹ کی آمیزش سے احتراز کرے اس کا شعر یقیناً فصاحت سے گرا جاتا ہے، یہاں تک کہ کہا وات مشہور ہو گئی کہ ثہر بن شعروہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ جھوٹ بول لا گیا ہے، ”تم دیکھتے ہو کہ بعید بن ربعہ اور حسان بن ثابت ^{رض} دونوں بزرگ جبکہ مان ہو گئے تو ان کا کلام مجاہد یعنی واقعی یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی لفظ فصاحت کے اعلیٰ معیار سے گرا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا کھلا ہوا اعجاز ہے، ۱۲ ات ^ت اس لئے کہ شعر کی ساری لطافت اور اس کے مبالغوں اور نکتے آفرینیوں میں پہاڑ ہوتی ہے اگر ان چیزوں کو اُس سے نکال دیا جائے تو اس کی روایت ہی ختم ہو جاتی ہے ۱۲ ات ^ت ”بعید بن ربعہ“ عربی کے شعراء مخضز میں میں سے ہیں، سبعہ معلقہ میں ایک

ایک فضیلہ ان کا بھی ہے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے شعر کہتا تقریباً ترک کر دیا تھا ۱۳ ات ^ت

کہ ”حسان بن ثابت ^{رض}“ مشہور انصاری صحابی ہیں، عربی کے صاحب دیوان شاعر ہیں، جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعہ اسلام کی مدافعت کی، ۱۲ ات (آئندہ صفحہ کا حاشیہ ۱۴ صفحہ ہنا پر)

سے گر گیا ان کے اسلامی دور کے اشعار جاہلی زمانہ کے اشعار کی طرح زور دار نہیں ہیں، لیکن قرآن کریم باوجود چھوٹ سے پرسہتر کرنے کے نہایت فصیح ہے،

تیسرا دلیل کسی قصیدہ کے تمام اشعار شروع سے آخر تک فصیح نہیں ہوتے، بلکہ تمام قصیدہ میں ایک ہی دو شعر معياری ہوتے ہیں، اور باقی اشعار پھیکے اور بے مرد، قرآن کریم اس کے بر عکس باوجود اتنی بڑی ضخیم کتاب ہونے کے سامنے کاسرا اس درجہ فصیح ہے کہ تمام مخلوق اس کے معارضہ اور مقابلہ سے عاجز ہے، جس کسی نے سورہ یوسف (علیہ السلام) کا بنتظر غائر مطالعہ کیا ہو گا وہ جانتا ہے کہ اتنا طویل قصہ بیان کے لحاظ سے جان بلاعت ہے،

چوتھی دلیل اگر کوئی شاعر یادیں کسی مضمون یا قصہ کو ایک سے زیادہ بار بیان کرتا ہے، تو اس کا دوسرا کلام پہلے کلام جیسا ہرگز نہیں ہوتا، اس کے برخلاف قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات، پیدائش و آخرت کے احوال احکام اور صفات خداوندی بجزت اور پار یا بیان کے گئے ہیں اندراز بیان بھی اختصار اور تطبیل کے اعتبار سے مختلف ہے، عنوان و بیان میں ایک ہی اسلوب اختیار نہیں کیا گیا ہے، اسکے باوجود ہر تعبیر اور ہر عبارت انتہائی فصاحت کی حامل ہے، اس لحاظ سے دونوں عبارتوں میں کچھ سمجھی تفاوت محسوس نہیں ہوتا ہے،

پانچویں دلیل قرآن کریم نے عبادات کے فرعن ہونے، ناشائستہ امور کے حرام ہونے، اچھے اخلاق کی ترغیب دینے، دنیا کو ترک کرنے اور آخرت کو ترجیح دینے یا اور اسی قسم کی دوسری بالوں کے بیان پر اکتفاء کیا ہے ان چیزوں کا ذکر و تذکرہ کلام کی فصاحت کم کرنے کا موجب ہوتا ہے، چنانچہ اگر کوئی فصیح شاعر یادیں فقرہ یا عقائد کے نو دس مثیلی بہترین فصیح عبارت میں لکھنے کارادہ کرے جو بلیغ تشبیہات اور واقعی استعاروں کوئے ہوئے ہو تو وہ قطعی عاجز ہو گا، اور اپنے مقصد میں ناکام،

چھپی دلیل اہر شاعر کی سحر کلامی ایک ہی فن تک محدود ہوتی ہے، اس کا کلام دوسرے مصنایں کے بیہم میں بالکل پھیکا پڑ جاتا ہے، جیسا کہ شعراء عرب کے متعلق مشہور ہے، کہ امراء القیس کے اشعار شراب، کتاب، عورتوں کے ذکر اور گھوڑوں کی تعریف میں بے مثل اور لا جواب ہیں، نابغہ کے اشعار خوف و بیعت کے بیان میں اشتعلی کے شعر حسن طلب اور شراب کے وصف میں، زہیر کے اشعار رغبت اور امید کے بیان میں بے نظیر ہوتے ہیں، شعراء فارس نظمائی اور فردوسی جنگ و جدل کے بیان میں یکتا ہیں، سعدی غزل گوئی کے بادشاہ ہیں تو انوری قصیدہ گوئی کے امام ہیں،

اس کے بر عکس قرآن حکیم خواہ کوئی مضمون بیان کرے تر غیب کا ہو یا تر ہب کا ڈرانے والا ہو یا الصیحت کا، ہر مضمون میں اس کی فضاحت کا سورج لصف النہار کو پہنچا ہوا ہے، ہم نمونہ کے طور پر ہر صفت بیان کی ایک ایک آیت پیش کرتے ہیں۔

قرآن کریم کی بلاغت کے نمونے

تر غیب کا مضمون

تر غیب کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے :-

لئے خود اردو میں انسیں ود بیرز شیر کے بادشاہ ہیں، ذوق قصیدہ گوئی میں مشہور ہے، غالب غزل کا امام ہے، فانی حضرت دیاس کے بیان میں یکتا ہیں، اور ان مصنایں سے ہٹ کران کے اشعار پھیکے نظر آتے ہیں ۲۷ میہان تک کہ قرآن کریم نے بعض ان مصنایں میں بلاغت کو ادیج کمال تک پہنچا کر دکھلایا ہے جن میں کوئی بشری ذہن نہ ہے، کے بعد بھی کوئی ادبی چاشتی پیدا نہیں کر سکتا، مثلاً قانون دراثت کو لیجھے، ایک الیسا خنک اور سنگلار خ موضوع ہے جس میں دنیا بھر کے ادیب اور شاعر بکو دین بعت اور عبارت کا حسن پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھ کر سورہ نساء میں **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ** (کو اُ لا دیگر والار کو ع پڑھ جائیے، (بقیرہ حاشیہ بر صغیر آئندہ))

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ فُتُوحٍ إِلَّا عَيْنٌ .

ترجمہ: کوئی شخص آنکھوں کی ٹھنڈائی کے اس سامان کو نہیں جانتا جو داس کے لئے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔

ترہیب کا مضمون

جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہوئے ارشاد ہے:-

دَخَابَ كُلَّ شَجَبَارِ عَنِيدٍ مِنْ دَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَلَيُشْقَى مِنْ
مَا يَأْصَدِي دِيْدٍ يَتَبَرَّجُ عَهْ دَلَائِكَادُ يُسَيْدُغَهُ وَيَأْتِي شَهْ
الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ دَرَائِهِ
عَذَابٌ حَقٌ عَلِيُّظٌ .

ترجمہ: ہر ظالم اور معاند شخص ناکام رہے گا، اس کے چھے ایک بھرا کنواں ہے لے سے پیپ لہو کا پانی پلایا جائے گا، جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پڑے گا، مگر مجال ہے کہ اسے خوشگواری کے ساتھ حلق سے اٹار سکے، اور اس کے پاس ہر طرف سے موت آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پچھے پڑے عذاب ہو گا۔

دھمکی اور ملامت

دنیوی عذاب کی دھمکی دیتے ہوئے ارشاد ہے:-

فَكُلَّا أَخَذْ بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ
حَاصِبًا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ ذَنْبَ الصَّيْحَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ
خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، وَمَا كَانَ
اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ط

(گذشتہ سے ہوستہ) آپ بے ساختہ پکارا تھیں کہ کہیقینا یہ کوئی غیر معمولی کلام ہے، اس پر رکوع میں قالوں و راشت بیان کیا گیا ہے، لیکن اس حسن و جمال کے ساتھ کہ سچان اشنا ہے؟

آیت پر ادبیت کا ذوق وجد کرتا ہے ۱۲ محمد تقی

ترجمہ: "پس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے عومن دھر لیا، ان میں سے بعض وہ تھے جن پر ہم نے پتھراو بھیجا، بعض وہ تھے جنھیں چینخ نے آپکردا، اور بعض وہ تھے جنھیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعض وہ تھے جنھیں ہم نے عرق کر ڈالا، اور اللہ ظلم کرنے والا نہ تھا، وہ لوگ تو خود اپنے جانوں پر ظلم کر رہے تھے"

وعظ و نصیحت :

وعظ و نصیحت کا مضمون ارشاد فرمایا جا رہا ہے :-

أَفَرَأَيْتَ إِنْ كُمْتَعْنَهُمْ يَسْتَيْقِنُ شُرُّ حَاجَةَ هُمْ مَا كَانُوا
يُوعَدُونَ مَا أَعْنَتِي عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُشَتَّعُونَ ط

ترجمہ: ہمارے مخالف ذرا بسلاط تو اگر ہم ان کو چند سال تک عیش میں سے دیں پھر جس کا ان سے وعدہ ہے وہ ان کے سر پر آپٹے تو ان کا وہ عیش کس کام آسکتا ہے؟

ذات و صفات کا بیان :

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغْيِضُ الْأَوْرَحَامُ
وَمَا تَرَدَّدُ وَكُلُّ شَهْرٍ عِتْدَةٌ بِمِقْدَارِ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالُ ط

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ کو سب خبر رہتی ہے جو کچھ کسی عورت کو حمل رہتا ہے اور جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور ہر شے اللہ کے نزدیک ایک خاص انداز سے ہے، وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جانے والا ہے سب سے بڑا عالی شان ہے"

اتویں دلیل اگر کلام کو ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی جانب منتقل کیا جائے اور وہ مختلف مضامین کے بیان پر مشتمل ہو تو ایسی شکل میں کلام کے اجزاء کے درمیان عمدہ و قسم کا ربط اور جوڑ نہیں

رہتا، اس لئے وہ کلام بلا غت کے معیاری درجہ سے گر جاتا ہے، اس کے برعکس قرآن کریم میں ایک واقعہ سے دوسرے واقعہ کی جانب انعقائی دگریز بکثرت پایا جاتا ہے، اسی طرح وہ امر وہ نہی کے مضمایں اور خروج استخراج و عدہ و دعید کے ذکر، ثبوت کے اثبات اور توحید ذات و صفات، ترغیب و ترهیب، اور کہا توں کے مختلف النوع مضمایں بیان کرتا ہے، اس کے باوجود اس میں کمال درجہ کا ربط اور تعلق اور آگے کا پیچھے سے جوڑ موجود ہے، اذ بلاغت کا ایسا اعلیٰ معیار قائم رہتا ہے جو انسانی عادت کے خلاف ہے، اسی لئے عرب کے یلغاء کی عقلیں قرآن کو دیکھ کر حیران ہیں،

آٹھویں دلیل قرآن کریم کا طرہ امتیاز ہے کہ اکثر جگہوں پر تھوڑے سے الفاظ میں بے شمار معانی کو اس طرح سمولیتی ہے جیسے سمندر کو کوزے میں، اس جامیعت کے ساتھ کہ اس کی حلاوت اور شیرینی اور زیادہ ہو جاتی ہے، جن لوگوں نے سورہ حس کی ابتدائی آیتوں پر غور کیا ہو گا وہ میرے قول کی سچائی کی شہادت دیں گے کہ کس عجیب طریقہ پر اس کی ابتداء کی گئی ہے، کفار کے واقعات اور ان کی مخالفت و عناد کے بیان کے ساتھ گذشتہ امتوں کے ہلاک کیے جانے سے اس کو تنبیہ کی گئی، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا، اور قرآن کریم کے نازل ہونے پر تعجب اور حیرت کرنا بیان فرمایا گیا، پھر ان کے سرداروں کا کفر پر متفق ہونا، ان کے کلام میں حسد کا منیاں ہونا اور ان کی تعیز و تحریر، دنیا اور آخرت میں ان کی رسالتی اور ذات کی دھمکی، ان سے پہلی قوموں کی تکذیب کا بیان، اور اللہ کا ان کو ہلاک کرنا، قریش اور ان چیزے دوسرے لوگوں کو امام سابقہ کی سی ہلاکت کی دھمکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی ایذا رسانی پر صبر کی تکذیب، اور آپ کی دلداری اور تسلی اس کے بعد داؤد، سليمان، یوہ، ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کے واقعات کا بیان، یہ سب مضمایں اور واقعات بہت ہی مختصر اور تھوڑے الفاظ میں

بیان فرمائے گئے ہیں، اسی طرز ارشاد ہے۔

اعجاز قرآنی کا ایک چرت نگہز نمونہ [سبحان اللہ! اس جملہ کی جامیعت پر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، اس قدر اخضار اور سچسر بے شمار معانی سے مالا مال، بلاغت کا سٹاہنکار ہونے کے علاوہ رو و مقابل معانی یعنی قصاص و حیات کے درمیان مطابقت پر مشتمل ہے، ساتھ ساتھ مسلمون کی ندت بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ قتل جو حیات کو فنا کر دینے والا ہے اسکو خود حیات کا ظرف قرار دیا گیا ہے، یہ کلام ان تمام تعبیرات اور مقولوں سے بہتر اور عمدہ ہے جو اہل عرب کے یہاں اس مفہوم کی ادائیگی کے لئے مشہور ہیں، سب سے زیادہ مشہور کہا و تیں اس سلسلہ میں یہ ہیں:-

قتلُ الْبَعْضِ أَحْيَا أَخْرَى لِلْجَمِيعِ

”بعض لوگوں کا قتل باقی تمام انسانوں کے لئے زندگی کا سماں ہوتا ہے“

ادر

أَكْثَرُ الْقَتْلَ لِيَقُلَّ الْقَتْلُ

”قتل زیادہ کرو تاکہ قتل کم ہو جائیں“

اور

الْقَتْلُ أَنْفُلٌ لِلْقَتْلِ

”قتل قتل کو دور کرتا ہے“

لہ مطابقت یا طباق، علم بدیع کی اصطلاح میں ایک صنعت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملہ میں دو یادوں سے زیادہ متنضاد چیزوں کا جمع کر دینا مثلًا مہم کیلئے تبرسم کہہ رہا تھا زندگانی کو مگر شمع بولی، تحریر غم کے سوا کچھ بھی نہیں

ذکونہ بالا آیت میں بھی قصاص اور زندگی کو بیجا بھر کے ایک حصیں مطابقت پیدا کی گئی ہے اس

لیکن قرآنی الفاظ ان کے مقابلہ میں چھ وحیہ سے زیادہ فضیح ہیں :-

۱) قرآنی جملہ ان سب فقروں سے زیادہ مختصر ہے، اس لئے کہ "وَكُمْ" کا نفظ تو اس میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ لفظ ہر مقولہ میں محفوظ ماننا پڑے گا، مثلاً :- قَتَلُ الْبَعْضِ أَخْيَارٌ لِّلْجَمِيعِ میں بھی اس کو مقدر مانا ضروری ہے، اسی طرح أَقْتَلُ أَنْفُقَ لِلْقَتْلِ میں بھی، اب صرف فی القصاص حبیوة کے حروف مجموعی دوسرے اقوال کے حدوف کی نسبت سے بہت مختصر ہیں،

۲) انسانی کلام أَقْتَلُ أَنْفُقَ لِلْقَتْلِ بنظر ہر اس کا مقتضی ہے کہ ایک شے خود اپنی نفی کا سبب ہو سکے، اور یہ عیب ہے، اس کے بر عکس الفاظ قرآنی کا تقاضا ہے کہ قتل کی ایک نوع جس کو قصاص کہا جاتا ہے حیات کی ایک نوع کا سبب ہے،

۳) ان کے بہترین کلام میں تکرار لفظی قتل بکاوجود ہے، جو عیش کا رکیا گیا ہے برخلاف الفاظ قرآن کے کہ اس میں تکرار نہیں،

۴) ان کا یہ بہترین کلام قتل سے روکنے کے علاوہ اور کسی معنی کا فائدہ نہیں دے رہا ہے، اس کے بر عکس الفاظ قرآن قتل اور زخمی کرنے دونوں سے روکنے کا فائدہ دے رہے ہیں، اس لئے یہ کلام زیادہ عام اور مفید ہوا،

۵) ان کہاونوں میں قتل کو ایک دوسری حکمت کا تابع بناؤ کر اسے مطلوب قرار دیا گیا ہے، اس کے بر عکس قرآنی الفاظ میں بلا غلط اس لئے زیادہ ہے کہ وہ قتل کا نتیجہ زندگی کو قرار دیتا ہے جو اصل مقصد ہے، اس سے خود قتل کے معقصود ہونے پر اشارہ ملتا ہے،

۶) ظلم قتل کرنا بھی قتل کی ایک نوع ہے، مگر یہ قتل کو روکنے والی ہرگز نہیں ہے، اس کے بر عکس قصاص بہر صورت مفید ہی مفید ہے، لہذا انسانی کلام بنظر ہر غلط اور قرآنی الفاظ ظاہری د باطنی طور پر فضیح ہیں،

۷) اور کہاونوں کے اندر قتل کی کوئی تفصیل نہیں بتلوائی گئی کہ کون مفید ہے اور کون مضر، قرآن کریم نے قتل کی بجائے "قصاص" کا لفظ استعمال فرمائ کر یہ تفصیل کبھی بیان فرمادی ہے ۱۲ ات

اسی طرح باری تعالیٰ کا رشتاد ہے :

وَمَنْ يُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَقَبَّلُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

ترجمہ : " اور جو شخص اشد اور اس کے رسول کی اماعت کرے اور اشد سے ڈے اور ڈرتا رہے تو ایسے لوگ کامیاب ہیں ۔ "

اس لئے کہ یہ قول باوجود مختصر الفاظ کے تمام ضروری چیزوں کو جامع ہے ،

حضرت عمرؓ اور بطریق ردم کا واقعہ | کہا جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھا جو آپ کے سر ہاتے کھڑا ہوا کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں ردم کے ان علماء سے ہوں جو عربی اور دسری بہت سی زبانیں خوب جانتے ہیں ، میں نے ایک مسلمان قیدی کو تمہاری کتاب کی ایک آیت پڑھتے شنا اور پھر غور کیا تو وہ آیت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی ان تمام آیات کو جامع ہے جو دنیا اور آخرت کے احوال کے سلسلہ میں ان پر نازل ہوئی ہیں ، وہ آیت من یُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ہے ۔

حسین بن علی و اقدمی اور ایک عیسائی طبیب کی حکایت | نصاریٰ کے

حاذق نے حسین بن علی و اقدمی سے سوال کیا کہ تمہاری کتاب قرآن میں علم طب کی کوئی بات ذکر نہیں کی گئی ۔ حالانکہ علم کی دو قسمیں ہیں ، علم الابدان اور علم الادیان ،

لہ اطہار المحق کے تمام نسخوں میں ایسا ہی ہے ، مگر مشہور علی بن حسین واقد ہے ، چنانچہ علامہ اکوسی ہنے بھی یہ نام اسی طرح ذکر کیا ہے ، انہوں نے یہ واقعہ سورہ اعراف کی آیت لَا نَسْرَ فُوۤ کے ذیل میں کتاب العجائب کلاغی کے حوالے ذکر کیا ہے دیکھئے عروج المعانی (۲۹۹ ص ۴۷) ۔ علم الابدان یعنی انسانی جسم اس پر واقع ہونے نام علی بن حسین ہی لکھا ہے (دیکھئے ص ۴۹۹) ۔ علم الادیان یعنی مذاہب کا علم ، دلائے امراض اور ان کے علاج کا علم جسے طب ہونے ہے ، اور علم الادیان یعنی مذاہب کا علم ،

حسینؑ نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ شاء نے تو پورا علم طب نصفت آیت میں بیان فرمادیا ہے، طبیب نے پوچھا وہ کونسی آیت ہے؟ کہا کہ:

كُلُّوا وَأَشْرُبُوا وَلَا تَسْرِفُوا
وَكَهْوَأُ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔

یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں خدا نے تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو کھاؤ پیو اور حرام کی طرف مت بڑھو، اور اس قدر زیادہ مقدار میں استعمال کرو جو مضر ہو، اور جس کو تم کو ضرورت سمجھی نہ ہو،

پھر طبیب نے پوچھا کہ کیا محدث سے بنی نے بھی اس سلسلہ میں کچھ فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا بیشک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند الفاظ میں پوری طب کو سمیٹ دیا ہے، طب نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

الْمَعْدَةُ كَذَّابَةُ الْذَّاءِ وَالْحَمِيمَةُ رَأْسُ حَكَلٍ دَوَاعِي وَأَعْطِ
حَكَلَ بَدَنٍ مَاعُودَتَهُ

ترجمہ: "معدہ امراض کا گھر ہے، اور پھر یہ سب سے بڑی دوا ہے، اور بدن کو دہن چیز دو جس کا تم نے اسے عادی بنایا ہے"

طبیب نے کہا کہ النصاف کی بات تو یہ ہے کہ بنی علیہ السلام اور تمہاری کتاب نے جالینوس کی ضرورت باقی ہنسی چھوڑ دی، یعنی ددقوں نے وہ چیز بتادی جو حفظ صحت اور ازالۃ مرض کے لئے اصل اور مدار ہے،

نویں دلیل | کلام کی شوکت اور شیر بنی وحدادت دو منضنا صفتیں ہیں، جن کا جماعت مدعی الفاظ تکتب حدیث میں ہمیں مل سکے، درودی الطبرانی بضعف عن ابن ابی هر بیرہ و المعد حوض البهان دالعرف، ایکھا دارد تاذ اذا صحت المعد تاذ صدرت العروق بالصححة فاذ افسد المعد تاذ صدرت العروق بالستقىم (جمع الفوائد مرض العروق)، اور علامہ ابوسی لبغدادی رحمہ نے ابن قفسی میں علی بن حسینؑ واقف کا مذکورہ قصر رہنمیہ بر صفحہ آئندہ)

کلام میں نہیں ہوتا پھر ان دونوں چیزوں کا جا بجا تمام مواقع پر قرآن کریم میں پایا جانا دلیل ہے کمال بلاغت اور فضاحت کی جوانسانی عادت سے خارج ہے،

دسویں دلیل | قرآن کریم بلاغت کی جمیع اقسام و احوال پر مشتمل ہے، مثلاً تاکید کی اقسام، تشبیہ و تمثیل کی قسمیں، استئعارہ اور حسن مقاطع اور مطالع و حسن مفاصل کی اقسام، تقدیم و تغیر، فضل اور وصل اور ایسے رکیک اور شاذ الفاظ سے قرآن کریم بکسر خالی ہے، جو نحوی صرفی قواعد یا لغوی استعمال کے خلاف ہوں، بڑے بڑے ادباء اور شاعر اور میں میں کوئی بھی ان بلاغت کی مذکورہ احوال میں سے ایک دو سے زیادہ اپنے کلام میں استعمال نہیں کر سکا، اور اگر کسی نے ان سب کو جمع کرنے کی کوشش بھی کی ہے تو ٹھوکریں کھائیں ہیں، قرآن کریم اس کے بر عکس ان تمام احوال بلاغت سے بھرا پڑا ہے،

(گذشتہ سے ہوسنہ) تھئے کے بعد فرمایا ہے کہ "یہ الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، بلکہ حارث بن کلدہ کے ہیں" "المتہ حضرت ابو ہریرہؓ کی جو روایت ہم نے جمع الغواہ سے نقل کی ہے اُسے ہوں نے پہنچی کی شعب الدیمان سے بھی نقل کیا ہے، اور لکھا ہے کہ دارقطنیؓ نے اس حدیث کو بھی موضوع نظر ریا ہے (روح المعانی، ص ۱۱۱ جلد ۸)

سلہ اس کی بہترین مثال سورۃ تکویر کی یہ آیت ہے جس میں شوکت اور تشریف کو جس میزبان ازاد سے سویا گیا ہے، اس پر ذوق سدیم و جدکرتا ہے سہ

"فَلَمَّا أَقْسِمَ رِبَّ الْخَلْقَ إِلَيْهِ الْجَنَّارُ إِلَكْنَسٌ وَاللَّبَيلُ إِذَا عَشَقَنَ وَالصَّبِيجُ إِذَا تَنَفَّقَ
تَهْلَقُولُ رَسُولٌ كَرِيمٌ ذُرِيْ قُوَّةٌ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ" ۚ

نان کے کلام میں ان دونوں چیزوں کا جماعت شاذ و نادر ہی ہوتا ہے یہ بات شاید اس طرح واضح ہو سکے، میر نے ایک شعر کہا تھا ہے

مرہانے میر کے آہستہ بلو ۔۔۔ ابھی لکھ رہتے رہتے سو گیا ہے
رسودانے کہا کہ ہے

سودا کی جو بالیں پہ ہوا شورِ قیامت ۔۔۔ خداوند ادب بولے ابھی آنکھوں لگی ہے،

یہ دشن وجوہ ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کریم بلاغت کے اس بلند مرتبہ پر پہنچا ہوا ہے جو انسانی عادت سے خارج ہے، اس بات کو فصحائی عرب اپنے سلیقہ سے سمجھتے ہیں، اور عجمی علماء علم بیان کی مہارت اور اس ادیب کلام کے احاطہ سے، اور جو شخص لغت عرب سے جتنی زیادہ واقفیت رکھتا ہو گا وہ تبیت دوسروں کے قرآنی اعجاز کو زیادہ سمجھے گا،

قرآن کریم کی دوسری خصوصیت

دوسری چیز جو قرآن کے کلام الہی ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ اس کی عجیب ترکیب، نادر اسلوب، آیتوں کے آغاز و انتہا کا انداز، ساتھ ہی اس کے علم بیان کے دقائیق اور عرفانی حقائق پر مشتمل ہونا، نیز جسیں عبارت اور پاکیزہ اشائے سلیمانی ترکیبیں اور بہترین ترتیب، ان مجموعی خوبیوں کو دیکھ کر ٹھے ٹھے ادباء کی عقیلیں حیران ہیں،

قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو مجزاً حد تک پہنچا دینے میں ایک حکمت تو یہ تھی کہ کسی بڑے سے بڑے دھرم کو سمجھی یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ معاذ اللہ اس کلام میں فخر پایا جاتا ہے،

دوسرے یہ کہ اللہ کا کلام انسانوں کے کلام سے اس حد تک ممتاز ہو جائے مگر کسی بڑے سے بڑے ادیب اور شاعر کا کلام اس کی گرد کو سمجھی نہ پہنچ سکے، کوئی ادیب غلطیوں نہ نگاریوں یا شاعر، خاص طور سے اپنے کلام کے آغاز سے خالی نہیں رہا، [مطابع] کو حسین سے حسین تر بنانے کی توشیش کرتے رگذشتہ سے پیوستہ) میر کے شعر میں اشتہار جہ کی شیر رہی ہے، مگر شوکت نہیں، اور سودا کے شعیں شوکت ہے مگر شیر رہی اور نزاکت کا دور دور پتہ نہیں، قرآن کریم کی آیتوں میں دونوں چیزوں میں

پس، حُسْنِ ابتداء ہی وہ چیز ہے جو ایک ادیب کے کلام کو چکا دینی ہے، اور اسی میں کوئی لغزش ہو جائے تو پورے کلام کا حُسْنِ غارت ہو جاتا ہے۔ مثلًاً امرٰ القیس کو لیجئے۔ اس کے مشہور قصیدے کا مطلع ہے

قَفَانِبُكُّ مِنْ ذَكْرِي جَنِيْتِنْزِلْ ۚ بِسْقَطِ اللَّوْنِي بَيْنَ الدَّخُولِ فَوْهْلِ
شعر کے ناقدوں نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس شعر کا پہلا مصرع اپنے الفاظ کی شیرینی انداخت اور مختلف قسم کے معانی کو ایک جملہ میں جمع کر دینے کے اعتبار سے بے نظیر ہے، اس لئے کہ اس میں وہ اپنے آپ کو بھی محبوب کی یاد میں مٹھرنے کی دعوت دے رہا ہے، اور اپنے سنتھیوں کو بھی خود بھی رورتا ہے، دوسروں کو بھی رولا رہا ہے۔ محبوب کو بھی یاد کر رہا ہے اور اس کے گھر کو بھی، لیکن دوسرا مصرع ان تمام زادکتوں سے خالی ہے۔

اسی طرح عربی کے مشہور شاعر ابوالنجم کے ہاتھے میں مشہور ہے کہ وہ ہشام بن عبد الملک کے پاس گیا، اور قصیدے کا مطلع پڑھا۔

صَفَرٌ أَءَ قَدْ كَادَتْ دَلْمَةَ تَفَعَّلْ

كَأْنَهَا فِي الْأَفْوَقِ عَيْنِ الْوَحْولِ

اتفاق سے ہشام بھیجا گا تھا، اس لئے اس نے ابوالنجم کو نکال باہر کیا اور قید کو دیا۔
ایسا شعر کا مفہوم یہ ہے کہ شاعر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ محبوب کے ایک پرانے مکان سے پاس سے گزتا ہے جواب کھنڈر بن چکا ہے، تو ساتھیوں سے کہنا ہے ۴ مٹھرہ اذرا محبوب اور اس کے گھر کو یاد کر کے رویں، وہ گھر جو ٹیکے کے کنائے مقام دخول اور مقام خود کے درمیان واقع تھا۔ ۵ اس شعر کے معنی پر بعض ناقدوں نے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ محبوب کی یاد میں دوسروں کو رسنے کی دعوت دینا بیزنت عاشقی کے خلاف ہے، اور غزل کا کوئی مطلع عاشقی کے خلاف نہ ہونا چاہئے، ۶ میں بنو امیرہ کا شہرہ خلیفہ ۷ سُلَيْمَانَ، سُلَيْمَانَ، جس کے زمانے میں مسلمانوں کی فوجیں فرانس تک پہنچ گئی تھیں تھے شاعر سوری کے عزوب کا منتظر پیش کر رہا ہے، کہ ۸ وہ زرد رو ہو چکا ہے، اور فریب ہے کہ دُبْجَةَ لیکن بھی ڈوباہیں، ۹ افغان پر وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جینگے کی آنکھ ۱۰ ۱۱ حالانکہ ابوالنجم ہشام

کے بے تکف دوستوں میں سے تھا، ایسا ہی ایک واقعہ ذوالتمہ کا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے عبد الملک

اسی طرح جریر نے ایک مرتبہ عبد الملک کی سثان میں ایک مدحیہ قصیدہ پڑھا
جس کا مطلع تھا:

أَتْصِحُوا أَمْ فَوَادُ وَغَيْرِ صَبَاهُ

اس پر عبد الملک نے بھگا کر کہا:

بَلْ فَوَادُ وَأَنْتَ يَا بْنَ الْفَاعِلَةِ،

”یعنی خود تیرا دل ہے یہ وہش ہو گا“

اسی طرح بختی نے یوسف بن محمود کے سامنے مطلع پڑھا

لَكُوكُ الْوَبِيلِ مِنْ لَيْلٍ تَقَاصِرَ آخِرَةً

بادشاہ نے فوراً کہا: ”اس کا نہیں، تیرا ناس ہو“

اسحق موصلی مانا ہوا ادیب ہے، وہ ایک مرتبہ معتضم کے پاس گیا، بادشاہ اپنی دنوں میدان کے اندر اپنا محل تعمیر کر کے فارغ ہوا، اسحق نے جا کر اس کے سامنے اپنایہ مطلع پڑھا

رَدَّ شَهْرَ سَعِيْتَ رَتْنَكَ سَعِيْتَ قَبْدَلَ سَعِيْتَ كَمَاطَعَ مَطْلَعَ پَرْهَادَ

مَابَالْ عَيْنِكَ مِنْهَا السَّمَاءُ يَنْسَكِبُ

”تیری آنکھ کو کیا ہو گیا کہ اس سے پانی بہتار ہتا ہے“، عبد الملک کو آنکھ بہنے کا مردنی تھا وہ تمباکہ کا اسٹن بھچ پر چوت کی ہے، چنانچہ اسے غصب ناک ہو کر نکلوادیا (الحمدۃ للہ ابن رشیق، ص ۲۲ جلد اول)۔
لہ یعنی ”کیا تو ہوش میں ہے یا تیرا دل بے ہوش ہے؟“ اس کا دوسرا مصرعہ ہے: نشہ نہیں مرنے عبد الملک اس بات سے ناواقف نہ تھا کہ شاعر اپنے آپ ہی کو خطاب کر رہا ہے، لیکن اس نے لے سے غزل کے مطلع کا عجیب سمجھ کر اس سے تنبیہ کی،

لہ یعنی ”تیرا ناس ہو، اے وہ رات جس کا آخری حصہ بڑا کوتاہ ثابت ہوا“، غزل کی ابتداء میں یہ بد دعاء ذوق سلیم پر بارہے، اس لئے بادشاہ نے الٹی اُس سے بد دعادی،

لہ اسحق بن ابراہیم موصلی (۶۷۷ء، ۷۵۸ء)، ولدین کا مشہور شاعر ہے، یہاں لوگوں میں سے ہے جنہوں نے عربی شاعری میں فارسی کی معنی آفریدی کی بنیاد ڈالی اور اپنی قادر الکلامی کا لواہ منوایا، تھی

یادِ اُن عیدِ لِک الپَلی دھنالِ
یالیت شعری مَا الذی أبلا ب

معتصم نے اس شعر سے بدشکونی لیتے ہوئے فوراً محکم کو گرانے کا حکم دیدیا، غرض اسی طرح بڑے مشہور شعرا و نے ان مقامات پر لغزشیں اور طحون کر دیں کھائی ہیں، شرفا، عرب باوجود اس کے کہ کلام کے اسرار پر پوری مہارت رکھتے تھے اور اسلام سے شدید عداوت سمجھی، لیکن قرآن کی بلاعث اور الفاظ کی خوبصورتی اور اسلوب و طرز کی عمدہ گی میں انگلی رکھنے کی مجال نہ پاس کے، اور نہ کوئی عیب نکانے کی قدرت ہوئی بلکہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ کلام شاعروں کے شعر اور اور خطیبوں کے خطیبوں جیسا ہرگز نہیں ہے، المبتدا اسکی فصاحت پر حیران ہوتے ہوئے کبھی اس کو جادو کہا، اور کبھی یہ کہا کہ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تراشیدہ اور پہلوں کی لے سند باتیں ہیں جو نقل ہوتی چلی آتی ہیں، کبھی اپنے ساتھیوں سے یوں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو، اور جب پڑھا جائے تو خوب شو، مچاو، شاید اس طریقہ سے تم غالب آجائی، یہ پوزیشن عموماً اس شخص کی ہوتی ہے جو حیران اور لا جواب ہوا کرتا ہے،

ثابت ہوا کہ قرآن اپنی فصاحت و بلاعث اور حسن الفاظ کی بنابری مجنزہ ہے، اور یہ بات عقل سلیم کیونکر تسلیم کر سکتی ہے کہ فصحائے عرب جن کاشمار ریت لئے عربوں کی عام زندگی چونکہ خانہ بدوشی کی تخفی اس لئے وہ عام طور سے اپنی شاعری میں محبوب کے پر انے گھر کے کھنڈروں کا تذکرہ مکرتے ہیں، اس شعر میں بھی شاعر ایک ایسے ہی مکان پر گذرتا ہے تو اسے خطاب کر کے کہتا ہے "اے مکان! یوسید گی لے تجھے بدیل کر بانکل ہی مٹا ڈالا، کاشش بھے معلوم ہو سکتا کہ تجھے کس نے تباہ کیا، ملے مشہور ہے کہ جہانگیر کے سامنے فارسی کے کمی شہرو شاعر نے مدحیہ قصیدہ کا مطلع پڑھا، "اے تاریخ دولت بر سیرت ازا بتداعتا انتہا" جہانگیر نے شاعر نے پوچھا "عرب مرض جانتے ہوئے" شاعر نے کہا نہیں، جہانگیر نے کہا "اگر عود من جانتے ہوتے تو سر قلم کر دیتا، اسیلے کہ مصر عرب کی تقطیع میں "لت بر سرت" (مستفعلن) آرہا ہے ۱۲ تقوی

کے ذریعوں اور سنگستائی پتھریوں سے کم نہ ملخا، اور جو اپنی حیثیت اور عصبیت میں مشہور تھے، جو ایک دوسرے کے مقابلہ میں تظاہر کی جنگ کے دلدادہ اور حسب و نسب کی مرافعت کے عادی تھے، انہوں نے بڑی آسان بات یعنی سب سے چھوٹی قرآن کی سورۃ کے برابر سورۃ تیار کرنے کی بجائے شدید ترین صعوبتیں برداشت کرنے کو ترجیح دی، جلو وطن ہوئے، گرد نیس کھائیں اور قیمتی جائیں، قربان کیں، بال بچوں کی گھر فتاری اور مال و املاک کی برپادی سہی، مگر قرآن کے مقابلہ میں ایک سورۃ پیش نہ کر سکے، حالانکہ ان کا مخالف چیلنج دینے والا عرصہ دراز تک اُن کے بھرے مجموعوں میں اور مخلوقوں میں اس قسم کے الفاظ سے اُن کو چیلنج کرتا رہا،

فَإِنْتُو أَبْسُورَةٌ مِّنْ مَّشْلِهِ
وَأَدْعُوكُمْ مِّنْ أَسْتَطَعْتُمْ
وَلَنْ يَكُونُوا مِنْ أَعْيُنِي
إِنَّ اللَّهَ إِذْ كُنْتُمْ
مُّرْدِكِينَ ط

اور ایک دوسری جگہ قرآن نے پکارا:-

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَكِبِ مِنْهَا
نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَإِنْ تُوَا
بِسُورَةٍ مِّنْ مَّشْلِهِ وَأَدْعُوكُمْ
شَهَدَ أَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ط
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَكُمْ تَفْعُلُوا
فَاقْتُلُوا النَّارَ الَّتِي دُقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ ط

ڈار و عجیب کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے یہ

دوسری جگہ پوری دعوے کے ساتھ ہے :

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأُنْسُ وَالْجُنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هُذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ نَظِيرًا

ترجمہ :- آپ فرمادیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن کے جیسا کلام بنانا چاہیں تو بھی اس جیسا نہیں بناسکیں گے، خواہ ان میں سے ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کیوں نہ کرے ۔

اور اگر ان کا یہ گمان تھا کہ **حَمْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُ** کے کسی دوسرے کی مدد سے یہ کتاب تیار کی ہے تو ان کے لئے سمجھی ایسا ہی موقع تھا، کہ دوسرے کی مدد سے ایسی کتاب تیار کر دیتے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھی تو زباندنی اور مدد طلب کرنے میں مسکریں ہی کی طرح ہیں،

جب انہوں نے ایسا نہ کیا، اور قرآن مجید کا مقابلہ کرنے پر جنگ و جدل کو ترجیح دی، اور زبانی مقابلہ کے بجائے مار دھاڑ کو گوارا کیا، تو ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم کی بلاعثت ان کو تسلیم تھی، اور وہ اسکے معارض سے عاجز تھے زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ وہ دو فرقوں پر تقسیم ہو گئے، کچھ لوگوں نے اس کتاب کی اور بنی اہل کی تصریح کی، اور کچھ لوگ اس کی حیثیں بلاعث پر حیرت زدہ رہ گئے،

روایات میں آیا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ آیت سنی :-

**إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى
وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط**

ترجمہ :- بلاشبہ اللہ تعالیٰ الصاف، نکو کاری، اور قریبی رشتہ داروں کو دادو دہشت کا حکم دیتا ہے اور فحش اور بیہودہ بالتوں سے روکتا ہے ۔

تو کہنے لگا کہ خدا کی قسم! اس کلام میں عجیب قسم کی مٹھائی اور رونق ہے، اس میں بدل کی روایتی اور شیرینی ہے،

اسی طرح دوسری روایت میں آیا ہے کہ اُس نے جب قرآن کریم سنات تو بڑی رقت طاری ہوئی، ابو جہل نے جب سنا تو تنبیہ کرنے اس کے پاس آیا، اور یہ ابو جہل کا بھتیجا ستحا، ولیم نے جواب دیا کہ خدا کی قسم! تم میں کوئی شعر کے حسن و قبح کو مجھ سے زیادہ جاننے والا نہیں، خدا کی قسم! جو محمدؐ کہتا ہے اس کو کوئی بھنپت اور مشابہت شعر کے ساتھ نہیں لٹھے ہے،

اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ موسمِ جم ج آنے پر اس نے قریش کو جمع کیا اور کہا کہ عرب کے مختلف قبائل آئیں گے تو محمدؐ کے بارے میں کوئی ایسی بات طے کرو کہ پھر اس میں باہمی اختلاف نہ ہو، قریش نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ محمدؐ رضی اللہ عنہ علیہ وسلم، کا ہن ہیں، ولید نے کہا، خدا کی قسم اودہ اپنے کلام اور سچھے میں کا ہن ہرگز نہیں ہیں، قریش نے کہا کہ پھر مجنون ہیں آں آں کا، جن کا

لہ اس کے پورے الفاظ یہ ہیں :- وَاللَّهُ أَنْ تَتَوَلَّهُ الَّذِي يَقُولُ حَدْوَةً وَإِنْ عَلَيْهِ نَطْلَةٌ
وَإِنَّهُ لِشَرِّ أَعْلَمْ مَعْذِقًا سُفْلَهُ وَإِنَّهُ لِيَعْلَمَا مَا يَعْلَمُ وَإِنَّهُ لِيَعْطِمَ مَا مَنْتَهٌ^۱ وَلَيَد
کے یہ انفاذ حاکم اور بیہقی کی روایت سے علام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کئے ہیں۔ (الخصائص الکبریٰ ص ۱۳۷ و
الاتفاق ص ۱۴۷) یکن احققر کو جستجو کے باوجود کہیں یہ نہ مل سکا کہ اس نے یہ الفاظ خاص طور سے ان اللہ
یَا هُنْ مِبِالْعَدْلِ الْخَ دالی آیت سنکر کیے تھے ۲ ۳۔ اخراج الحاکم والبیہقی من طریق عکرمة عن ابن
عباس میں کذا فی الخصائص الکبریٰ دص ۱۳۷) ۴ تدقیق سکھ سجع یعنی قانینہ بند نہ شر، وہ نثر جنس میں شعر

اور آدمی کو اس کے قبیلے اور خاندان سے الگ کر دیتا ہے، پھر یہ وہاں سے اٹھ کر سڑکوں پر جا شیئے، اور لوگوں کو حُسْنَ مَدْحُلِی اللہ علیہ وسلم کی پیری سے روکنے لگے، اس سلسلہ میں آیت کر بیہہ ولید کی شان میں نازل ہوئی ہے:-

« ذَرْ فِي وَمِنْ خَلْقَتْ وَحْيَدَ اللَّهُ

نیز روایت میں آیا ہے کہ عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی نسبت اپنی قوم کی مخالفت کے سلسلہ میں گفتگو کی، حضور نے ان کے سامنے حکم تَنْزِيلَ مِنَ السَّمَاءِ الْحُمْرَ اَلَّا جِيمُونِ، کتاب فُصِّلَتْ سے فائدہ رکھ کر حَسَاعِقَةً وَقَشْلَ صَاعِقَةً عَادَ وَ شَوَّدَ تک تلاوت فرمائی، عتبہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کا طالب ہوا، اور کہا کہ بس اور مت سنائیں گے،

ایک اور روایت میں یوں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر پڑھتے جاتے تھے، اور عتبہ ہر چند گوش بنانا ہوا اپنے دونوں ہاتھے بے اختیار اپنی کمر کے پیچے ڈالے ہوئے ان پر سہارا لیتا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے آیت سجدہ تلاوت فرمائی، اور سجدہ کیا، عتبہ اس حالت میں اٹھا کہ قطعی ہوش نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دے، اور سیدھا گھر چلا گیا، اور پھر لوگوں سے روپوش رہا، یہاں تک کہ لوگ اس کے پاس پہنچے، تب عتبہ نے معدودت کی اور کہا کہ خدا کی قسم! محمد نے مجھے ایسا کلام سنایا ہے کہ میرے کالوں نے تمام عمر ایسا کلام نہیں سنایا، میری سمجھ میں نہیں آسکا کہ کیا جواب دوں یا لخراج

له اخرجه ابن اسحق والبیہقی من طریق مکرمۃ او سعید عن ابن عباس (الخصائص الجزئی ص ۱۱۷) ٹھے یعنی ابوالولید عتبہ بن ربیعہ جو قریش کے سربراورده لوگوں میں سے تھا اور اسے شعرو ادب کا ستون سمجھا جاتا تھا۔ ۱۲۔ ۵۰

تله روی بذاللفظ ابن ابی شیبہ فی مسنده والبیہقی والوفیہم عن جابر (الخصائص ٹھن ۱۱۷)

ابو عبید نے بیان کیا ہے کہ کسی بد دی نے کسی شخص کو یہ پڑھتے ہوئے شنا فَأَصْدَعَ بِمَا تُؤْمِنُ، تو فوراً سجدہ میں گر گیا، اور کہا کہ میں نے اس کلام کی فصاحت پر سجدہ کیا ہے،

اسی طرح ایک مشرک نے کسی مسلمان کو یہ آیت پڑھتے شنا کے فَكَمَّا
اَسْتَيْأَ سَوَّا مِنْهُ خَلَقْتُمُوا نَجِيَّاً هَذِهِ لَكُمْ كہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی مخلوق اس قسم کا کلام کہنے پر قادر نہیں ہے،

اصمعی رہ نے بیان کیا کہ ایک پاریخ پھسالہ بھی کو میں نے فیصلہ کلام اور بلیغ عبارت ادا کرتے ہوئے شنا، وہ کہہ رہی تھی "استغفر اللہ من ذنبی کلہا" میں نے اس سے کہا تو کونسے گناہوں کی معافی پاہتی ہے، حالانکہ تو ابھی معصوم اور غیر مکلف ہے، لٹکی نے جواب میں یہ دو شعر پڑھے ۔

استغفر اللہ لذنبی کلہ قتلت انسان بغیر حلیہ

مثل عنزال ناعیر ف دلہ انتصف اللیل ولهم اصلیہ
اصمعی رہ نے کہا کہ تو کس قدر غضب کی فیصلہ کلام ہے، لٹکی نے کہا کہ کیا اشد کے اس ارشاد کے سامنے بھی کوئی کلام فیصلہ کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے ۔

وَأَوْسَيْنَا إِلَى أَمِّ مُوسَى أَنَّ أَرْضَنِيَّهُ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقَيْهُ
فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَخَرِّي إِنَّا رَأَدْوَهُ إِلَيْنَا وَجَاءَ عِلْوَةٌ
مِنَ الْمُرْسَلِينَ ،

کہ ایک آیت میں دو امر اور دو ہنی اور دو خبریں اور دو بشاریں جمع فرمادی ہیں، ایک اور روایت میں ہے کہ ابوذر رضہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اپنے بھائی انیس سے بڑا شعر کوئی سہیں دیکھا کہ جس نے زمانہ جاہلیت میں بارہ شعراً کو مقابلہ میں لئے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات قائل کر تم اس بچی کو دودھ پلاو، پھر جب تحقیق اسکی جان کا خون ہو تو اُسے دریا میں ڈال دینا، اور تم ڈرو ہنیں، نہ کچھ افسوس کرو، ہم اُسے تھہکے پاس ضرور لوٹایں گے۔ اور اُسے پیغمبر نبایش کے یہ (قصص)

شکست دی تھی، وہ جب مگر سے واپس آیا۔ میں نے اس سے حضورؐ کی نسبت پوچھا کہ لوگ آپ کے بلے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے لگا کہ وہ لوگ آپ کو شاعر، جادوگر، کامیاب بتاتے ہیں، پھر لگا کہ میں نے کامنوں کا کلام سمجھی سنایا ہے، ان کا کلام محمدؐ کے کلام سے میل نہیں کھاتا، اور میں نے ان کے کلام کا بہترین شعراء کے کلام سے سمجھی موازنہ کیا ہے، ان کا کلام اس سے بھی جوڑ نہیں کھاتا، اس لئے وہ میرے نزدیک سچے ہیں اور لوگ جھوٹے، آپ اس آیت پر پہلو پنچے:-

ام خلقوا مثیل شئ ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات
والارض، بل لا يوقنون، ام عنتد هم خذاش ربک ف ام
هم المسيطر ون

میرا دل اسلام قبول کرنے کے لئے اُڑنے لگا، سنا گیا ہے کہ ابن متفعل نے قرآن کریم کا معارض کرنے کا ارادہ کیا تھا، بلکہ اس کا جواب کھندا شروع کیا تھا کہ ایک سچے کو یہ آیت پڑھتے سنائے:-

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ

فوراً اجاتے ہی اپنا لکھا ہوا مٹا دیا، اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کلام کا معارض ناممکن ہے، اور ہرگز یہ انسانی کلام نہیں ہے،

یحییٰ بن حکم غزالی کی نسبت جوانہ مدرس کے فضیاء میں سے ہے، لکھا ہے کہ انہوں نے بھی اس قسم کا ارادہ کیا تھا، چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ اخلاص اس

لئے عبد اللہ بن المتففع، عربی کا شہر انشاء پرداز، جسکی نشر کو عربی زبان میں سندھ مانا گیا ہے، «کلیلۃ ومنہ» کو عربی دیں اس نے منتقل کیا، نسل اُتش پرست تھا، پھر مسلمان ہوئی تھا، بیت سے لوگوں کو اس کے ایمان پر آخر تک شک رہا، پیدائش سنه ۱۴۷ وفات سنه ۱۵۴ رالادب العربي (تاریخ) و قصہ معارضتہ ذکر ہا الباقلا فی اعجاز القرآن (ص ۵۵۷) باش الشفاف

نظرت سے دیکھی کہ اس طرز پر جواب نکھوں، یا کایک اس کلام کی اس قدر ہمیت طاری ہوئی کہ میرا دل خوف و رفت سے بھر گیا، اور مجھ کو تو بہ اور ندامت پر آمادہ کیا،

اعجاز قرآنی کے باسے میں معتبر نزلہ کی رائے!

معتزلہ میں سے نظام کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کا اعجاز سلب قدرت کی بناء پر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل عرب کو اس قسم کے کلام پر قدرت حاصل تھی، لیکن آپ کی بعثت کے بعد اللہ نے ان کو اس کے معارضہ سے ان اسباب کی بناء پر عاجز کر دیا جو بعثت کے بعد پیدا ہوئے، لہذا ان کی قوت معارضہ کو سلب کر لینا یہ ہی خرق عادت ہونے کی وجہ سے مجرم ہے، بہر کیف وہ بھی قرآن کو اس سلب قدرت کی وجہ سے معجزہ تسلیم کرتے ہیں، اور یہ اغتراب کرتے ہیں کہ آپ کی بعثت کے بعد لوگ معارضہ سے عاجز ہوئے لیکن

لہ «معتزلہ» مسلمانوں کا ایک فرقہ جو دوسری صدی ہجری میں پر دلن چڑھا، یہ فرقہ اہل سنت سے بہت سے ما بعد الطبیعی (METAPHYSICAL) مسائل میں اختلاف رکھتا تھا اور اصل بن عطاء پیدائش سنہ وفات ۱۳۷ھ، نظام (وفات سنہ ۲۲۰ھ)، ابو علی جبائی (وفات سنہ ۲۴۰ھ) وغیرہ اس فرقہ کے مشہور بیٹھ رہیں، فلسفہ یونان کے زوال کے ساتھ سانحہ یہ فرقہ بھی ختم ہو گیا،

لہ ابراہیم بن سیار النظام (م ۲۲۰ھ تقریباً) معتزلہ کے مشہور قائدوں میں سے ہے، اگرچہ اس کے نظریات عام معتزلہ سے بھی کچھ مختلف ہیں، اس پر فلسفہ یونان کا غلبہ تھا، جسکی بناء پر بہت سے مسائل میں اس نے تمام مسلمانوں کے خلاف ان کی آراء کو اختیار کیا، وجود کائنات سے متعلق اس کے نظریات ڈاروں (Darwin) کے نظریہ ارتقاء سے ملتے جلتے ہیں، اجماع اور قیاس کو

جگت نہیں مانتا تھا، اعجاز قرآن کے باسے میں بھی اس کا نظریہ پوری امتیت سلمہ کے خلاف وہ تھا جو مصنفوں نے نقل فرمایا ہے، ارفان کی طرف بھی مائل تھا، جس کی بناء پر بہت سے صحابہؓ کی شان میں اس کی گستاخیاں منقول ہیں (المبلل وال محل للشہرستانی ص ۲۲، تاء، ح ۱)

بُعْثَتْ سے قبل صحی وہ اسی قسم کے کلام پر قدرت رکھتے تھے یا نہیں ۔ اس میں مخالفت کرتے ہیں ،

لیکن نظام کا یہ دعویٰ چند وجوہ سے باطل ہے :

۱) اگر الیسا ہوتا تو وہ قرآن کریم کا معارضہ اس

اس کے دلائل ہے ۔ کلام سے کر سکتے تھے جو زمانہ جاہلیت میں ان کے شعراء

اور فضیاء کے ذخیرہ میں موجود تھا، وہ آسانی کے ساتھ قرآن کا مثل بن سکتا تھا ،

۲) فضیائے عرب عام طور پر قرآنی الفاظ کے حسن ، اس کی بلاغت اور سلاست

پر حیرت زدہ ہوتے تھے ، ان کی حیرانی کی وجہ یہ نہ تھی کہ ہم اس کا مقابلہ کرنے پر قادر کیوں نہ رہے ، حالانکہ پہلے ہمیں اس جیسے کلام پر قدرت لکھی ،

۳) اگر مقابلہ کی طاقت سلب کرنے کے قرآن میں اعجاز پیدا کرنے مقصود ہوتا نہیں تو

مناسب یہ تھا کہ قرآن کریم میں بلاغت و فصاحت کا بالکل سمجھی لحاظ نہ کیا جاتا ،

کیونکہ قرآن اس صورت میں بھی خواہ بلاغت کے کسی درجہ میں بھی نہیں ،

بلکہ اگر رکاکت کے درجہ میں داخل کر دیا جاتا تب بھی اس کا معارضہ دشوار ہوتا

بلکہ ایسی صورت میں زیادہ تعجب انگیز اور خلاف عادت ہوتا ،

۴) قرآن کریم کی آیت ذیل اس نظر یہ کی تردید کرتی ہے :-

فَلَمَّا كُلِّئُنَ أَجْمَعَتِ الْأَنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ

هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ

لِبَعْضٍ ظِهِيرًا ۔

ترجمہ :- "آپ فرمادیجئے کہ اگر تمام انسان اور جانات جمع ہو کر اس قرآن کے مثل لانا

چاہیں تو نہیں لائیں گے، اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ آجائے ۔"

اعجاز قرآن پر ایک شبہ کا جواب | قرآنی سورت کے مفرد الفاظ کے تکلم پر

قادر تھے ۔ بلکہ چھوٹے چھوٹے مرتبات پر بھی قدرت رکھتے تھے تو یقیناً وہ اس

بیسے کلام پر قادر تھے،

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، اس لئے کہ کبھی کبھی مرکب کا حکم اجزاء جیسا نہیں ہوتا، آپ دیکھتے ہیں کہ الفرادی طور پر ایک ایک بال میں یہ ۔ بہت سہیں کہ اس میں ہاتھی یا کشتی کو باندھا جاسکے، لیکن بہت سے بالوں کو ملا کر جب مضبوط رہی بٹی جائے تو اس میں ہاتھی یا کشتی کا باندھا جانا ممکن ہو جاتا ہے، اور اگر اس نظریہ کو درست مان لیا جائے تو یہ ماننا پڑتے ہو کہ ہر عربی شخص امرہ القیس بیسے فصیلے عرب کی مانند قصیدے کہنے پر قادر ہے ۔

قرآن کریم کی تیسرا خصوصیت پیشگوئیاں،

قرآن کریم آنے والے واقعات کی ان پیشگوئیوں پر مشتمل ہے جو بالآخر سو فیصد درست ثابت ہوئیں، مثلاً ۔

۱) لَتَذَكَّرُنَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْنِيَنَ مُحَلِّقِينَ
رَوْسَكُمْ وَمَفَصِّرِينَ لَمَّا لَاقَهُوا مُؤْمِنَةً

ترجمہ: «اگر اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہو گے، اس طرح کہ تم میں سے بعض نے اپنے سرمنڈڑا مجھے ہوئے ہوئے ہوں گے، بعض نے بال چھوٹے کرائے ہوئے ہوں گے، اور تمھیں کوئی خوف نہ ہو گا!»

چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے موقع پر ٹھیک اسی طرح حرم میں داخل ہوئے،

۲) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلَاةَ —
لَيَسْتَخْلِفَهُمْ فِي الْأَرْضِ حَكَمًا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ دِيَنٌ هُمُ الَّذِينَ أُرْضَى لَهُمْ وَ
لَيُبَدِّلُ لَنَهْمَمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ امْنًا وَيَعْبُدُ دُنْيَا
لَا يُشْرِكُونَ بِنِي شَيْئًا

ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی، اور ان کے اس دین کو مضبوطی عطا کرے گا جسے اُن نے ان کے لئے پسند کیا ہے، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہرا ریں۔“

اس میں حق تعالیٰ شانستہ مو میں سے وعدہ فرمایا ہے کہ اُن میں خلیفہ بنائے جائیں گے، اور ان کے پسندیدہ دین کو مضبوطی اور طاقت دی جائے گی، اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کیا جائے گا، اس وعدہ کو تھوڑے وصہ ہی میں پیدا فرمادیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ہی میں تک پرسماںوں کا تسلط ہو گیا، اسی طرح خبر اور بھرمن اور ملک یمن اور اکثر عربی ممالک مسلمانوں کے زیر نگین آگئے، ملک جہش صحی پا دشاہ بجا شی کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے دارالاًسودم بن گیا، ہجر کے کچھ لوگوں نے اور علاقہ شام کے کچھ عیاشیوں نے احت قبول کر کے جزیرہ دینا منظور کیا، یہ تسلط عہدِ صدیقی رہ میں اور بڑھ گیا، کیونکہ مسلمان فارس کے بعض شہروں اور بھرپوری و د مشتق اور بعض دوسرے شام کے شہروں پر قابض ہو گئے،

پھر یہ غلبہ سیر فاروقی میں اور زیادہ بڑھ گیا، یہاں تک کہ تمام ملک شام اور پورے مصر اور اکثر فارس کے علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، پھر یہ تسلط عہدِ عثمانی میں اور زیادہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ مغربی جانب میں اندلس اور قیروان کی حشودیں تک اور مشرق میں چین کی حشودیں تک اسلامی سلطنت پھیل گئی، عرض کل نبیلہ مدت میں مسلمان پورے طور پر ان تمام ممالک پر قابض ہو گئے،

اسی طرح اللہ کا دین میں ان سب ملکوں میں تمام مذاہب پر غالب آگیا، اور مسلمان بے خوف و خطر پرے معبود کی عبادت آزادی کے ساتھ کرنے لگے،

امیر المؤمنین حضرت علی گرم اللہ وجہ سے کے دورِ خلافت میں اگرچہ مسلمانوں کے قبضہ میں کوئی جدید ملک نہیں آیا، لیکن آپ کے عہد مبارک میں بھی ملت اسلامیہ کی ترقی بلاشبہ ہوئی،

تیسرا فرآنی پیشینگوئی آیت شریفہ میں فرمایا گیا ہے :-
 سَتَّدَ حَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أَوْلَى بَأْنِ شَدِيدٍ
 مُبِيلِهِ كَا وَاقِعٍ
 «عنقریب تھیں ایک ایسی قوم کی طرف بلا یا جائیں گا جو

سخت قوت دالی ہے۔

اس میں جو خردی گئی ہے وہ بعینہ اسی طرح واقع ہوئی، اس لئے کہ سخت قوت والی قوم کا مصدق راجح قول کے مطابق بنو حنیفہ مسلمانہ الکتابت کا قبیلہ ہے، اور بلانے والے صدیق اکبر رضا ہیں،

قرآن کی چوتھی پیشینگوئی
 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
 دِينِ كَانُوا يَعْبُدُونَ
 وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الْجِنِّينَ حَكْلَهُ،

ترجمہ :- «خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر ہمیبا تاکہ اسی دین حق کو تمام دنیوں پر غالب کر دے۔»

تیسرا پیشینگوئی کی طرح اس کا بھی مشاہدہ ہو چکا ہے، یہ دوسرا بات ہے کہ اسکی پوری تکمیل و عده الہی کے مطابق خدا نے چاہا تو عنقریب ہونے دالی ہے،

پانچھویں پیشینگوئی
 لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَا يَعْوَنُكُ
 فَتَحَتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ
 السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَآثَابَهُمْ فَتَحَّافِرُ دِيَّا

لہ مسلمانہ کتاب، عرب کا جھوٹا بنی جس نے آنحضرت علی اسرار علی وسلم کے زمانہ ہی میں بتوت کا دعویٰ کر دیا، بنو حنیفہ کا پورا قبیلہ اس کے ساتھ ہو گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں اسکی سرکوبی

کی گئی تھی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف اوری کے بعد، ۱۲ ترقی

وَمَعَانِهِ كَثِيرٌ يَا خُذْ وَنَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
وَعَدَ كُلُّا اللَّهُ مَعَانِهِ كَثِيرٌ تَلْخُذْ وَنَهَا فَعَجَلَ لَكُلُّ هُذِهِ
وَكُفَتْ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلَكُونَ أَيْةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيْكُمْ
صَرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى كُلُّ تَقْدِيرٍ وَأَعْلَيْهَا فَدْ أَحَاطَ اللَّهُ
بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا،

ترجمہ: " بلاشبہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا، اس وقت جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو ارش نے ان کے دلوں کی بات حاصلی، پھر ان پر کون نازل فرمایا، اور بدلتے ہیں انہیں ایک عنقریب ہونے والی فتح عطا کی، اور بہت سال غنیمت جسے وہ یعنی والے تھے، اور اشر زبر دست اور حکمت والا ہے، اللہ نے بہت سارے مالیا شے غنیمت کا وصہ کیا ہے، جنہیں تم لوگے، پھر یہ مال غنیمت پہلے ہی تھیں دیدیا، اور لوگوں کے ہاتھوں کوتم سے روک دیا اور تاکہ یہ مسلمانوں کے لئے ایک نشانی بن جائے اور ارش تھیں سیدھا راستہ دکھائے گے"

"فتح قریب" سے مراد خیر کی فتح ہے، اور "بہت سے مل غنیمت" سے پہلے مقام پر خیر یا، بھر کی غنیمتیں ہیں، اور دوسری جگہ اس سے مراد وہ غنیمتیں ہیں جو یوم وعدہ سے قیامت تک مسلمانوں کو ملنے والی ہیں، اور "آخری" کا متعلق ہوازن یا فارس یا روم کی غنیمتیں ہیں، اور واقعہ اسی طرح ہوا جس طرح کہ خیر دی گئی تھی،

قرآن کی بھی پیشگوئی آیت و آخری تُجْبُونَهَا نَفْرَحُ مِنَ اللَّهِ
اوْفَ بِمَا فِيْ قَرْبَيْكَ ط اس میں آخری سے دوسری خصلت مراد ہے، اور نظر میں اللہ تفسیر ہے اس آخری کی اور فتح قریب سے مراد فتح مکہ ہے، اور حسن کے قول کے موافق فارس و روم کی فتح ہے، غرض کوئی مراد ہو، مگر بھی فتح ہوا، اور فارس و روم بھی،

سَلَّوْيْنِ پِيشِينِگوئی | إِذْ أَجَاءَكُمْ نَصْرٌ مِّنْ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ
يَكْدُخْلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ط

”جب اللہ کی مدد اور فتح آجائے گی، اور آپ، لوگوں کو دیکھ لیں کہ
اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں الخ۔“

یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، کیونکہ صحیح قول کے مطابق یہ سورت فتح
مکہ سے قبل نازل ہوئی ہے، اس لئے کہ اِذَا اَسْتَقْبَالُ كُو مُبْتَدِئِي ہے، گزے
ہوئے واقعہ کے لئے اِذَا جَاءَ مُسْتَعْلِمٌ نَّهِيْنَ ہوتا، اور اِذَا وَقَعَ كَبَا جَاتَ
ہے، سو مکہ فتح ہو گیا، اور لوگ جو ق در جو ق گروہ در گروہ اہل مکہ اور طائف کے
رہنمے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں داخل اسلام ہوئے
امْكُھُوْيِں پِيشِينِگوئی | آیت قُلْ لِلَّهِ ذِيْنَ كَفَرُوا سْتَغْلِبُوْنَ

”آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔“

ٹھیک اسی طرح واقع ہوا جس طرح بزرگی گئی، اور کفار مغلوب ہو گئے،

نوْيِں پِيشِينِگوئی | آیت وَإِذَا يَفِدُكُمْ اللَّهُ أَحَدٌ الظَّارِفَتِيْنِ
أَنْهَاكُمْ حُوتَدُونَ أَنْ عَيْرَدَاتِ الشَّوَّكَةِ
شَكُونَ لَكُمْ وَيُرِيدُهُ اللَّهُ أَنْ يَعِزِّزَ الْحَقَّ بِحَكْلَمَاتِهِ وَيَقْطَعَ
دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ ط

”اور راس وقت کو یاد کرو، جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گردہوں
میں سے ایک بتھا ہو گا اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ قافلہ ملے جو بے کھلک
ہو، ادا اللہ چاہتا ہے کہ اپنے کلمات حق کو ثابت کر دے، اور کافروں کی جڑ
کاٹ دے۔“

یہاں دو جماعتوں سے مراد ایک تو وہ تجارتی قافلہ ہے جو شام سے واپس
اُر ہاتھا دوسرا وہ جو مکرمہ سے آرہا تھا، اور ”بُلے کھٹکے“ سے مراد وہ قافلہ ہے
جو شام سے آیا تھا چنانچہ یہ واقعہ بھی بعینہ اسی طرح پیش آیا۔

دو سویں پیشینگوئی | آیت اثنا کھینچ وَالْمُسْتَهْزِئُونَ،
» مذاق اڑائے والوں کے مقابلہ کے لئے آپکی طرف سے ہم

نے کفایت کر لی ہے۔“

جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی بشارت دی کہ اللہ ان کے شروانیدا سے کفایت کرے گا، یہ تفسیر کرنے والی جماعت اہل کتب کی تھی، جو لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کی کوشش کرتی اور آپ کو اذیت پہنچاتی، یہ لوگ قسم قسم کی بلاؤں اور مخلیقوں کے ساتھ مارے گئے،

گیارہویں پیشینگوئی | آیت دَالَّهُ يَعِصْمُكَ مِنَ النَّاسِ،
» اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا،“

پیشینگوئی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت منیاب اللہ ہوتی ہے، حالانکہ آپ کے دشمن اور بُرا چاہنے والے بے شمار تھے، لیکن حفاظت الہی کے سبب ہمیشہ اپنے ارادوں میں ناکام و نامراد رہے،

بارہویں پیشینگوئی | آیت شریفہ - اللہ، عَلِيَّتِ الرُّوْمَ فِي
آذْفَنَ الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلِيَّبَهُمْ
سَيِّغُلِبُونَ فِي بَضَّعِ سِينِينَ إِنَّ اللَّهَ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِنَا وَمِنْ
بَعْدِنَا وَإِلَيْنَا يُرْجَحُ الْأَمْرُ مِنْ مَنْ يَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُ
مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَرَى وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلُفُ
اللَّهُ دَعَدَهُ وَالْحِكْمَةُ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ
ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ
غَافِلُونَ ط (الست و م)

ترجمہ: ڈالف، لام، میم، ردم فلے، قرب تین زمین ریعنی ارض عرب،
یہ مغلوب ہو گئے، اور وہ اسر مغلوب ہونے کے بعد عنقریب (اہل

فارس پر غائب آجائیں گے چند ریعنی تین سے یک دس، ہی سالوں میں اشد کے ہاتھ میں ہے کام پہلے اور پھر، اکتوبر دن مسلمان اشٹکی مرد کی وجہ سے خوش ہونگے، اشٹکی چاہتا ہے مذکرتا ہے، اور وہ زبردست اور مہربان ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اشٹکی پسند کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، دینوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں۔“

اہل فارس آتش پرست تھے، اور رومی لوگ عیائی تھے، جس وقت اہل فارس کی کامیابی کی خبر مکمل پہنچی، مشرکین بہت خوش ہوئے، اور یہ کہا کہ تم لوگ اور عیائی اہل کتاب ہیں، اور ہم لوگ اور آتش پرست اتمی اور ناخوازدہ ہیں اور دنوں کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، اس موقع پر ہمارے بھائی تھارے بھائیوں پر غالب آئے اسی طرح ہم تم پر غالب آئیں گے، یہ چیز ہمارے لئے فال نیک ہے،

اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور صدیق ابیر رضی اشاعتہ نے فرمایا اللہ تھاری آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے، خدا کی قسم چند سال کے اندر رومی اہل فارس پر غالب آجائیں گے، ابی ابن خلف کہنے لگا کہ توجہو ٹاہے، لہذا ہمارے اور اپنے درمیان ایک مدت مقرر کر لے، پہاں تک کہ دنوں جاہب سے دس اونٹوں کی شرط کی گئی، اور تین سال کی مدت باہمی مقرر ہو گئی، ابو بکر رضی اشاعتہ نے اس کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، بعض "کا اطلاق تین سے لے کر نو تک آتا ہے، تم اونٹوں کی تعداد میں اضافہ کر کے مدت بڑھاو، چنانچہ سو اونٹوں کی شرط لگائی گئی اور نو سال کی مدت باہمی مقرر ہو گئی،

احمد سے واپس آتے ہوئے ابی کا اتفاق ہوگا، اور رومی لوگ شکست کے ٹھیک سات برس بعد اہل فارس پر غالب آگئے، اس لئے ابو بکر صدیق

رضی اللہ عنہ نے شرط جیتنے کی وجہ سے ابی کے دارالٹوں سے شرط مقررہ کے مطابق تناؤ اور وصول کئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان ادنٹوں کے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے،

مصنف "میزان الحق" کا اعتراض

"میزان الحق" کا مصنف تیرے باب کی چوتھی فصل میں کہتا ہے کہ اگر یہ مفسرین کے دعوے کو سمجھا مان لیں کہ آیت رومیوں کے اہل فارس پر غالب آئے سے پہلے نازل ہوئی تھی تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات حکیم اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے قیاس اور لگان سے کہی ہوگی، تاکہ اپنے ساتھیوں کے لئے تسلیم تکب کا سامان مہیا کریں، اس قسم کی باتیں ہر زمانے میں عقولاء اور صائب الرائے لوگوں کی جانب سے کہی گئی ہیں، معلوم ہوا کہ وحی کی بناء پر الیسا نہیں کہا گیا۔

اس کا جواب | یہ بات کہ یہ صرف مفسرین کا دھوای سے اس لئے بے بنیاد ہے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد "سَيُغْلِبُونَ فِي بَضَّعِ مِسْنَيْنَ" میں اس بات کی تصریح ہے کہ یہ واقعہ مستقبل قریب میں یعنی دشمن سال کے اندر اندر واقع ہونے والا ہے، جیسا کہ لفظ "مِسْنَيْنَ" اور "بضاع" کا تفاہما ہے، اسی طرح دَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفَ اللَّهُ دَعْدَةً کے الفاظ بھی یہیونکے یہ دونوں جملے اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آئندہ زمانے میں مسترت اور خوشی حاصل ہونے والی ہے، پھر اس واقعہ کے پیش آنے کے بعد بھی یوں کہنا کہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا، یا اس میں وعدہ خلافی ہوئی لے ملے معنی بات ہے،

لئے یہ واقعہ حدیث و تفسیر کی کتابوں میں تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ مردی ہے (دیکھئے جمع لغو)

رہی یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات محض اپنے قیاس یا فراست کی بناء پر کہدی تھی، سو یہ دو حصے میں غلط ہے :-

① یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادیوں کے نزدیک بھی عقلاً میں شمار ہوتے ہیں، اس کا اقرار پادری صاحب کو بھی ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں بھی اور دوسری تصانیف میں بھی اس کا اقرار ہے، اب جو شخص بحوثت کا مدعا اور عقلمند ہو، اسکی شان سے یہ بات بالکل بعید ہے کہ وہ یقین کے ساتھ یہ دعوا کرے کہ فلاں بات اسقدر قلیل عرصہ میں اس طرح پر پیش آئے گی، یہاں تک کہ اپنے معتقدین کو اجازت دے کہ اس معاملہ میں تم شرط لگا سکتے ہو، بالخصوص ایسے دشمنوں اور معاذوں کے ساتھ جو اس کو رسوا کرنے کے درپے رہتے ہیں، اور اس کی ادنی لغزش کی تاک میں رہتے ہیں، بالخصوص ایسے معاملے میں جو اگر واقع ہو بھی جائے تو اس کو کوئی خاص قابل لحاظ فائدہ بھی پہنچتا ہو اور اس کا واقع نہ ہونا اس کے لئے ذلت درسوائی کا اور اس کے جھوٹاٹا بت ہونے کا باعث ہو سکے، اور اس طرح منافقین کو اس کی تکذیب کے لئے مزید جحبت اور بہانہ مل جانے کا خطرہ ہو،

② دوسری وجہ یہ ہے کہ عقلاً اگرچہ بعض واقعات و معاملات کی نسبت اپنی عقل و قیاس سے کوئی بات کہہ دیا کرتے ہیں، اور بعض واقعات ان کا خیال و گمان درست نکلتا ہے، اور کبھی غلط بھی جاتا ہے، لیکن عادت ارشاد اس طرح جاری ہے کہ اگر ایسا ہے وala بحوثت کا جھوٹا دعوا سی بھی کرتا ہو، اور کسی آنے والے حادثہ کی خبر بھی دے اور غلط بیانی کرتے ہوئے اس کو خدا کی طرف منسوب کرے، تو ایسی خبر کبھی صحیح نہیں ہوا کرتی، بلکہ یقیناً جھوٹی ہوتی ہے چنانچہ اس بحث کے آخر میں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہو سکے گا،

تیرہ ہو یہ پیشینگوئی آیت شریفہ:- آمُّ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّتَّصِّلُونَ سَيَّهَنَّمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ السَّدَابَرَ،

”کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، عنقریب یہ سب مسئلہ کی کھائیں گے، اور پیچھے پھر کر بھائیں گے؟“

حضرت فاروق اعظم رضی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نہ سمجھ سکا کہ اس سے کیا مراد ہے، یہاں تک کہ بدر کی لڑائی پیش آئی، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زرہ پہنچنے ہوئے ہی آیت پڑھنے شدنا، تب میں سمجھا کہ بدر کی فتح کی پیشینگوئی کی گئی تھی۔

پس پیشینگوئی آیت کریمہ:- قَاتِلُوهُمْ يَعْدِيْهُمْ
اللَّهُ بِأَيْدِيهِنَّكُمْ دَيْعُونَ هُمْ دَيْنَصَرَكُمْ
عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُودَ قَوْجِ مُؤْمِنِينَ،

”ان سے جبار کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، اور رسول کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور سلان قوم کے سینوں کو تسلی بخٹے گا۔“

اور یہ واقعات دی ہوئی خبر کے مطابق بالکل صحیح واقع ہوئے،
پس پیشینگوئی آیت کریمہ:- لَنْ يَضْرُوكُمْ إِلَّا أَذْيَ طَ
دَرِ ہویں پیشینگوئی دَإِنْ يَقَاتِلُوكُمْ يُوْلُوكُمُ الْأَدْبَارَ شَرَّ
لَا يَنْصُرُونَ۔

وگذشتہ صفحہ کامائیہ صفحہ پڑا پر، لہ علامہ ابن کثیرؓ نے البرایہ والہبیہ میں نقل کیا ہے کہ مسلم کتاب نے یہ متن کا ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں میں اپنا عاب مبارک ڈالا تھا تو اس کا پانی خوب جاری ہو گیا تھا، اس نے ایک بہتے ہوئے کنویں میں اس غرض سے تھوکا کی میں بھی یہ بات لوگوں سے کہہ سکوں گا، لیکن وہ کمزور خشک ہو گیا، ہمارے راستے میں مرتضیٰ علام احمد فادیانی کی مثال سامنے ہے کہ کراس نے جتنی پیشینگوئیاں کی تھیں خدا کے فضل سے سب ہی جھوٹی ثابت ہو گئیں ۱۷

لہ سمجھتے کیے، آیت کی زندگی میں اُس وقت نازل ہو رہی ہے جب مسلمان ہر طرف سے کفار کے شکنخوں میں کے ہوئے تھے، اور اُن کی اجازت نہ سمجھی، اور پورے عزم دادعاء کے ساتھ کہایہ جارہے کریں

”یہ لوگ (یعنی یہودی) کچھ تکلیف پہنچانے کے سواتم کو اور کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑائے تو تھیں پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے“

اس میں تین غیری چیزوں کی خبر دی گئی، اول تو یہ کہ مسلمان یہود کے ضرر سے محفوظ و مامور رہیں گے، دوسرا یہ کہ اگر یہودی مسلمانوں سے لڑائیں گے تو قوت شکست کھائیں گے، تیسرا یہ کہ شکست کھانے کے بعد پھر کبھی ان کو قوت نصیب نہیں ہو گی، پھر اسی طرح یہ نوں باتیں واقع ہوئیں،

سو لہوں پیشینگوئی آیت کریمہ: ضریبٗ عَلَيْهِمُ الدِّلَةُ أَيْنَا شَقَقُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنْ
النَّاسِ دَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِّنَةُ،
ترجمہ: (ان یہودیوں) پر ذلت کا تھپہ لگادیا گیا ہے، جہاں بھی یہ پائے جائیں گے
مگر ایسے سبب سے جو اشہد کی طرف سے ہے، اور ایک ایسے سبب سے
جو لوگوں کی طرف سے ہے، اور اشہد کے غضب کو لے کر نوٹے ہیں، اور
ان پر مسکنت مستط کر دی گئی ہے۔

چنانچہ خبر کے مطابق یہی واقع ہوا، کہ آج تک یہود کو کسی مک کی سلطنت نصیب نہیں ہوئی، اور جس مک میں بھی یہود موجود ہیں دوسری قوموں دگذشتہ سے پیوستہ، سب منہ کی کھائیں گے، غور فرمائیے! کیا کوئی انسان ایسے وثوق کے ساتھ ایسی حالت میں بیبات کہہ سکتا ہے؟

۱۵ تکلیف سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عبیی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے، یا مکر و مسلمانوں کو ڈرانا دھکانا ۱۲ از منع رحمۃ اللہ علیہ

۱۶ اشہد کی طرف سے جو سبب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یوں تو ہر یہودی والئی قتل ہے، اگر ان میں سے کمزوروں اور ان کے عایدوں کو قتل کے حکم سے اشہد نے مستثنی کر دیا ہے، اور لوگوں کی طرف کے سبب سے مراد صلح و جزا وغیرہ ہے، تفصیل کیلئے دیکھئے دیکھئے بیان القرآن جلد اول،

کی رعایا بنتے ہوئے اور ذلت کی زندگی گذارہ ہے ہیں لئے
سَتْرٌ هُوَ مِنْ پَيْشَنِگَوْلَىٰ ۱۸ آیت شریفہ :- **سَنْلُقَىٰ فِي دُّلُوبِ الظَّالِمِينَ**
كَفَرُوا إِلَّا شَرِّ عَبَّ،
أَحَدٌ كَهْ دَلِ مُسْلِمَانُوں کَهْ رَعَبْ ۱۹ ہم کافروں کے دلوں میں رعاب ڈال دیں گے۔

یہ پیش نگوئی یوم احمد میں دو طرح سے صادق آئی، اول تو یہ کہ جب لڑائی کا قصد پلٹ گیا اور کفار مسلمانوں پر غالب آگئے، مسلمانوں کو شکست ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فاتح ہو جانے کے باوجود کافروں کے دلوں میں اتنا رعب اور خوف پیدا کر دیا کہ بلا دھمکہ مسلمانوں کو حضور کر خود فرار ہو گئے۔

دوسرے کہ کہ واپس ہوتے ہوئے راستتہ میں ٹھہرے تو اپنی اس حرکت، اور بلا وجہ بھاگ، آنے پر نادم ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ تم نے سخت غلطی کی کہ ایسی حالت میں لوٹ آئے جب کہ تم مسلمانوں کی قوت توڑ پکے تھے، اور ان میں بھاگنے والوں کے علاوہ اور کوئی نہ رہا تھا، اب بھی مناسب ہے کہ واپس

لئے آجکل سہ دیوں نے جو اسرائیل پر قبضہ جایا ہے اس سے غیر مسلموں کو اعتراض کا ایک بہادر ہاتھ آگیا ہے، لیکن اس بات پر خور نہیں کیا جاتا کہ یہ حکومت درحقیقت کس کی ہے؟ وہ کون ہے جس نے آٹھ تاریخ کرایا اور وہ اسے سلسہ ہمارا دے رہا ہے؟ اگر کوئی شخص راقنات سے باسکر، ہی آنکھ بند کر کے نہیں، پیچھا تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ حکومت سہودیوں کی نہیں، امریکا اور ہنگاری کی ہے، انھوں نے ہی اپنے مقاصد کے لئے اسے قائم کرایا ہے، وہی نہ پڑا رہتے ہیں، اور اسرائیل کے جغرافیائی محل و قوع کو دیکھئے تو فوراً اپنے پیل جائے گا کہ اگر لسی روڈ اسی کے اور بر ملائیں اسی پر سے ہاتھ اٹھایا تھا سی دن اس حکومت کا نام و نشان ٹھبائے گا، ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کھلونے میں چالی بھر کر اسے چومنے تو یہ نہیں کہا جائے سکتا کہ کھلونے میں جان پڑ گئی ہے، اور یہ دوڑ نے بھاگنے کے قابل ہو گیا ہے، اسرائیل نے مثلی باسکر، اسی چالی بھر سے کھلوٹے ہیں ماندے ہے، اس سے یہودیوں کی حکومت کہتا یا سمجھنا تھا کہ امن چڑا نہیں، چنانچہ موجودہ حکومت کے باوجود دنیا بھر کی نگاہ میں یہودیوں کی ذلت، یہ کوئی

لوٹ کر مسلمانوں کو جڑ بسیار سے ختم کر دیں، تاکہ آئندہ ان کو پہنچنے کا موقع نہ مل سکے۔ مگر اللہ نے ان کو کچھ ایسا مرعوب کر دیا تھا کہ ہمت ہی نہ ہوتی، اور کہ واپس چلے گئے،

**اسٹھار ہویں پیشینگولیٰ آیت کریمہ:- اَنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَا فِظْوَنَ ط**

قرآن کی حفاظت

”ہم نے ہی قرآن اُنراہے اور ہم ہی اسکی حفاظت کرنیوں ہیں“ مطابقت تھا کہ ہم قرآن کریم کی ایسی حفاظت کریں گے کہ اس میں تحریکیں یا کمی بیشی نہ ہو سکے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے اور دشمنان اسلام ملعونین معطلہ اور قرامطہ کو ہرگز اس کی مجال نہ ہو سکی کہ قرآن کریم میں ذرہ برابر تحریف کر سکیں، تو نہ معطلہ وہ فرقہ جو خدا کی ذات کو تمام صفات سے خالی مانتا تھا یہ بھی دراصل قرامطہ کی ایک شاخ تھی جس کا تعارف اگلے حاشیہ میں ہے ۱۴ ت

تلہ قرامطہ، محمد بن کا ایک گردہ ہے جسے باطنیہ بھی کہتے ہیں، تیسرا صدی کے نصف سے پہلے تک یہ عالم اسلام کے لئے ایک زبردست مصیبت ہے، ان کا سرگردہ ہیون پاچوں صدی تک یہ عالم اسلام کے لئے ایک زبردست مصیبت ہے، ان کا سرگردہ ہیون تھا، جس نے قرمطاً کو اپنے ساتھ ملا کر اس فرقے کی بنیاد ڈالی، اسی بناء پر اُسے قرامطہ کہتے ہیں یہ لوگ بجیب قسم کے نظریات رکھتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ دنیا کی برثے کے پیچھے دراصل ایک اور معنوی چیز کام کرتی ہے، کہتے تھے کہ خدا دو ہیں، ایک عقل اور ایک نفس، رہا باری تعالیٰ سو دہ نہ معلوم نہ موجود، نہ معلوم ہے نہ مجھوں، قیامت، محیات، وحی، نزول ملائکہ، ہر چیز کا انکار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ درحقیقت قرآن کی آیتوں کے وہ معنی نہیں جو ظاہر میں معلوم ہوتے ہیں۔ بلکہ ان کے پوشیدہ معنی ہیں، یہ ناقرآن یہی چیز فرائض ہیں اُن سے مراد فرقہ باطنیہ کے امراء کی اطاعت ہے، اور بختہ مجرمات ہیں اُن سے مراد حضرت ابو بکر رضی و عنہ رضی اور باطنیہ کے عزادہ کسی شخص سے دوستی رکھنے کی حرمت ہے، حسن بن صباح بھی اسی فرقہ کا مشہور ریدہ رہے جس نے مشہور مصنوعی جنت قائم کی تھی، ان لوگوں نے مسلمانوں پر قتل و غارت گری کا ایک طوہان مچایا تھا جس کی مقاومت میں بہت سے مسلم بادشاہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں رب قیمہ بر صفحہ آئندہ)

اس کے کسی حروف کو بدل سکے، اور نہ آج تک اُس کے کسی اعراب کو متغیر کر سکے، حالانکہ بارہ سو اسی سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، بخلاف توریت و انحصار وغیرہ اور دوسری کتابوں کے کوہ کبھی کی محرف ہو چکی ہیں، اللہ کی یہ طریقہ قابلِ شکر نعمت ہے،

بیسیوں پیشینگوئی | قرآن کریم ہی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا:-

لَا يَأْتِيَنَّهُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝

ترجمہ:- باطل نہ اس کے آگے سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی طرف سے اُماری ہوئی کتاب ہے۔

یہ پیشینگوئی بھی گذشتہ پیشینگوئیوں کی طرح پوری اُتری، باطل، ”سے مراد تحریف و تبدیل ہی ہے“

بیسیوں پیشینگوئی | آیت کریمہ:- إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِ
الْقُرْآنَ لَرَاءُكَ إِلَى مَعَادٍ،

ترجمہ:- ” بلاشبہ جس ذات نے قرآن رکے احکام، آپ پر فرض کئے ہیں، وہ آپ کو دوبارہ دوائے گا“

منقول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل کر شہنشین کے تعاقب سے محفوظ رہنے کے لئے ایک غیر معروف راستہ پر تشریف لے گئے، اور پھر خطرہ سے محفوظ ہو جانے کے بعد عام راستے پر سفر کرتے ہوئے جھٹکہ نامی مقام پر جو مکہ اور مدینہ کی دریافی منزل ہے قیام فرمایا، اور مکہ جانے والی مڑک نظر آئی تو طبعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن کی یاد آئی، اور اپنے اور والد بزرگوار کے مقام وطن (گذشتہ سے پیوستہ) (ان کے تفصیلی حالات کے لئے ملاحظہ ہو الملل والخل للشہرستانی، ص ۳۳۳)

لے، اور کامل ابن اثیر، ص ۱۱۷، آج ۱۰) یہاں مصنف رہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ قرآن میں معنوی تحریفیں توکرتے رہے، مگر لفظی تحریف کی مجال نہ ہو سکی، اور ان کی معنوی تحریفیں بھی ایک مختصر زمانہ کے بعد فنا ہو گئیں ۱۲ تھیں لہ یعنی ہجرت کے وقت غارتور سے نکل کر ۱۲ ت

لہ جھٹکہ، آج نکل جدہ سے جو پہنچی مڑک مدینہ جاتی ہے اس پر بہت سی مکانے پر پہنچتے ہیں اپہلا شہر ہی ہے آج یہاں باغ

کی یاد نے پر بیشان کیا تو فرما حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، اور عرض کیا کہ کیا آپ کو وطن اور شہر کا اشتیاق ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا بُشَّرٌ جَبْرِيلٌ نے عرض کیا کہ آپ بالکل اطمینان رکھیں، حق تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم آپ کو آپ کے وطن عزیز مگر میں فاتحہ داخل کر لیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا،

اکیسویں سورہ شعبان کوئی قُلْ إِنَّكَ أَنْتَ لَكَمْ الْدَّارُ الْأُخْرَىٰ عِنْدَ
اللَّهِ خَالِصَةٌ مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُوا الْمَوْتَ
يَهُودِيُّوْنَ كَمِنَامَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، وَكُنْ تَسْمَوْهُ أَبَدًا إِنَّمَا

قَدَّمَتْ أَيْدِيْهُمْ، وَإِنَّهُ عَلَيْهِمْ بِالظُّلْمِ لِمَيْنَ ط

ترجمہ: "آپ فرمادیجئے کہ (اے یہودیوں) اگر اللہ کے پاس صرف تمہارے لئے خالص طور پر دار آخرت ہے دوسرے لوگوں کے لئے نہیں تو تم موت کی تمنا کرو، اگر تم پسچے ہو، اور یہ لوگ اپنے کرتلوں کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں کو غوب جانتا ہے"

آیت شریفہ میں تمنا سے مراد زبان سے موت کی آزر و کرنا ہے، خوب کیجئے کہ ایک جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی داشتمانی، دوراندشی، انعام بینی اور حسزم و احتیاط جیسی صفات کی حامل ہے، جس کا اقرار ہر موافق و مخالف کو یکساں ہے، اس کے ساتھ ہی حضور ﷺ کا دنیا و آخرت میں جو بلند مقام ہے، اور دارین کی جو عنظیم سرداری حضور ﷺ کو حاصل ہے، اس کے پیش نظر عقل اس بات کو مانتے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعہ کامل اطمینان اور لقین و دلوتی حاصل کئے بغیر اپنے شدید ترین دشمنوں کو والی بات کا علی الاعلان چیلنج دیں کہ جس کا انعام آپ کو معلوم نہ ہو، اور آپ کو ہرگز یہ خوف لاحق نہ ہو کہ غلط ہونے کی صورت میں مخالفین اور دشمنان دین اس دلیل میں مذکورہ بالا آیت اسی وقت نازل ہوئی تھی، اور اس میں "معاد" سنتے مراد مکہ مکرمہ ہے، کمار داہ البخاری رجمیع الفوائد ص ۱۰۶ ج ۲

سے آپ کو مخلوب اور عاجز کر دیں گے، سمجھدار انسان گودہ نا بخرب کارہی کیوں نہ ہو، اس قسم کی دلیری نہیں کر سکتا، چہ جائیکہ وہ ذاتِ گرامی بوعقلاء دنیا کی سرتاج ہے، ظاہر ہے اس سے ایسی بد احتیا می کی ہرگز توقع نہیں کی جاسکتی ।

معلوم ہوا کہ آپ کو ایسے غلطیم الشان چیز پر اُس پیش اور وثوق نے آمادہ کیا جو آپ کو دھی کے ذریعہ حاصل ہوا تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ آپ کے شدید ترین دشمن اور آپ کی تکذیب کے سب سے زیادہ حریص تھے، رات دن ان تدبیر میں غلطان و پیچاں رہتے تھے جن سے اسلامی سخنیک مٹ جائے یا سماں ذلیل ہوں، اور اس چیز پر میں جس چیز کا ان سے مطالبہ کیا گیا وہ بہت ہی آسان بات تھی، اس میں کوئی بھی دقت یا دشواری نہیں تھی،

اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک اپنے دعوے میں سچے نہ ہوئے تو آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے وہ اتنی معمولی سی بات زبان سے ضرور کہہ سکتے تھے، بلکہ بار بار علی الاعلان زبان سے موت کی تہمت کرنے میں ان کا کیا خپڑا ہوتا سخاونہ ایسا کر کے ساری دنیا میں مشہور کر سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، اور یہ بات کہہ کر انہوں نے اللہ پر تہمت رکھی ہے اپنی طرف سے انہوں نے چوڑ کر خدا کی جانب اس قول کو منسوب کر دیا ہے،

مزید یہ کہ اس اعلان کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوں فرماتے کہ خدا کی قسم اگر کوئی یہودی اس قسم کی تمنا زبان سے کرے گافور" امر جائے گا، اور کبھی ارشاد فرماتے کہ اگر یہود موت کی تمنا کرتے تو فوراً موت واقع ہو جاتی حالانکہ ہم لوگ ہزاروں مرتبہ موت کی تمنا کرتے ہیں، اور کبھی نہیں مرتے، یہود کی جانب سے تمنا شے موت سے اعراض کرنے اور بھاگنے سے باوجود یہ آپ کی تکذیب کے سب سے زیادہ حریص تھے ثابت ہو گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے،

آیت شریفہ میں دو یعنی امور کی خبر گیری گئی ہے، اول یہ کہ "وہ ہرگز تمنا

نکریں گے یہ الفاظ اس امر پر دلالت کر رہے ہیں کہ آئندہ زمانے میں یہودی زبان سے موت کی نسبت ہرگز نہ کر سکے گا، معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ تمام یہودیوں کے لئے عام ہے دوسرے کریم کہ یہ حکم جس طرح ہر یہودی کے لئے عام ہے اسی طرح ہر زمانے کے لئے عام ہے،

بِإِيمَانِ يَسِيرٍ لَّوْلَى إِرشادٍ يَوْمَٰهُ

**فَرَأَنَّكَانَ كَانَ كَيْثَمْ فِي مَرِيْبٍ مِّمَّا نَزَّلَنَا عَلَى عَبْدِنَا
مِنْ دُّنْ فِي أَنْ كَيْثَمْ صَدِّيقِينَ وَفَانَ تَحْقِمْ فَعَلُوا وَلَكُنْ تَفْعَلُوا
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجَاهَارَةُ أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ط**
(بقرہ)

ترجمہ: «اور اگر تمھیں اس کلام کے بارے میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اُس جیسی ایک سورت بنالا وہ، اور اس غرض کے لیے اللہ کے سوا اپنے تمام حائیتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے، اور یقین ہے کہ ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر اس اگ سے ڈرد جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں، وہ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے»

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کفار کبھی بھی قرآن کی سی ایک سورت نہ بناسکیں گے پتنا بخرا ایسا ہی ہوا میرہ آیت چار لمحات تھے آن کے اعمال پر دلالت کر رہی ہے:

۱) اول یہ کہ یہ بات ہم کو یقینی اور قطعی طور پر معلوم ہے کہ اہل عرب ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، دوسرا یہ آٹ کے دین کو غلط اور باطل ثابت کرنے کے سب سے زیادہ حریص تھے، ان کا شخص اس بنا پر اپنے عزیز وطن کو چھوڑنا، قبیلہ اور کتبہ سے جدا ہونا، اپنی قیمتی جانوں کو بر باد کرنا ہمارے دعوے کے شاہر ہیں، پھر جب اس کے ساتھ حضور صلی اللہ

بادیں اور بہت سیلچ کو بھی پڑھنے کے لئے بخوبی آن کا بلوچر نہیں، اس کو گزندگانہ بکار پڑتا ہے، مادرت آن کو جھٹلانے کی خواہش زیادہ ہی ہوگی، پھر اگر وہ لوگ قرآن جیسا قرآن یا اس جیسی ایک سورت بنانے پر قادر ہوتے تو ضرور ایسے کرتے، مگر چونکہ ایسا نہ کر سکے تو قرآن کا اعجباً ثابت ہو گی،

(۲) دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ نبوت کے معاملے میں ان کے نزدیک متین اور مشتبہ سمجھتے، لیکن ان لوگوں پر آپ کی فرزانگی اور انجام بینی خوب روشن تھی، پھر اگر آپ (معاذ اللہ) تجوہ ہوتے تو اتنے زبردست اور شدید مبالغہ کے ساتھ ان کو چیلنج نہ کرتے، بلکہ اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لازمی طور سے اس متوقع ذلت کا اندر لیثہ ضرور ہوتا جس کا نقصان اور راثاً آپ کے مجموعی کاموں پر ضرور پڑ سکتا ہے لہذا آگر آپ وحی کے ذریعہ ان لوگوں کے معارضہ سے ناکامی اور عاجزی کا علم نہ ہوا ہوتا تو ہرگز آپ ان کو چیلنج کر کے مشتعل نہ کرتے،

(۳) تیرے آگر آپ کو اپنے ملک اور مشین کی حقانیت اور سیاقیٰ کا یقین نہ ہوتا تو آپ اس بات کا یقین نہیں کر سکتے سمجھتے کہ وہ لوگ قرآن کا معارضہ نہیں کر سیکھ گے، کیونکہ جھوٹ ما آدمی اپنی بات اور دعویٰ پر خود یقین نہیں کرتا، لہذا آپ کا اپنی بات پر یقین کرنابڑی دلیل اس امر کی ہے کہ آپ کو اپنی نبوت اور اپنے ملک کا یقین سمجھا،

(۴) پوچھتے یہ کہ اس پیشینگوئی کے مطابق قرآن کے معارضہ سے ان کا عاجز ہونا یقینی اور قطعی ہے، کیونکہ عہدِ نبوی سے لے کر ہمارے زمانہ تک کوئی بھی وقت ایسا نہیں گزرا کہ دین اور اسلام کے دشمن بے شمار نہ ہوئے ہوں، جنہوں نے آپ کی عیب جوئی میں کوئی کسر اٹھانے کھی ہو، پھر اسقدر شدید حرص کے باوجود کبھی بھی معارضہ نہ ہو سکا، یہ چار وجہ ایسی ہیں جو اعجاز قرآن پر دلالت کرتے ہیں، ان پیشینگوئیوں

سے ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کریم یقیناً اس کا کلام ہے، کیونکہ عادت اشدیوں ہی حلی آتی ہے کہ بتوت کامدی اگر کسی بات کی خرد میں اور اس کو جھوٹ اس کی طرف نہ رہے۔ توا بـ ۱۷۰۰ء میں، دراز بـ ۱۷۰۰ء میں، نیز بـ ۱۷۰۰ء میں،

”اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اُس سے ہم کیونکر پسچاہیں تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ بنی خداوند کے نام سے کچھ کہے، اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورانہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس بنی نے وہ بات خود مستاخ بن کر کہی ہے تو اُس سے خوف نہ کرنا۔“

قرآن کریم کی چوکھی خصوصیت، ماضی کی خبریں

چوکھی خصوصیت وہ واقعات اور خبریں ہیں جو آپنے گذشتہ قوموں اور ہلاک کی جانے والی امتیوں کے بارے میں بیان کیں، حالانکہ یہ امر قطعی ہے کہ آپ اُمیٰ اور ناخاندہ تھے، کسی سے نہ کچھی پڑھا سکتا، نہ اہل علم کے درس و تدریس کااتفاق ہوا، اور نہ فضلاء کی مجلسوں میں شریعت کا موقع ملا، بلکہ ایسے لوگوں میں پروردش پائی جو بُت پرست تھے، اور کتاب کو جانتے بھی نہ تھے، عقلی علوم بھی کسی سے نہ پڑھے تھے، نہ کچھی اپنی قوم سے اتنا عرصہ غائب رہے جیسیں میں کسی شخص کے لئے علوم حاصل کرنے کا امکان ہو سکتا ہے۔

رہے وہ مقامات جہاں پر قرآن حکیم نے گذشتہ واقعات کے بیان کرنے میں دوسری کتابوں کی مخالفت کی ہے جیسے کہ سیح علیہ السلام کے سول دیئے جانے کا واقعہ، سویہ مخالفت ارادی طور پر ہوئی ہے، اس لئے کہ بعض لئے آیت ۲۲۰۲۱ میں بڑا ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اکھضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب شام تشریف لے گئے تھے تو بچراء رہبے آپنے ان واقعات کی تعلیم حاصل کی، اول تو اس مختصر سی

کتاب میں تو اپنی اصلی شکل میں موجود ہی نہ تھیں، جیسے کہ توریت اور الجیل، یا پھر وہ الہامی نہ تھیں اور ان میں واقعات فلسط طریقے سے منقول تھے، ہمارے اس دعوے کا شاہد قرآن کریم کی حسب ذیل آیت ہے :-

(یقیرہ حاشیہ صفحہ گدشتہ) ملاقات میں اتنے تفصیلی واقعات کا علم کیسے ممکن تھا؟ اور اگر آنچھیں بذرکر کے یہ فرض کر لیا جائے کہ پھر اراء نے اس مختصر سی ملاقات میں اپنا پورا علم حضور مسیح کو سکھلا دیا تھا تو پھر اسکو تمام تفصیلات کے ساتھ یاد رکھنا اور موقع بوجع اُسے خلپیر کرنا کہ سرِ مواعظ افلاف مدد ہو کیا اسے عقل تسلیم کر سکتی ہے؟

بعض لوگوں نے قرآن دشمنی میں عقل و خرد کے ہر تقاضے کو بالائے طاق رکھ کر یہ کہہ دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم بخی استاد (TAUR) سے حاصل کیا تھا، میکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تب تو وہ استاد ظاہر ہے کہ علم میں (معاذ افسد) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا ہوا ہوتا چاہئے، اس لئے کہ خدا الجیل میں ہے وہ شگر و پیشہ استاد سے بڑا ہیں ہوتا ہے (رمتی ۱۰: ۴۲) پھر وہ استاد اس وقت کہاں تھا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر ہے انسانوں اور جنات کو چیلنج کر رہے تھے، کہ بہت ہو تو اس جیسا کلام بنا کر لاد، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ کہ قرآن دھی سے نازل ہوتا ہے، معاذ اللہ درست نہیں تھا تو اس استاد نے آئے بڑھ کر کیوں نہ کہہ یا کہ انہوں نے مجھ سے علم حاصل کیا ہے، جو آنحضرت سے بھی زیادہ بڑا عالم ہوا کی تو پورے جزیرہ عرب میں شہرت ہونی چاہئے، اس کے پیشہ ارشگرد ہونے چاہیں ان شگردوں میں سے بھی کسی نے یہ راز کیوں فاش نہیں کر دیا؟ کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کوئی دولت یا اقتدار کا لایح دیا تھا؟ مگر آپ کے تیرہ سال تو سخت ترین فقر و فاقہ افلاس اور معاشی مشکلات میں گزرے، کیا ایسی حالت میں کوئی شخص دولت و اقتدار کے لایح میں آسکتا ہے؟ پھر کیا وہ لوگ آپ پر ایمان لا جکے سمجھے؟ اگر ایمان لے آئے تھے تو انہوں نے کوئی چیز آپ میں ایسی دیکھی تھی جس نے انہیں ایمان لائے پر مجبور کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر اگر ایک کم عقل سے کم عقل انسان بھی غور کرے گا تو اُسے حقیقت تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی، ۱۲۰ ترقی

إِنَّ هُذَا الْفُرْقَانَ يَقْصُصُ عَلَىٰ بَيْنِ إِمَرَاتٍ أَكْثَرُ الَّذِي
هُنْ فِيهِ يَخْتِلِفُونَ ،

ترجمہ: ۱۰ بلاشبہ یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ داععات بیان فرماتا ہے جن میں وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں،

پانچویں خصوصیت قرآن کریم میں منافقین کی مخفی اور پوشیدہ باقوں کی قلعی کھولی گئی ہے، یہ لوگ اپنی خضیہ محسوسوں میں اسلام اور سماںوں کے دلوں کے بھیبھید خلاف جو متفہ سازشیں اور مکاری و سیدہ سازی کرتے تھے حق تعالیٰ ان تمام مشوروں اور سازشوں کی اطلاع ایک ایک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کرتے رہتے تھے، اور آپ ان کی سازشوں کو طشت از بام کرتے تھے، یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پردہ دری میں سچائی کے سوا کچھ نہ پاتے تھے، اسی طرح قرآن میں یہود کے احوال کا انکشاف اور آن کے اندر وہ نی اور قلبی ارادوں اور نیتوں کا بھانڈا پھوڑا گیا ہے،

چھٹی خصوصیت قرآن حکیم میں ان علوم کیسے اور جزویہ کو جمع کر دیا گیا ہے، جو اہل عرب کے پیسان معروف و مرقوم نہ تھے، بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان علوم سے قطعی نا آشناتھے، یعنی علوم شرعیہ کے دلائل عقليہ پر تنبیہ، سوارج اور مواعظ، احوال آخوت، اخلاقی حسنة، اس سے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ علوم یا تواریخی ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ دوسرے علوم، اور ظاہر ہے مرتبہ اور درجہ کے لحاظ سے علوم دینی اعلیٰ اور ارفع ہیں، جن کا مصدق علوم عقائد ہیں، یا علوم اعمال، اور عقائد دین کا حاصل اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور یوم آخرت کی پیچان اور شناخت ہے، اللہ کی معرفت سے مراد اس کی ذات اور صفات جلال و جمال کی معرفت ہے، اسی طرح اس کے احکام اور اور اسماء کی معرفت، اور قرآن ان سبکے دلائل اور تفصیلات اور تفریعات پر لے اس کی مثالیں دیکھنی ہوں تو سورہ توبہ اور سورہ النفال کا مطالعہ فرمائیئے ۱۲ تعمیق

پر اس طرح مشتمل ہے کہ جس کی نظریہ دوسری سماوی کتابوں میں نہیں ملتی، بلکہ اس کے قریب قریب بھی کوئی کتاب نہیں پہنچتی، رہا علم اعمال، سو یا تو اس کا مصدق ان تکالیف اور ذمہ داریوں کا جانتا ہے، جن کا تعلق ظاہری احکام سے ہے، یعنی علم فقرہ، اور ظاہر ہے کہ تمام فقہاء نے اپنے مباحثت قرآن ہی سے مستنبط کئے ہیں، یا عالم لقوف ہو سکتے ہیں، جس کا تعلق تصفیہ باطن اور قلوب کی ریاضت سے ہے، قرآن کریم میں اس علم کے مباحثت بھی استقدار کثرت سے موجود ہیں جس کی مثال کسی کتاب میں نہیں مل سکتی، مثلاً آیت سُخْدِ الْعَفْوَ دَامَرٌ بِالْهُدُوْدِ
دَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ،

یا آیت إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْمُحَسَّنِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَ
يَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِرِ دَالْمُنْكَرِ وَالْمُبَغْنِ،
یا آیت مشریفہ لَا تَسْتُوْیِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِذْ فَعَلَ بِاللَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ فَإِذَا أَتَدِيْنُ بَيْتَكُوْنُ وَبَيْتَنَهُ عَدْكَادَةٌ كَانَهُ دِلْيَخْخَوْیِیْنَ
اس میں رادفع باللَّتِی هِیَ أَحْسَنُ سے مراد یہ ہے کہ ان کی حماقت و جہالت
کو اچھی خصلت یعنی صبر کے ساتھ دفع کچھے، اور بدی کے عوض بھلائی کچھے،
اور خدا اگذی انج کا حاصل یہ ہے کہ بہب تم ان کی بدی کا جواب حسن سلوک
سے دو گے اور بدی حکیتوں کے مقابلہ میں اچھا بدلہ دو گے تو وہ پسے افعال قبیحہ
سے باز آ جائیں گے، ان کی عداوت و دشمنی محبت سے، اور ان کا بغصہ دوستی
سے بدل جائے گا، اس قسم کے اقوال قرآن میں بکثرت ہیں،

ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم تمام علوم نقلیہ کا جامع ہے، خواہ وہ اصول ہوں یا
فروع، نیز اس میں مختلف دلائل عقلیہ پر بھی جا بجا تینیہات پائی جاتی ہیں، اور
گمراہوں کا رو برائیں قاطعہ سے کیا گیا ہے، جو آسان اور سہیل ہونے کے علاوہ
سلہ یعنی ان کتابوں میں جنیں سماوی کہا جاتا ہے جیسے باہل ۱۷ ات

لئے علامہ سیوطی نے الل تعالیٰ میں قرآن کریم کی تماہر اقسام کے عقلی دلائل اور اس کے مستنبط ہونے والے علوم

مختصر بھی ہیں،

مثلاً: أَدْلِكُنَّ إِلَيْهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى
أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ

کیا دہ ذات جس نے آسمان و زمین پیدا کئے، اسی بات پر قادر نہیں کہ ان
جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟

یامثلاً: قُلْ يَعْبُدُونِي هَمَا الَّذِي أَنْشَأْنَاهَا أَدَلَّ مَرَّةً،

آپ فرمادیجئے کہ ان رہبیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے
انھیں پہلی مرتبہ پیرا کا تھا؟

یامثلاً، لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ ۚ لَا يَنْزَهُ عَنْهُ أَوْ
يَنْزَهُ عَنْهُمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ ۚ مَعْبُودٌ مُوْتَقَنٌ دُوْنُوں کا نظام درہم برہم ہوتا،
لَفَسَدَ تَا،

کسی ثانی نے قرآن کے حق میں بالکل درست کہا ہے کہ ۷

جَمِيعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لِكِنْ

تفاصل عنہ افہام الرسجال

ساتویں خصوصیت قرآن کریم اتنی بڑی ضغیم کتاب ہونے اور مختلف النوع
علوم کا مجموعہ ہونے کے باوجود دیہ کمال اور خصوصیت

رکھتا ہے کہ اس کے مضمایں اور مطالب اور بیانات میں نہ کوئی اختلاف و تضاد ہے،
نہ تباہ و تفاوت، اگر یہ انسانی کلام ہونا تو لازمی طور پر اس کے بیان میں تناقض
اور آیات میں تعارض ہوتا، اتنی بڑی اور طویل کتاب اس قسم کی کمزوری سے خالی
نہیں ہو سکتی لیکن چونکہ قرآن میں اس تفاوت و اختلاف کا کوئی بھی شائیہ
نہیں پایا جاتا، اس لئے ہم کو قرآن کے مبنی پر اسٹر ہونے کا جزم دلیقین ہو جاتا
ہے یہی بات خود قرآن کی آیت ذیل میں کہی گئی ہے،

لَهُ آخِرُتٍ مِّنْ مَرْدُونَ كَوْنَهُ زَنْدَهُ ہو نے پڑا میں عرب فوجب کیا کرتے تھے اسکا جواب دیا جا رہا ہے، تھے
کہ تمام ہی علوم قرآن میں موجود ہیں، لیکن لوگوں کی عقلیں ان تک رسائی حاصل کرنے سے عاجز رہ جاتی

أَنْلَدِيَّتْكَ بَرْ دُونَ الْقُرْآنَ دَلْ كَانَ مِنْ عِنْدِهِ غَيْرُ اللَّهِ
لَوْجَدَ دَا فِيهِ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا،
«تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف
سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت اختلاف پاتے۔»

اوپر قرآن کریم کی جو سمات خصوصیات بیان کی گئی ہیں انہی کے بارے میں پاری
تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ الْيُسْرَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ،
«اس قرآن کو اس ذات نے آتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پھیپھی ہوئے
بھیس کر جانتی ہے۔»

کیونکہ اس قسم کی بلا خفت اور اسوب عجیب اور غیبی امور کی اطلاع ،
مختلف النوع علوم پر حادی ہونا، اور باوجود اتنی بڑی کتاب ہونے کے اختلاف
تناقض سے پاک ہونانا ایسی خصوصیت والا کلام اسی ذات سے صادر ہو سکتا ہے
حس کا علم استدرہ ہے گیرا اور محیط ہو کہ آسمان و زمین کا کوئی ذرہ اس کے علم سے
غائب اور باہر نہ ہو،

سَطْحُهُ مِنْ خَصُوصِيَّتٍ، إِعْلَاءُ دَوْامٍ

قرآن کی سطح پر خصوصیت اس کا دائمی معجزہ ہونا، اور قیامت تک اس کا
باقي رہنا، اور تلاوت کیا جانا اور اشد تعالیٰ کا اس کی حفاظت کا ہامن ہونا ہے، دوسرے
انسان اعلیٰ علم السلام کے مجررات وقتی اور ہنگامی کتھے اپنے اوقات میں ظاہر
ہو کر ختم ہو گئے، آج ان کا کوئی نہیں نشان ان کا تاریخی صفحات کے سوا اور کہیں دستیاب
نہیں ہو سکتا، اس کے بر مکس قرآنی معجزہ نزول کے وقت سے موجودہ دفتر تک جس
کی مدت بارہ سو اسی سال ہوتے ہیں، اپنی اصلی حالت پر قائم ہے۔ اور تمام لوگ

آج تک اس کے معارضہ سے عاجز و قاصر ہے، حالانکہ اس طویل عرصہ میں ہر ملک میں اپنی زبان اور فصیح و بلغاء بکثرت ہوتے رہے جن میں اکثر بدین معاذ اور مخالف تھے، مگر یہ سدا بس ارمجزہ جوں کا توں موجود ہے، اور انشاء اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت موجود رہے گا،

اس کے علاوہ چونکہ قرآن کریم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی سورۃ مستقل طور پر مجزہ ہے بلکہ چھوٹی سورۃ کے بعد قرآن کا ہر جزو مجزہ ہے، اس لئے تنہ قرآن کریم دو ہزار سے زیادہ مجزات پر مشتمل ہے،

قرآن کریم کی دسویں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنے والا نہ نویں خصوصیت خود تنگ دل ہوتا ہے، اور نہ اس کا سنسنے والا اُس کے سنسنے ہر مرتبہ نیا کیف سے آتا تا ہے، بلکہ جبقدر بار بار اور مگر پڑھا جائے قرآن کریم سے انس اور محبت بڑھتی جاتی ہے ۔

وَخَيْرٌ جَلِيلٌ لَا يُكَلِّفُ حَدِيثَهُ

وَتَرَدَادَهُ يَزِدَ دَادَهُ فَيْهَ تَعْجِلَهُ

اس کے بر عکس دوسرے کلام خواہ کتنے ہی اعلیٰ درجہ کے بیخ کیوں نہ ہوں ان کا ایک سے زیادہ بار تکرار کا نوں کو ناگوار اور طبیعت کو گران معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا ادراک صرف ذوق سلیم رکھنے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں،

قرآن کریم کی دسویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ دعوے اور دلیل کو دسویں خصوصیت جامع ہے، چنانچہ اس کا پڑھنے والا اگر معانی کو سمجھتا ہو تو بیک وقت ایک ہی کلام میں دھوای اور دلیل دو نوں کا مقام اور نشان اس کے مفہوم اور منقولق سے پیا جاتا ہے، لعنی اسکی بلاغت سے اس کے انجاز پر اور معانی سے اثر کے امر و نہی اور دخالت و نیز پر اس تسلیم کرتا جاتا ہے،

لہ وہ بہترین مصاحب اور ہمیشیں ہے جس کی دلنشیں بالفون سے کبھی دل نہیں اکتا، بلکہ اُسے جتنی بار پڑھا جائے اتنا ہی اس میں خشن و جملہ بڑھتا ہے ۱۲ ت

گیارہوں خصوصیت
حفظ قرآن متعلیمین اور طالبین کے لئے اس کا آسانی اور سہولت کے ساتھ یاد ہو جانا، آیت ذیل میں باری تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے گہد ہے کہ :-

ذَلِكَ قَدْ دَيْسَرَ نَا الْقُرْآنَ لِلَّذِي كُنْتُ عُلَى
ادر ہلاشبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کیلئے آسان کر دیا۔

چنانچہ بہت ہی قلیل مدت میں کمر عمار اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا اس کو یاد کر لینا ہر شخص دیکھ سکتا ہے، اس امت میں اس دوسری بھی جب کہ اسلام بہت ہی اخبطاط کی حالت سے گزر رہا ہے، اکثر علاقوں میں ایک لاکھ سے زیادہ حفاظ ایسے پائے جاتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کا اول سے آخر تک محض ان کی یادداشت سے لکھا لکھا جانا اور قلم بند کیا جانا ممکن ہے، اور کیا مجال ہے کہ اس میں ایک اعراب یا نقطہ کا بھی فرق ہو جائے، چہرہ جائیں کہ الفاظ اور کلمات میں کمی بیشی یا تفاوت، اس کے برعکس سارے یورپ کے ممالک میں مجموعی طور پر انگلی کے حافظ اتنی تعداد میں بھی نہیں مل سکتے جس قدر حفاظ مصر کی کسی چھوٹی سی بستی میں بآسانی ملتے ہیں جب کہ اس کے ساتھ یہ بھی پیش نظر کھا جائے کہ عیانی دنیا فارغ البال اور خوشحال ہے، اور ان کی توجہات علوم و فنون اور صنعتوں کی جانب تین صد یوں سے بیش از بیش ہیں، پیرامتین محمد پیر پر حق سبحانہ تعالیٰ کا کھلا ہوا انعام ہے،

بارہوں خصوصیت بارہوں خصوصیت دہ خشیت اور ہمیت ہے جو اس کی تلاوت کے وقت منہنے والوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے خشیت انگریزی اور پڑھنے والوں کے دل ہمار دینی ہے، حالانکہ خشیت اور ہمیت ان لوگوں پر بھی طاری ہوتی ہے جو قطعاً اس کے معانی نہیں سمجھتے، اور نہ اس کے مطالب تک اُن کے ذہن رسانی پاتے ہیں، چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ پہلی بار قرآن کریم کو شنکر شدید تاثر کی بناء پر قبول اسلام پر مجبور ہو گئے، اور بعض لوگ اگر چہر اس وقت مشرفت بالاسلام نہ ہوئے، مگر کچھ عرصہ بعد

اس کی کشش نے اسلام کا طوق اھاعت آن گی گردنوں میں ڈال ہی دیا۔
شناگی ہے کہ کسی عیانی کا ایک قرآن خوان کے پاس سے گزرا ہوا، عیانی کلام
پاک کو شنکر بے خود ہو گیا، اور زار و قطار روئے لگا، اس سے روئے کا سبب پوچھا
گیا تو کہا کہ کلام خداوندی کو شنکر مجھ پر زبردست ہیبت اور خشیت طاری ہوئی جس
نے مجھے ڈلا دیا،

حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جہش بخشی اور اس کے درباریوں
کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی تو یہ عالم بخاک پور رسمات اثر میں ڈبا ہوا تھا اور
محور تھا، پادشاہ اور تمام اہل دربار برابر اس وقت تک روئے رہتے جبکہ حضرت
جعفر رضی تلاوت کرتے رہے،
یہی نہیں، بلکہ اس کے بعد شاہ جہش نے مذہب نصرانیت کے شر علماء کو
بلدہ راست اس معاملہ کی تحقیق اور شاہدہ کے لئے خدمت بنوئی میں بھیجا، حفظ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یسین کی تلاوت فرمائی، وہ سب علماء برپا
روئے رہے، اور بے اختیار مسلمان ہو گئے، اپنی بزرگوں کی شان میں یہ آیات
نازل ہوئیں ہے

وَرَاذَا سِمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَقْيَصُ
مِنَ الدَّارِ مُعِمَّقًا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ لَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَمْ تَ
فَأَكْتَبْنَا مَعَ الشَّهِيدِ دِينَ ط

ترجمہ: اور جب یہ لوگ رسول پر نازل ہونے والے کلام کو سنتے ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان
کی آنکھیں حق شناسی کی وجہ سے آنسوؤں سے لبریز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لے ہمئے
پروردگار بہم ایمان لے آئے، اس لئے ہمیں بھی (محمدؐ کی) تصدیق کرنے والوں میں لکھ لیجئے۔
لہ نیز بخششی نے قرآن سخنے کے بعد کہا کہ یہ کلام اور موئیہ پر نازل ہونے والا کلام ایک ہی ڈیوٹ سے
نکلے ہیں، رواہ احمد عن ام سلمہ رضی حبیث طویل (جمع الفوائد ص ۲۲، ج ۲)
لہ حضرت عابشہ بن عباسؓ کی تفسیر کے مطابق۔ (دیکھئے تفسیر کبیر ص ۳۳۶، ج ۲)

اسی طرح اس سے قبل ہم جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، علیہ اب مقتفع، یحییٰ بن حکم، غزالی کے واقعات اور ان کی شہادتیں قرآن کریم کی حقانیت کے سلسلے میں بیان کر سکے ہیں،

۱۷

۲۰

قاضی نورالشوشتری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ علامہ علی القوشی صحابی وقت مادر النہر سے روم کی جانب روانہ ہونے لگے، وہ ان کی خدمت میں ایک یہودی عالم اسلام کی تحقیق کے لئے آیا، اور علامہ موصوف سے برابر ایک صینیہ تک مناظرہ کرتا رہا، اور ان کے دلائل میں سے کسی دلیل کو تسلیم نہیں کیا، الفاق سے ایک روز وہ یہودی علامہ موصوف کی خدمت میں علی الصباح حاضر ہوا، اس وقت علامہ موصوف اپنے مکان کی چھت پر قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھے، اگرچہ علامہ کی آفاز نہیں ہیت ہی بھونڈی اور کر سیرہ سخنی، مگر جو ہنسی وہ یہودی عالم در فانے میں داخل ہوا، اور قرآنی کلمات اس کے کافنوں میں پڑے، اس کا قلب بے اختیار ہو گیا اور قرآن نے اس کے دل میں اپنی جگہ پیدا کر لی، علامہ موصوف کے پاس پہنچنے ہی اُس نے پہلی درخواست ہی کی کہ مجھ کو مشرف باسلام کر لیجئے، علامہ نے اُن کو مسلم کر لیا، پھر اس کا سبب دریافت کیا، کہنے لگا کہ میں نے پوری زندگی میں اپسے زیادہ مکروہ اور بھونڈی آواز کسی کی نہیں شئی، اس کے باوجود آپ کے دروانے پر پہنچنے ہی الفاظ قرآن جوں ہی میرے کافنوں میں پڑے میرے قلب کو اپنی شدت تاثیرت مسخر کر دیا، مجھ کو اس کے دھی ہونے کا لیقین ہو گیا،

ان واقعات سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم صحیح ہے، اور کلام خداوندی ہے، اذ کیوں نہ ہو؟ جب کہ کسی کلام کی خوبصورتی اور اچھائی یعنی دجوہ سے ہوا کرتی ہے، یعنی اُس کے الفاظ فصیح ہوں، اسکی ترتیب و تالیف پسندیدہ ہو، اس کے مضامین پاکیزہ ہوں، یہ تینوں چیزوں میں قرآن کریم میں بلاشبہ موجود ہیں،

(صفحہ ۹۳ کے حاشیے بر صحراً مددہ)

خاتمه، میں مفید باتیں ای خازق ران کی حکم

ہم اس فصل کو تین فوائد کے بیان پر ختم کرتے ہیں، اقل یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا غلط والا مجزہ عطا کئے جانے کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے انبیاء، علیہم السلام کو اس جس سے مجزہ عطا کئے جاتے ہیں جو اس زمانہ میں ترقی پر ہو، کیونکہ وہ لوگ اس کے سبب سے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس فن میں دہ آخری حد کو نہیں ہے، جہاں تک انسانی رسانی ممکن ہے، پھر جب لوگ کسی کو اس حد سے سکلا ہوا پلتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ انسانی فعل نہیں ہے، بلکہ منجانب اللہ ہے،

جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر درجاد و کا زور تھا۔ اور لوگ اس میں کمال پیدا کرتے تھے، ماہر جادو گروں نے اس حقیقت کو پایا تھا، جادو کی آخری حد "تخیل" ہے، یعنی ایک بے اصل چیز کا نظر آنا، جس کا حاصل "نظر بندی" ہے اُنھوں نے موسیٰ علیہ السلام کی لائھی کو اڑ دہا بنا ہوا دیکھا جو ان کے مصنوعی جادو کے سامان کو نگل رہا تھا، ان کو یقین آگیا کہ یہ حد سحر سے خارج اور منجانب اللہ مجزہ ہے، نتیجہ یہ کہ وہ لوگ ایمان لے آئے،

رصفحہ گذشتہ کے حاشیے، لہ قاضی نور الدین شوستری، شیعہ کے مشہور عالم، لاہور میں شاہ اکبر نے قاضی نیا اس تھا، پھر جہاں تک نے قتل کرایا پیدائش ۱۵۴۹ھ وفات ۱۶۱۰ھ، شیعہ حضرات ائمہ شہیزیاث کہتے ہیں، "علاء الدین علی بن محمد قوشجی" کران میں علم حاصل کیا، پھر قسطنطینیہ آگئے، خاص طور سے ریاضی علوم میں مشہور ہیں، ہوسی کی تحریر المکلام پر انہی مترجم معروف ہے، ذفات ۱۶۲۷ھ، ۱۶۲۸ھ، ۱۶۲۹ھ،

اس کے بر عکس فرعون چونکہ اس فن کا ماہر اور کامل نہ تھا، اس لئے اس نے اس مجزہ کو بھی «حر» خیال کیا، صرف اس قدر فرق محسوس کیا کہ جادو لوں کے جادو سے موسمی علیہ السلام کا باد و برا اور عظیم ہے،

اسی طرح حضرت عیینی علیہ السلام کے زور میں فتنہ طبت، کمال کے نقطہ پر پہنچ چکا تھا، اس علم میں اہل زمانہ لمال پیدا کرتے، اور اس کی آنہی حد تک پہنچنے جاتے تھے، پھر جب انہوں نے عیینی علیہ السلام سے مردلوں کو زندہ کر دینے اور کوڑہ ہمیوں کو تند رست کر دینے والے محیر العقول کارنامے مشاہدہ کئے، تو اپنے کمال فن سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ اس سے تک فن طب کی رسائی نہیں ہو سکتی، لہذا یہ منجانب اللہ مجزہ ہے،

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زبان دانی اور فصاحت و بلا غلط کا عروج تھا، چنانچہ لوگ اس میں کمال پیدا کر کے ایک دوسرے کو مقابلہ کا چیلنج دیتے تھے، بلکہ یہ چیزان کے لئے سرمایہ فخر و مبارکت شمار کی جاتی تھیں، پرانے اسی سلسلے میں وہ ساتھ مشہور قصیدے خانہ کعبہ میں محض اسی لئے شکائی گئے تھے، کہ ان کا کوئی معارضہ نہیں کر سکتا، اور اگر کسی میں طاقت ہے تو ان کا جواب لکھ کر یہاں آؤ دیں اگر کر دے، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بلیغ کلام پیش کیا، جس نے تمام بلغاوں کو اس کے معارضہ سے عاجز کر دیا، تو چونکہ وہ لوگ انسانی بلا غلط کی آخری حد کو جانتے تھے، قرآنی بلا غلط کو انہوں نے اسی پر تپایا، تو یقین کر لیا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے بلکہ مجزہ ہے،

لہ اہنی قصیدوں کو *الْمَعْلِيقَاتُ الْسَّبَقَاتُ*، «کہا جاتا ہے، زو زلی نے اپنی شرح میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ان قصیدوں کو خانہ کعبہ میں اس غرض سے لٹکایا گیا تھا کہ کسی میں ہمت یا تو اُن کے مقابلے کے قصیدے کہہ کر لائے ۱۲ تدقیقیں

قرآن کریم ایک دم کیوں نازل نہیں ہوا؟

دوسرے فائدہ

قرآن کریم کا نازل تھوڑی تھوڑی مقدار میں ٹکڑے ہو کر تیس برس میں ہوا، تمام قرآن ایک دم نازل نہیں ہوا، اس کی چند وجہ ہیں :-

① حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھنے لگئے نہ تھے، اس لئے اگر سارا قرآن ایک دم نازل ہوتا تو اندر یہ سخا کہ آپ اس کو ضبط اور محفوظ نہ کر سکیں گے، بھول جانے کے قوی امکانات تھے،

② اگر قرآن کریم پورا ایک دم نازل ہوتا تو ممکن تھا کہ آپ لکھنے ہوئے پراعتماد کرتے اور یاد کرنے میں پورا اہتمام نہ ہوتا، اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا نازل کیا تو بہولت اس کو محفوظ کر لیا، اور تمام امت کے لئے حفظ کی سنت جاری ہو گئی،

③ پورا قرآن ایک دم نازل ہونے کی صورت میں اگر سکے احکام بھی اسی طرح ایک بار نازل ہوتے تو مخلوق کے لئے دشواری اور گرانی پیدا ہو جاتی، تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی وجہ سے احکام بھی تھوڑے تھوڑے نازل ہوئے، اسی شان کا تکملہ امت کے لئے آسان ہو گیا، ایک صحابیؓ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پڑھا احسان و کرم ہے، دردہم لوگ مشترک تھے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین اور سارا قرآن ایک دم لئے آتے تو ہمارے لئے بڑا دشوار ہو جاتا ہا اور اسلام قبول کرنے کی چمٹ نہ ہوتی، بلکہ ابتداء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صرف توحید کی دعوت دی، جب ہم نے اس کو قبول کر لیا اور ایمان کی دعوت اور اس

کی شیرینی کا ذائقہ چکھے دیا، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ تمام احکام ایک ایک کر کے قبول کرتے پڑے گئے، یہاں تک کہ دین کامل اور مکمل ہو گیا،

(۲) — جب آپ وفا فوقاً جریل علیہ السلام سے ملاقت کرتے تو ان کے بار بار آنے سے آپ کے دل کو تقویت حاصل ہوتی، جس کی وجہ سے اپنے فرضیہ تبلیغ کی ادائیگی میں آپ مضبوطی کے ساتھ مستعد رہے، اور جو مشقیں نبوت کا زمہ ہیں ان پر صبر کرنے اور قوم کی ایزار سانی پر ثابت قدم رہنے میں پختہ رہے۔

(۳) — جب باوجود تحوڑا تھوڑا نازل ہونے کے اس میں اعجاز کی شرائط پائی گئیں تو اس کا معجزہ بنا دتا بت ہو گیا، کیونکہ اگر لوگ اس کے معارضہ پر قادر ہوتے تو بڑی آسانی کے ساتھ تحوڑی مقدار میں نازل شدہ حصہ کے برابر کوئی کلام بناسکتے تھے،

(۴) — قرآن کریم ان کے اعتراضات اور موجودہ زمانے میں پیش آنے والے واقعات کے مطابق نازل ہوتا رہتا تھا، اسی لیتے پر ان کی بصیرت میں ترقی اور اضافہ ہو جاتا تھا کیونکہ، اس صورت میں قرآنی فصاحت کے ساتھ غلبی امور کی اطلاع اور پیشینگوئی بھی شامل ہوتی جاتی تھی،

(۵) — قرآن کریم جب تحوڑی مقدار میں نازل ہوتا، اور اُھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معارضہ کا چیلنج شروع ہی سے دیا تھا، تو کوئی آپ نے قرآن کے ہر ہر جزو کے بارے میں مستقل چیلنج کیا، جب وہ لوگ ایک ایک جزو کے معارضہ سے عاجز آگئے عن تو سارے قرآن کے معارضہ سے ان کا عاجز ہونا بدرجہ او لی معلوم ہو گیا، اس طرح لوگوں کا نفسِ معارضہ سے عاجز ہو جانا قطعی ثابت ہو گیا،

(۶) — اللہ اور اس کے نبیوں کے درمیان سفارت کا منصب ایک عظیم اشان اور جلیل القدر عہدہ ہے، اب اگر قرآن کریم ایک دم نازل ہوتا تو جبکہ محیل عالمیہ لام سے اس منصب اور عہدہ کے شرف سے محروم ہو جانے کا احتمال

سخا، قرآن کے تھوڑی تھوڑی مقدار میں نازل ہونے کی وجہ سے جریل علیہ السلام کے لئے یہ مشرف باقی رہا،

قرآن کے مرضائیں میں تکرار کیوں ہے؟

تیرافائدہ

قرآن کریم میں سُلْطَنَةٌ توحید، احوالِ قیامت، اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا بیان متعدد مقامات پر بار بار اتنا آیا ہے، اہل عرب عام طور پر مشرک اور بُت پرست تھے، ان تمام چیزوں کے منکر تھے، اہل عجم میں سے بعض اقوام جیسے ہندوستانی و چین کے لوگ اور آتش پرست اہل عرب، ہی کی طرح بُت پرست اور مشرک تھے، اور ان باقتوں کے انکار میں اہل عرب، ہی کی طرح تھے، اور بعض قویں جیسے عیسائی ان اشیاء کے اعتقاد میں افراط و تفریط میں مستلاشتھے، اس لئے ان مرضائیں کی تحقیق و تأکید کے لئے مسائل توحید و معاد وغیرہ کو بار بار بحث بیان کیا گیا، پیغمبروں کے واقعات بار بار بیان کئے جانے کے اور سچی اسباب یعنی مثلاً، پونکہ قرآن کریم کا اعجاز بلاغت کے لحاظ سے سمجھی تھا، اور اس پہلو سے سچی معارضہ مطلوب تھا، اس لئے فقصص کو مختلف پیرالوں اور عبارتوں میں بیان کیا گیا ہے، اختصار اور تطویل کے اعتبار سے ہر عبارت دوسری سے مختلف ہونے کے باوجود بلاغت کے اعلیٰ معیار پر پہنچنی ہوتی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا بلغاۓ کے نزدیک انسانی طاقت، اور قدرت سے خارج ہے، دوسرے یہ کہ ان کو یہ کہنے کی گنجائش تھی کہ جو فصیح الفاظ اس قصہ کے مناسب تھے، ان کو آپ استھان کر چکے ہیں، اور اب دوسرے الفاظ اس سے پلاٹہا تو نہیں رہے، یا یہ کہ ہر بلیغ کا طریقہ دوسرے بلیغ طریقے کے مخالف ہوتا ہے، بعض اگر طویل عبارت پر قادر ہوتے ہیں تو دوسرے صرف مختصر عبارت پر قدرت

رکھتے ہیں، اس لئے کسی ایک نوع پر قادر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دوسری نوع پر بھی قادر نہ ہوں ہیں ہے،

یا یہ کہ سکتے تھے کہ واقعات اور قصص کے بیان کرنے میں بلا غلط کا دائرہ تنگ ہے اور آپ کو اگر ایک آدھ مرتبہ قصص کے بیان کرنے پر قدرت ہو گئی تو تو یہ مخصوص بخت واتفاق ہے، لیکن جب قصص کا بیان اخخار و تعلویل کی رعایت کے ساتھ بار بار ہوا تو گذشتہ تینوں شبہات اس سلسلے میں باطل ہو گئے،
تیرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی ایزار سانی کی وجہ سے تنگ دل ہوتے تھے، چنانچہ حق تعالیٰ شائۃ نے آیت "وَكَفَدْ نَعْلَمْ أَنْكَفْ يُضِيقْ صَدَرْكَ وَيَمَا يَقُولُونَ" میں اس کی شبہادت دی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں سے کوئی واقعہ بیان فرماتے جلتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے حسب حال ہوتا ہے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل مجمعی اور تسلی حاصل ہو، چنانچہ اسی غرض کی جانب آیت ذیل میں اشارہ فرمایا گیا ہے:

وَكَلَّهُ نَفْسٌ عَلَيْكَ وَمِنْ أَنْبَاءِ الرَّحْمَنِ مَا شَيْئَتْ بِهِ فُؤَادَكَ وَ

وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقَّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرًا لِلَّهِمَّ مِنْ مِنْ

ترجمہ: "پیغمبروں کی خبروں میں سے ہم آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں جو آپ کے دل کی تسلی کا باعث ہو، اور ان قصوں کے ضمن میں آپ کے پاس حق باتیں اور

مسلمانوں کے لئے نصیحت و پندکی باتیں پہنچنی ہیں"

پھر تھے یہ کہ مسلمانوں کو کفار کے ہاتھوں ایذا اور تکلیف پہنچتی ہی رہتی تھی، اس لئے باری تعالیٰ ایسے ہر موقع پر کوئی نہ کوئی وقت کے مناسب حال ذکر کر دیتے ہیں، کیونکہ پہلوں کے واقعات پچھلوں کے لئے موجود عبرت ہوتے ہیں،

لہ اور ہم جانتے ہیں کہ ان رکفار کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے"

پا بخوبیں یہ کہ کبھی ایک ہی واقعہ متعدد حقائق پر مشتمل ہوتا ہے۔ ضمناً ایک ایک مقام پر اسکے ذکر کرنے سے اگر ایک حقیقت مقصود ابیان ہے اور دوسری ضمناً تو دوسری جگہ اس کے بیان سے دوسرے حقائق ملحوظ ہوتے ہیں، اور پہلی حقیقت ضمنی بن جاتی ہے :



دوسری فصل

قرآن پر عیسائی علماء کے اعتراضات

پہلا اعتراض

قرآن کی بلاغت پر

عیسائی علماء قرآن کریم پر پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ بات تسلیم نہیں کی جاسکتی کہ قرآن کریم بلاغت کے اس انتہائی معیار پر پہنچا ہوا ہے جو ان انی دسترس سے باہر ہے۔ اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو بھی یہا عجائز کی ناقص دلیل ہے یہ کیونکہ اس کی پہچان اور شناخت صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو عربی زبان اور لغت عرب کی پوری مہارت ہو،

اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ تمام کتا ہیں جو یونانی لاطینی زبانوں میں بلاغت کے اعلیٰ معیار پر پہنچنی ہوئی ہیں وہ بھی کلامِ الہی مانی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ باطل اور قبیع مضامین جن کو فضیح الفاظ اور بلیغ عبارت میں ادا کر دیا جائے، وہ بلاغت کے اس معیاری مقام تک پہنچنے کا حق جائیں،

جواب: قرآن کریم کی عبارت کو بلاغت کے اعلیٰ درجہ نک پہنچا ہوانہ ماننا سوائے ہٹ دھرمی کے کچھ نہیں، اس سے لئے کہ پہلی فصل ناقابل دید

دلائل سے اس کو ثابت کیا جا چکا ہے،

مرہی یہ بات کہ اس کی شناخت صرف وہی کر سکتا ہے جس کو عربی زبان کی
کامل مہارت ہو، سو یہ درست ہے، لیکن اس سے ان کا مدعا ہرگز ثابت نہ ہو گا کیونکہ
یہ مجرزہ بلغاہ اور فصیحہ کو عاجز اور قاصر کرنے کے لئے تھا، اور ان کا عاجز نہ ہو نا
ثابت ہو چکا، نہ صرف یہ کہ وہ معارضہ نہیں کر سکے، بلکہ اپنی عاجزی کا اعتراض
بھی کیا، اہل زبان نے اس کی شناخت اپنے سلیقے سے کی ہے، اور علماء نے علوم
بلاغت اور اس الیٰب کلام کی مہارت سے اس کو پہچانا،

اب یہ ہے عوام تو انہوں نے لاکھوں اہل زبان اور علماء کی شہادت سے یہ
بات معلوم کر لی، لہذا اس کا مجرزہ ہونا یقیناً ثابت ہو گیا، اور یہ دلیل کامل
دلیل ہے، نہ کہ ناقص، جیسا کہ ان کا خیال ہے، اور یہ چیز ان اسباب میں سے ایک
ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے،

ادھر مسلمان یہ دعویٰ کب کرتے ہیں کہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا سبب
صرف اس کا بیان ہونا ہی ہے، بلکہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ بلاغت سبھی قرآن کے
کلام الہی ہونے کے بے شمار اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور قرآن کریم اس
لحاظت سے سمجھلہ بہت سے مجرزات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجرزہ نے
اور اس کا مجرزہ ہونا آج سبھی لاکھوں اہل زبان اور ماہرین بلاغت کے نزدیک
عیاں ہے، اور مخالفین کا عاجز و قاصر ہونا ظہور مجرزہ کے وقت سے موبودہ زمانہ
تک ثابت ہے، جسے ہر شخص کھلی آنکھوں دیکھ سکتا ہے، جب کہ ایک ہزار
دو سو اسی سال کی طویل مدت ہو چکی ہے،

نیز فضل اول کی دوسری خصوصیت میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ نظام کا
کا قول باطل اور مردود ہے، معتبر لدھ کے پیشووا ابو موسیٰ مژدہ کا یہ قول سبھی نظام
کے قول کی طرح مردود ہے کہ " لوگوں کو اس قسم کے فضیح و بلیغ قرآن بنانے کی قدرت
ہے" اس کے علاوہ یہ شخص ایک دیوانہ اور پاگل تھا، جس کے دماغ پر کثرت

اریاضت کی وجہ سے خشکی غالب آگئی تھی، اس کے نتیجے میں اقسام کی بہت سی ہڈیاں اور دیوانی کی باتیں انسنی کی ہیں، مثلاً ایک جگہ یوں کہتا ہے کہ «خداجھوٹ بولنے اور ظلم کرنے پر قادر ہے، اور اگر وہ ایسکے تب بھی وہ خدا ہو گا مگر جو ٹا اور ظالم»^۱ دوسری جگہ کہتا ہے کہ جو شخص بادشاہ سے تعلق رکھے گا وہ کافر ہے، نہ خود کسی کا دارث بن سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی دارث ہو گا،

رہی یہ بات کہ وہ تمام کتاب میں جو دوسری زبانوں میں معیاری بلاغت رکھتی ہیں ان کو بھی کلامِ الٰہی مانا پڑے تھا، سو یہ بات ناقابل قسم ہے، اس لئے کہ ان کتابوں کا بلاعث کے اس اعلیٰ مرتبہ پر پہنچ جانا ان وجہ کے مطابق ثابت ہمیں ہوا جن کا بیان فصل اول کے امرِ اول دوسری میں گذر چکا ہے، اور نہ ان کے مصنفوں کی جانب سے اعجاز کا دعوائی کیا گیا ہے، نہ اس زبان کے فصحاء ہی ان کے معارض کے عاجز ہوئے، پھر بھی اگر کوئی شخص ان کتابوں کی نسبت اس قسم کا دعویٰ کرے تو اسکے ذمے اس کا ثبوت دینا ہو گا، پھر اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو اقسام کے باطل دعوے سے احتراز ضروری ہے، اس کے علاوہ صرف بعض عیاشیوں کا ان کتابوں کے متعلق یہ شہادت دینا کہ ان زبانوں میں یہ کتاب میں بلاغت کے اسی معیار پر پہنچنی ہوئی ہیں جس معیار پر عربی زبان میں لے میں بن چیغ ابو موسیٰ مزدار (م ۲۲۷ھ) نہایت غالی قسم کے معتبر میں سے ہیں، بلے انہیل درستگوں کی بنا پر اس کے داع پر خشکی غالب آگئی تھی، قرآن کے مخلوق ہونے پر اس کا اعتقاد اس قدر شدید تھا کہ آن کو قدیم ماننے والوں کو کافر کہتا تھا، یہاں تک کہ علامہ شہرستانی نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ کو ذکر کیا ہے ابرایم سندھی^۲ نے اس سے پوچھا کہ ردیعے زمین پر بے زمانے والوں کے بارے میں تھمارا کیا خیال ہے؟ ہکنے لگا کہ سب کافر ہیں، ابراہیم نے کہا کہ بنده خدا اجتن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تمام آسمانوں اور زمین کی وسعت رکھتی ہے، پھر کیا اس میں صرف تم اور تھمارے سامنے رہیں گے؟ اس پر وہ کہیا اس پر گیا، (الملل والنسل للشہرستانی، ص ۹۲ ج ۱)

^۱ ملاحظہ مہر الملا والنسل للشہرستانی ص ۹۲ ج اول، قاہروہ ۱۹۴۸ء،

قرآن کریم ہے، قابل تسلیم نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ چونکہ یہ لوگ خود اہل زبان نہیں ہیں اس لئے نہ تو دوسری زبان کی تذکرہ و تائیث میں، مفرد تثنیہ جمع میں امتیاز کر سکتے ہیں، نہ مرفوع و منصوب و مجرور میں تمیز کر سکتے ہیں، چہ جا شیکہ زیادہ بلیغ اور کم بلیغ میں تمیز کرنا، اور یہ امتیاز نہ کرنا عربی زبان کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ اپنی زبان کے علاوہ کسی زبان میں بھی، عبرانی ہو یا یونانی، سریانی ہو یا لاطینی ان کو یہ مہارت حاصل نہیں ہو سکتی،

اور اس امتیاز نہ کرنے کا منشاء ان کی زبان کی تنگ دامنی، بالخصوص انگریزوں کا تو یہی حال ہے، کیونکہ یہ بھی اپنی تنگ دامنی میں عیا یؤں کے ساتھ شرکیٹے ہیں البتہ عام عیا یؤں سے یہ لوگ ایک خصوصیت میں ممتاز ہیں، اور وہ یہ کہ یہ لوگ تسلیم دوسری زبان کے چند گنتی کے الفاظ سے واقف ہو جانے کے بعد اپنے بارے میں یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم اس زبان کے ماہر ہو گئے ہیں، اور کسی علم کے چند مسائل کے جان لیتے کے بعد اپنے کو اس علم کے علماء میں شمار کرنے لگتے ہیں، ان کی اس عادت بد پر یونانی اور فرانسیسی حضرات بھی اعتراض و طعن کرتے ہیں، ہمارے ہمیں دعوے کا شاہد یہ ہے کہ شام کے بڑے پادری سر کیس مارونی نے اسقف اعظم اربالوس ہشتم کی اجازت سے بہت سے پادریوں کا ہبھوں

لئے انگریزی زبان میں مختلف اصناف (GENRES) کے لئے باعوم ایک ہی قسم کے صیغے ہیں، اس کے بخلاف عربی میں ہر کمک کے لئے الگ ہے عدد (NUMBER)

کے لحاظ سے انگریزی میں کلمے کی دو قسمیں ہیں، مفرد SINGULAR اور جمع PLURAL کے بخلاف عربی میں ان دونوں کے علاوہ تثنیہ DUAL کے لئے بھی الگ صیغہ ہے، یہ تو بیانی امور میں عربی کی دسعت ہے اس کے علاوہ عربی کے لغات VOCABULARY

انگریزی کی نسبت بہت زیادہ ہے ۱۲ تلقی

۷۵ اربالوس ہشتم (URBAN VIII) ۱۶۲ء سے ۱۶۳ء تک پوپ رہا ہے، یہ دہی پوپ ہے جس نے مشہور سائنسدان گلیلیو کی مخالفت کی تھی (برٹانیکا)، ۱۲ تلقی

علماء اور عبرانی یونانی عربی زبان کے پڑھانے والے اساتذہ کو اس غرض سے جمع کیا کہ یہ لوگ اُس عربی ترجمہ کی اصلاح کریں جو بے شمار اغلاط سے بھرا ہوا اور بہت سے مضامین سے خالی ہے، ان لوگوں نے ۱۸۵۷ء میں اس سلسلہ میں بڑی محنت اور جالفتشائی کے بعد اس میں اصلاح کی، لیکن چونکہ باوجود اصلاح تمام کے ان کے ترجموں میں بہت سی خامیاں صیایشوں کی روایتی خصلت کے مطابق باقی رہ گئیں اس لئے ترجمہ کے مقدمہ میں انہوں نے معدودت پیش کی ہے، میں اس مقدمہ سے بعینہ ان کی عبارت اور الفاظ میں ان کی معدودت نقل کرتا ہوں، وہ یہ ہے:

”تم اس نقل میں بہت سی چیزیں الیسی پاؤں کے جو عام قانون، باغت کے خلاف ہونگی“
مثلاً مونٹ کے عومن میں مذکور اور جمع کی جگہ مفرد اور تثنیہ کی بجائے جمع اور زیر کی جگہ پیش اور اسم میں نصب اور فعل میں جرم، حرکات کی جگہ حروف کی زیادتی وغیرہ وغیرہ ان تمام باتوں کا سبب عیایوں کی زبان کی سادگی ہے اور اس طرح انہوں نے زبان کی ایک مخصوص قسم بنالی ہے، یہ بات صرف عربی زبان کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ لاطینی اور یونانی عربانی زبانوں میں کبھی انسیاں اور رسولوں نے اور ان کے اکابر اور بڑوں نے لفاظ اور الفاظ میں اس قسم کا تغافل برلنہی ہے، وجہ اسکی یہ ہے کہ روح القدس کا یہ منشاء کبھی نہیں ہوا، کہ کلام الٰہی کو ان حدود اور پابندیوں کے ساتھ جکڑا دیا جائے جو سخنی قواعد نے لگائی ہیں، اسی لئے اسکی ہمارے سامنے خدا تعالیٰ اسرار کو بغیر فضاحت و بлагوت کے پیش کیا۔“

دوسرے دعوے پر یہ شہادت موجود ہے کہ مشہور سیاح ابو طالب خان نے فارسی زبان میں ایک کتاب مسیر الطالبی تصنیف کی ہے، اس میں اس نے اپنا سفرنامہ لکھا ہے، اور مختلف ممالک کی سیاحت میں جو حالات اُس نے دیکھے ان کو قلمبند کیا ہے، انگریزستان والوں کی نوبیاں اور عیوب بھی اسی سلسلہ میں شمار کرائے ہیں، اُس کی کتاب سے آٹھویں عیوب کا ترجمہ کر کے نقل کرتا ہوں، یہونکہ اس

موقع پر اسی کی عزودت ہے، وہ کہتا ہے کہ :

”آنکھوں عیب بن کی وہ فلسفہ کاری ہے جو علوم کی معرفت اور دوسری زبانوں کے سلسلہ میں ان سے سرزد ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ خود کو ہر زبان کا ماہر سمجھ لیتے ہیں، اور کسی اہل علم سے جب کچھ الفاظ اس زبان کے سیکھ لیتے ہیں، یا اس علم کے گفتگو کے چند مسائل حاصل کر لیتے ہیں تو اس زبان اور اس علم میں کتابیں تصنیف کرنے لگے ہیں، اور پھر ان خرافات کو بیان کر کے شائع کر دینے پس سمجھے اس چیز کا علم ابتداء فرانسیسی لوگوں کے بیانات سے ہوا، کیونکہ ان لوگوں کی زبانوں کا سیکھنا اہل انگلستان کے بیان عام طور پر رائج ہے، اور پھر محظوظوں کے بیان پر تعمیق کرنے کا موقع اس وقت ملا جب میں نے فارسی زبان میں ان لوگوں کو اس طرح خیانت کرتے ہوئے پایا۔“

اسکے بعد کہتا ہے کہ :

”لندن میں اس قسم کی بہت سی کتابیں جمع ہو گئی ہیں کہ اب کچھ زمانے کے بعد اہل حق کی کتابوں کا پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔“

رسی ان لوگوں کی یہ بات کہ باطل مضمایں اور قیمع مقاصد کو بھی فضیح و بلعغ عبارت اور الفاظ میں ادا کیا جا سکتا ہے، اس لئے ایسا کلام بھی کلام الہی ہونا چاہئے، سو یہ اعتراض قرآن کریم پر پہنچنے وارد نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ قرآن حکیم شروع سے آخر تک حسب ذیل ستائیں مضمایں کے بیان سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی کوئی طویل آیت ایسی نہ پاییں گے جو ان مضمایں میں سے کسی معنوں سے خالی ہو،

قرآن کریم کے مضمایں :-

① خدا کی صفات کاملہ و کمالیہ، اس کا واحد ہونا، قدیم و ازلی ہونا، ابدی اور قادر ہونا، عالم و سیماع و بقیر ہونا، مشکلم حکیم و خبیر ہونا، خالق السموات والارض ہونا، رحیم ملہ اس بات کی مثالیں دیکھنی ہوں تو آجھکی کے منتشر قین کی کتب کا مطالعہ فرمائیجھے، ان میں اس قسم کی بے شمار مثالیں ملیں گی ۱۲ ترقی

- وَرْحَمْنَ، ہونا، صبور و عادل ہونا، قد و سُنْ دِمْجَى و مُمْيَّزَتْ ہو نا وغیرہ وغیرہ .
- ۲ اَللَّٰهُ تَعَالٰى کا تمام عیوب مثلاً حدوث، بجز، ظلم اور جہل سے پاک ہونا،
- ۳ توحید خالص کی دعوت، اور شرک سے مطلقاً ممانعت، اسی طرح شیشے منع کرنا کہ یہ بھی یقینی طور پر شرک ہی کا ایک شعبہ ہے جیسا کہ آپ کو چوتھے باب سے معلوم ہو چکا ہے،
- ۴ ابْنِيَاءَ عَلَيْهِمُ الْتَّلَامُ کا ذکر اور ان کے واقعات اور قصص،
- ۵ ابْنِيَاءَ عَلَيْهِمُ الْتَّلَامُ کا ہمیشہ بُت پستی اور کفر و شرک سے احتراز کرنا اور محفوظ رہنا،
- ۶ پیغمبروں پر ایمان لانے والے حضرات کی مدح اور تعریف کرنا،
- ۷ ابْنِيَاءَ عَلَيْهِمُ الْتَّلَامُ کے نہ ماننے والے اور بھٹلانے والوں کی ندامت اور قبرانی کرنا،
- ۸ تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کی عموماً تاکید کرنا اور خصوصیت کے ساتھ علیسی علیہ الرَّسُولُ سَلَامٌ پر ایمان لانے کی تاکید،
- ۹ یہ وعدہ کہ ایمان والے انجام کار منکروں اور کافروں پر غالب آئیں گے،
- ۱۰ قیامت کی حقیقت کا بیان، اور اس دن میں اعمال کی جزا کی تفصیلات،
- ۱۱ جنت اور دنخ کا ذکر اور انکے نعمتوں اور عذابوں کی تفضیل،
- ۱۲ دنیا کی ندامت اور اسکی بے شانی اور قانی ہونے کا بیان،
- ۱۳ آخرت کی مدح اور فضیلت اور اسکے دائمی اور پائیدار ہونیکا بیان،
- ۱۴ حلال چیزوں کی حللت اور حرام چیزوں کی حرمت کا بیان،
- ۱۵ تدبیر منزل کے احکام،
- ۱۶ سیاستِ مدینیہ کے احکام،
- ۱۷ اَللَّٰهُ تَعَالٰى کی محبت اور اشرواں کی محبت کی ترغیب اور شوق دلانا،

- ان دسائیں اور ذرائع کا بیان جو کاختی سیکرنے سے انسان کی رسائی^{۱۸}
خدا تک ممکن ہے،
- بد کاروں اور فاسقوں کی صحبت اور ہمہ شیفی سے روکنا اور دھمکانا^{۱۹}،
بد نی عبادتوں اور مالی عبادات میں نیت کو خالص رکھنے کی تاکید کرنا،
ریا کاری اور شہریت طلبی پر وعید،
تہذیب اخلاق کی تاکید، کہیں اجمالی طور پر کہیں تفعیل کے ساتھ،
بُرے اخلاق اور کمیٰ خصلتوں پر دھمکانا، اجمالی طور پر،
اخلاقی حسنہ کی مدح اور تعریف جیسے بد بدی، تو اضع، کرم بُشجت
پاک دامنی وغیرہ^{۲۰}،
بُرے اخلاق کی مذمت جیسے غصہ، تکرر، بخل، بزدی اور ظلم وغیرہ،
نقوای اور پر ہیزگاری کی نصیحت^{۲۱}،
انشد کے ذکر اور اسکی عبادت کی ترغیب^{۲۲}،
- بلاشبہ یہ تمام باتیں عقلی اور نقلی طور پر عمدہ اور مجوہ ہیں، ان مضامین
کا ذکر قرآن میں بکثرت اور بار بار تاکید اور تقریر کے لئے کیا گیا ہے، اگر یہ
مضامین بھی قیچی ہو سکتے ہیں تو پھر معلوم نہیں کہ اچھی بات پھر کونسی ہو
سکتی ہے؟ البتہ قرآن میں مندرجہ ذیل باتیں آپ کو ہرگز نہیں ملیں گی،
بائیل کے خوش مضامین :-
 فلاں پیغمبر نے اپنی بیٹی سے زنا کیا تھا،^{۲۳}

۱۸ مثلاً دیکھئے علی الترتیب فاتحہ، العام، اع، آل عمران ع، صفت ع ۵، نساء ع ۲۲، قصص بغرة ع ۱۶
درع ۱، نساء ع ۷، العام ع ۲۰، المؤمنون ع ۱، نبأ ع ۱، الواقع، عنکبوت ع ۱، العام ع ۲۳، المائدہ ع ۱۴
نساء ع ۵، توبہ ع ۵، آل عمران ع ۳، الصافع ع ۲، النساء ع ۲۰، مجادلہ ع ۱۲، المجرات ع ۲۰
نحل ع ۱۳، آل عمران ع ۱۱، النور ع ۶، تحقیق لئے جیسا کہ پیدا شد ۱۹: ۳۳ تا ۳۶ میں حضرت لوط
علیہ السلام کے بالے میں ہے، عبارت کیلئے دیکھئے کتاب ہذا صفر ۲۳۱ ص ۱ (حاشیہ)

- ۱) یا فلاں بنی نے کسی دوسرے کی بیوی سے زنا کیا، اور اس کے خاوند کو حیلہ اور مکر سے قتل کر دیا،
یا اسٹش کائے کی پوجا کی سختی،
- ۲) یادہ آخر میں مرتد ہو گی سخا اور نہ صرف بُت پرستی اختیار کی بلکہ بُت غانہ بناتے ہیں،
- ۳) یا اُس نے اش پر تہمت اور بہتان رکھا۔ اور تبلیغ، حکام میں دروغگوئی سے کام لیا ہو راپنی فریب کاری سے ایک دوسرے بنی کو غضاضہ داوندی میں مبتلا کر دیا،
- ۴) یا یہ کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دفعوہ باشد، حرامزادوں کی اولاد ہیں، یعنی فارض بن یہودا کی ہے، یا یہ کہ اللہ کے ایک بڑے رسول جو خدا کے بنتے اور انبیاء کے باپ ہیں، ان کے بُتے بُڑ کے نے اپنے باپ کی بیوی سے زنا کیا،
- ۵) اور ان کے دوسرے بیٹے نے اپنے بیٹے کی بیوی سے زنا کیا، مزید یہ کہ حب لہ جیسا کہ ۲۔ سموئیل ۱۱:۲ تا ۱۵ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے،
- ۶) جیسا کہ خروج ۳۲:۲ تا ۶ میں حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں ہے،
- ۷) جیسا کہ ۱۔ سلاطین ۱۱:۶ تا ۱۳ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے،
- ۸) جیسا کہ ۱۔ سلاطین ۱۱:۲۹ تا ۳۹ میں ہے، پوری عبارت کیلئے دیکھئے کتاب ہذا ص ۲۵۳ لمحہ ۱۱ تھے فارض کی اولاد میں سے ہونا متی ۱:۳ میں ہے، اور پیدائش بُت میں ہے کہ یہودا نے اپنی بہو تر سے زنا کیا تھا، جس سے فارض پیدا ہوا ۱۲ تھی
- ۹) اللہ "اللہ کے بڑے رسول" سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے بڑے صاحبزادے کا نام روبن سخا (پیدائش ۲۹:۳۲) اور ان کے باسے میں باشیل کے الہاظیہ ہیں:- "روبن نے جاگر اپنے باپ کی حرم تہباہ سے مباشرت کی، اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا" (پیدائش ۳۳:۳۵)
- ۱۰) دوسرے بیٹے سے مراد یہودا ہیں، جن کے باسے میں پیدائش ۳۸:۱۸ میں تصریح ہے،

اس عظیم اشان بنی نے اپنے دونوں محبوب بیٹوں کو اس حرکت کو شنا،
تو ان کو کوئی سزا نہیں دی، سو ائے اس کے کہ مرتے وقت انہوں نے بڑے
کو اس شیخ حکمت پر بد دعاء دی، اور دوسرے لڑکے کے حق میں قوناڑا صنی
کا بھی اٹھ رہیں کیا، بلکہ مرتے وقت اُسے برکتوں کی دعاء دی گئی۔

⑧

یا یہ کہ ایک دوسرا بڑا رسول جو خدا کا جوان بیٹا ہے، اور جس نے خود دوسرے
شخص کی بیوی سے زنا کیا تھا جب اسکے محبوب بیٹے نے محبوب بیٹی یعنی
اپنی بہن سے زنا کیا اور رسول نے شنا، تو بھی اس کو کوئی سزا نہیں
دی، شاید اس لئے اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ خود بھی زنا میں مبتلا تھا،
اسی حالت میں اس حرکت پر دوسرے کو کیا سزا دیتا؟

بالخصوص اپنی اولاد کو، یہ تمام باتیں یہود و نصاریٰ کو تسلیم ہیں، اور ان
واقعات کی تصریح عہدِ عیتیق کی ان کتابوں میں ہے جو دونوں فرقے
کے نزدیک ستم ہیں،

یا یہ کہ یحییٰ علیہ السلام جسی شخصیت جو عینی علیہ الاسلام کی شہادت کے
مطابق اسرائیلی پغمبروں میں جلیل القدر بنی ہیں (اگر خسرو
شخص آسمان کی بادشاہی میں پھوٹا ہے وہ ان سے بڑا ہے) انہوں
لئے اے رو بن... تو یافی کی طرح بے ثبات ہے، اسیلئے صحیح فضیلت نہیں ملے گی، کیونکہ تو اپنے باپ
کے بستر پر چڑھا، تو نے اُسے بخس کیا، رو بن میرے بچپونے پر چڑھ گیا؟ (پیدائش ۲۹: ۳)

لئے "یہوداہ سے سلطنت نہیں پھوٹے گی..." اور تو میں اسکی مطیع ہوں گی الخ" (پیدائش ۲۹: ۴)

لئے حضرت داؤد علیہ السلام مراد ہیں، باعبل میں آپ ہی کے بارے میں یہ من گھڑت اور شرمناک و قعہ
ذکر کی گی ہے، کہ انہوں نے اسے سپلائر اور ریا کی بیوی سے زنا کر کے اور یا کو مر وا دیا (سموئیل ۱: ۱۱ تا ۱۴)

اور بیٹے امنون نے اپنی بیوی تتر سے بڑی چالبازی کے ساتھ زنا کیا، (سموئیل ۲: ۱۳) ساتھی یہ
بھی مذکور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اسکی اصلاح ہوئی، مگر آپ نے اپنے بیٹے کو کوئی سزا نہیں
دی، صرف خفث ہوئے (۱۳: ۱۲) (حاشیہ ۲۵ صفحہ آئندہ پر)

نے اپنے دوسرے معبود اور رسول بنانے والے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھول تعلق کی بناء پر تیس سال تک پورے طور پر نہیں پہچانا، جب تک یہ معبود اپنے بندے کا مرید نہیں ہو گیا، اور جب تک ان کی جانب سے بیت المقدس کی رسم کی تکمیل نہیں ہوتی، اور جب تک اس دوسرے معبود کے پاس تیسرا معبود کبوتر کی شکل میں نہیں آگیا، اس تیسرا معبود کو دوسرے معبود کے پاس کبوتر کی شکل میں آنا دیکھ کر یحییٰ علیہ السلام کو خداۓ اول کا حکم دیا دیا کہ دوسرے معبود ہی میرا رب اور آسمان و زمین کا خالق ہے۔

یا ایک دوسرے رسول جو اعلیٰ درجے کے چور بھی ہیں اور جن کے پاس چوری کا سختلا بھی تھا، اور جن کا نام نامی، یہودا اشکر یوتی ہے، بے صاحب کرامات

(صفو گزشتہ کا حاشیہ تھے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ارشادی حرف اشارہ ہے:

”جو حورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنًا بتسردی نے دایے سے بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن جو آسمانی بادشاہی میں پھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے“ (رمضان ۱۲: ۱۱)

یہاں ”جو آسمان کی بادشاہی میں پھوٹا ہے“ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ۱۲

لہ صفوہ بڑا کا جاشیہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس ارشاد کی طرف اشارہ ہے:

”میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے آرتے دیکھا ہے اور وہ اس پر پھر گی، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بیت المقدس میں کو بھجا اسی نے مجھ سے کہا جس پر قدر دیکھتے دیکھے مری روح القدس سے بتسردی نے والی ہے، چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے“ (یوحنًا ۳۲: ۳۲ تا ۳۲)

لہ عیسایوں کے یہل کسی سے بیت المقدس لینا اس سے مرید ہونے کے مراد ف ہے، اور متنی بات و یوحنًا ۱۱ میں تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بیت المقدس لیا، اس سے لازم آیا کہ خدا اپنے بندے کا مرید ہو گیا ۱۲

لہ تیسرا معبود یعنی روح القدس ۱۱ ات

لہ بلکہ متنی ۱۱: ۱۱ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی نہیں پہچانا، چنانچہ قید ہونے کے بعد اپنے شاگرد کو بھیج کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پچھوا�ا کہ: آئیوا لا تو ہی ہے یا ہم، دوسرے کی راہ دیکھیں ۱۲ تھی۔

اد میجرز دن والے بھی ہیں، اور حوار میں ہمیں ان کا شمار بھی ہے، اور جو عیسائیوں کے نظر پر کے مطابق حضرت موسیٰ اور دوسرے پیغمبروں سے افضل ہیں، ان صاحب نے اپنادین دنیا کے عوض میں یعنی صرف تیس درہم میں فروخت کر دیا، یعنی اپنے معبود کو یہودیوں کے ہاتھوں سپرد کر دینے اور اس قلیل منفعت کے عوض میں گرفتار کر کر ادینے پر راضی ہو گیا، چنانچہ یہودیوں نے اس کے معبود کو پر ڈکر پھانسی دے دی، شاید یہ منفعت اسکی نگاہ میں ٹھی ہو گی، یعنی وہ پیشہ کے لحاظ سے شکاری اور چورخاما اور مفلوک الحال اور تنگ دست بھی تھا، اگرچہ عیسائیوں کے خیال کے مطابق باہم اوصاف وہ رسول اور صاحب معجزات بھی ہے، یقیناً اسکی نظر میں تیس درہم اسکی پھانسی پانے والے خدا سے زیادہ محظوظ اور قیمتی تھے تھے۔

(صفو گذشتہ کا حاشیہ ۵۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر پر عطر ڈالنے کے واقعہ میں ردیجہ کتاب ہذا صفحہ ۲۹، یوحنانے نقل کیا ہے کہ اختراعن کر نیوالا یہوداہ اسکر یونی تھا اور پھر کہا ہے : "اس نے کچھ تھا اور چونکہ اس کے پاس ان کی بھیلی رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑتا وہ سکال لیتا تھا" (یوحنانہ ۱۲: ۷) نیز ردیجہ صفحہ ۳۰، لہ صفحہ ہذا کا حاشیہ، عیسائی نظر کے مطابق بارہ حواری حضرت مسیح علیہ السلام کے رسول ہیں، ان کے ذمے حضرت عیسیٰ عکے دوبارہ زندہ ہونے کی شہادت اور ان کے پیغام کی نشر و انتشار ہے، اُوگ عیسائیوں کے نزدیک عام پیغمبروں کے مادی ہیں، بلکہ بعض لوگوں کے نزدیک ان سے بھی فضل رتفصیل کیتے ملاحظہ ہو بر طائفیکا، ص ۱۱۸ ج ۲ مقالہ "A POSTLE"

۵۵ مشی ۱۴۰۲ء م و مرقس ۱۰: ۱۰ تا ۳۳ و لو قا ۲۲: ۳ تا ۲۳ و یوحنانہ ۱۳: ۲۰، ۱۸، ۳۶، ۱۳

۵۶ عیسائیوں کا مشہور عالم ڈی کوئنسی (Quincey) یہوداہ اسکر یونی کی اس حکمت کی تادیل کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہوداہ اسکر یونی نے یہ کام خود غرضی کے بجائے اس لئے کیا تھا کہ دہ جماںے خداوند کو اپنی قوت بخات دہندگی برداشتے کار لانے پر مجبور کرے، تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی بچائے اور تمام امت کو بھی بخات دیں، (بر طائفیکا، ص ۱۶۸ مقالہ: JUDAS/SGATOR)

لیکن یہ ایک ایسی تادیل ہے جو نہ صرف یہ کہ عقل کے خلاف ہے بلکہ بائل کی تصریحات بھی اسکی تردید

یا یہ کہ کالفار جو سردار کا ہن تھا، اور حبس کا بنی ہونا یوحننا الجیلی کی شہادت سے ثابت ہے اس نے بھی اپنے معبود کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، اور اس کی تکذیب و تغییر اور اہانت کی تھی۔^{۱۱}

عرض سولی دیئے جانے والے معبود میں تین بیویوں کی جانب سے تین عجیب امور اُقْعَد ہوئے، — اولاً اسرائیلی نبیوں کے سرگردان نے اپنے معبود کو پورے تریتیں سال تک کامل طور پر نہیں پہچانا، جب تک وہ ان کا مرید نہیں ہو گیا، اور تیسرا معبود اس پر کبوتر کی شکل میں نازل نہیں ہو گیا، دوسرے اس معبود کے دوسرا بُنی کا تھوڑی سی منفعت کے لایح میں جس کی مقدار صرف تیس درہم تھی، اپنے معبود کو دشمنوں کے ہاتھ گرفتار کر لادینے، اور اپنے معبود کی محبت پر اتنی قلیل منفعت کو ترجیح دینے پر تیار ہو گیا۔ تیسرا اسی معبود کے تیسرے بُنی نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا اور اس کی تکذیب (باقیہ صفحہ گذشتہ) کرتی ہیں، چنانچہ نو فتا ۳:۲۲ میں ہے "اور شیطان یہوداہ میں سما یا" اور یوحننا ۱۳:۲۶ میں ہے: "اور اس نواہ کے بعد شیطان اس میں سما گیا" اور ۴:۷۰ میں ہے، "تم میں سے ایک شخص شیطان ہے اس نے یہ شمعون اسکریوپی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا، اور اعمال ۱:۱۸ میں ہے: "اس نے بد کاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا" یہ

اس کے علاوہ اگر اپنے آتا کو پکڑ دلتے سے ہی "نیک مقصد" پیش نظر تھا، جو ڈی کو شنیسے حصہ بیان فرماتے ہیں تو اسی روپے کے مول قول کے کیا معنی تھے؟ کیا یہ نیک مقصد بغیر پیسے لئے پورا نہیں ہو سکتا تھا؟ پھر اگر یہ واقعی نیک مقصد تھا تو پھر بعد میں اسکے یہ بات ہونے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کہ میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کیا ہے پکڑ دادیا" (متی ۲۷:۳) اور پھر اپنے آپ کو پھانسی کیوں دی؟ جیسا کہ متی ۲۷:۵ میں تصریح ہے، "تفی رصفہ نہ راجاشیہ تھے کالفار CAIA PNAS" حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سردار کا ہن تھا، یوحنانے نقل کیا ہے کہ: "اس سال سردار کا ہن ہو کر بوت کی کریمیع اس قوم کے واسطے مریگا" (یوحننا ۱۱:۱۵) اس میں اس کے بُنی ہونے کی تصریح پائی جاتی ہے، مگر انجیل میں یہ دافعہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر کاشفا کے پاس لے گئے ہیں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واجب القتل تراہ دیدیا، اور حاضرین نے آپ کے روئے مبارک پر بخواہ، اور

تحفیز کی،

بہر حال ہم خدا سے افسوس کے بڑے عقائیں سے پناہ مانگتے ہیں، جو انبیاء کی طبیعت ہم السلام کی شان میں ردار کھے گئے ہیں، واثقہ شم باشد ہم افسوس کے بھوٹے اعتقاداً انبیاء کے بارے میں نہیں رکھتے، انبیاء علیہم السلام کی پاک ہستیاں ان شرمناک والذات سے پاک ہیں،

رومن کیتھولک کے غیر محتول نظریات | میں نے کہی علیہ السلام کے واقعہ سے لیکر کائف کے حل تک جو کچھ نقل کیا ہے اس کی تصریح عہدِ جرید میں موجود ہے، اسی طرح اس نوع کے دوسرے مصنا میں جن میں ہماری اور دنیا کی عقلیں حیران ہیں قرآن کریم میں کہیں ان کا نام و نشان نہیں ملتا، ان تمام شرمناک باتوں کا معتقد عیاشیوں کا سب سے بڑا اور کثیر التعداد فرقہ کیتھولک ہے، جس کی تعداد بعض پادریوں کے دھوے کے مطابق اس زمانہ میں سبھی دو سو ملین کے برابر ہے، مثلاً :-

- ① مریم علیہا السلام کی والدہ کو بھی بغیر خاوند کی صحبت کے مریض کا حمل رہا، یہ حقیقت ابھی سورہ اعرصہ ہوا عیاشیوں پر منکشف ہوئی ہے،
- ② مریم علیہا السلام کا حقیقتاً خدا کی ماں ہونا،

(گذشتہ سے پیوسرہ "حاشیہ ۲۰" ذیل کیا (دیکھئے مثی ۲۹: ۴۵ و مارکس ۱۳: ۶۳ و لو قا ۲۲: ۱۱)) بعض عیاشی حضرات اس واقعہ کی تاویل دہی کرتے ہیں جو ہم نے یہوداہ اسکریوٹی کے بارے میں بیان کی، لیکن مثی ۶۵: ۲۶ میں تصریح ہے کہ جب حضرت عیلیٰ عن نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا قرار دیا، تو کائف نے کہا کہ : اس نے کفر بکا ہے، اگر عیشیؑ کائف کے نزدیک حق پرست ہے اور صرف ایک اجتماعی مصلحت کی وجہ سے وہ اپنیں قتل کرنا چاہتا تھا تو پھر انہوں نے کافر کیوں قرار دیا؟ ۱۲ ترقی

صفحہ ۳۰ کا حاشیہ لہ بلکہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق تو چار سو ملین سے بھی زیادہ یعنی چھپیں کروڑ تین لاکھ ستاؤں ہزار ہو چکی ہے، (بریانیکا انیشنر بک ۹۵ لو ۲۲) ۲۲ ات

۲۰ یہ تصور تیسرا صدی کے اختتام سے پایا گیا، اور بعد میں اس تصور کو فروع حاصل ہوتا رہا تاکہ

ک حضرت مریمؑ کو مستقلہ "خدا کی ماں" کہا جانے لگا، اس مخلل کے اعتقاد کی پوری تاریخ کے لئے ملاحظہ

۳ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ تمام اطرافِ عالم کے پادری خواہ شمال میں ہوں یا جنوب میں، مشرق میں ہوں یا مغرب میں، سب ایک وقت میں عشاء ربانی کی رسماں انجام دے رہے ہیں، تو کیونکہ عقیدے کے مطابق لازم آتھے کہ کروڑوں روپیں ایک آن میں مختلف مقامات پر اس مسیح میں حلول کر جاتی ہیں جو خدائی اور انسانی دونوں صفتیں میں کامل سمجھی ہے اور کنواری مریم کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے،

۴ ایک روپی کو جب کوئی پادری توڑتا ہے، اگرچہ اس کے ایک لاکھ ملکرے کر دیئے اس کا ہر طکڑا کامل و مکمل طور پر مسیح بن جاتا ہے، اگرچہ وانہ گندم کا پا یا جانا پھر اس کا پیٹا جانا، پھر گوندھا جانا، پھر روپی بننا، پھر طکڑے ہونا، یہ تمام باتیں محسوس اور مشاہد ہیں، مگر عیسیا یگوں کے خیال میں ان کاموں میں قوت حستیہ بیکار اور معطل ہو جاتی ہے،

۵ ہبت اور سورتیں بنانا اور ان کے سامنے سجدہ کرنا لازم اور ضروری ہے،
۶ استف عظیم (پوپ) پر ایمان لائے بغیر بخات ممکن نہیں ہے، اگرچہ وہ واقع میں کیسا ہی بدکار و بد ذات ہے

۷ اس رسم کی تشریح و تفصیل کے لئے دیکھئے ص ۲۲۲ جلد اول کا حاشیہ اور ص ۸۸۲ تا ۸۸۹ جلد ہذا
۸ عشاء ربانی کی تشریح میں شروع ہی سے عیسائی علماء کا شدید اختلاف رہا ہے، اس عقیدے کو آخری شکل سینٹ اکو اشنس (۱۲۲۷-۱۲۶۰ A.D Thomas Aquinas) نے دی ہے،
اواس نے اپنی مشہور کتاب (SUMMA THEOLOGICA) میں تصریح کی ہے کہ روپی کا ہر طکڑا کامل طور پر مسیح جاتا ہے، دیکھئے انسائیکلو پیڈ یا برٹانیکا مقالہ "CHARIST" ص ۹۶، ۷۷
۹ ازالہ الشکوک (ص ۲۹) اول بحوالہ ترجمہ قرآن کریم اذ پوری سیل، مطبوعہ ۱۸۳۷ء، آج بھی آپ ہر کلبیا میں حضرت عیسیٰ اور مریمؑ کی تصویر یہ لٹکی ہوئی پائیں گے جنہیں باقاعدہ سجدہ کیا جاتا ہے ۱۲ اتھ پوپ کے بارے میں کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ حواریوں کے سردار جناب پطرسؑ کا نائب ہے اور وہ تمام اختیارات ہو جناب پطرسؑ کو حاصل تھے اس کو حاصل ہیں، یہاں تک کہ انہیں میں پطرسؑ کے جو وسائل بیان ہوئے ہیں مثلاً یہ کہ وہ مسیح کی بھیڑوں کے گلہ بان ہیں (دیو خاتا ۲۱: ۱۶) یا یہ

روم کا پادری ہی اسقف عظیم بن سکنے پے، اس کے سوا اور کسی کے لئے یہ منصب روا
نہیں ہے، وہی عبادت گاہ (گرجا) کا سردار اور غلطی سے پاک ہے،

روم کا گر جاتا مگر جوں کی اصل اور جڑ ہے، اور سب کا معلم ہے

مغفرت ناموں کی فروخت:

پوپ اور اس کے متعلقین کے پاس زیر دست خزانہ ہے، جو ان کو پاک ہونے
والوں کی جانب سے نذرالنوں کی شکل میں ملتا ہے، ان عطیوں اور نذرالنوں کے عوض میں
پوپ کی جانب سے ان کو مغفرت اوزخشنش عطا کی جاتی ہے، باخصوص اس وقت
جب کہ وہ اس کی گران قیمت لور پوسے پورے دام وصول کر لیں، جس کا ان میں کافی
رواج ہے

پوپ حرام کو حلال کر سکتا ہے:

پوپ عظیم کو حرام چیزوں کے حلال کرنے اور حلال کو حرام بنادینے کے سکھ اختیارات
حاصل ہیں، معلم میخائیل مشائق جو علماء پر ولیث میں سے ہے، اینی کتاب "اجرہۃ
الانجیلیں علی اباضلیل التعلییدین" مطبوعہ بیروت ۱۸۵۲ء میں کہتا ہے:

مگذشتہ سے پیوست کہ وہ کہیا کی چنان ہیں اور ان کے پاس آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں ہیں، (متی ۱۶: ۱۸)
یہ تمام فضائل ہر پوپ پر بھی مسلط آتے ہیں، کیتھولک فرقہ نے پوپ کو جو دو سیع اختیارات دیئے ہیں اور
ان کا جس طرح غلط استعمال کیا گیا اور اس پر جس قدر احتجاج ہوا، اسکی تفصیلی تاریخ کیلئے دیکھئے
برٹانیکا، ص ۱۹۷، ج ۱۷، امتعالہ (PAPACY) مخلعت پاپوں کی بدکاری کا حال معلوم کرنے کے
لئے دیکھئے (واریخ کلیسا شردم ص ۱۳۱، اور CHURCH کی تاریخ کلیسا، ص ۲۵۲)

لئے ان باتوں کی تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو برٹانیکا مقالہ ROMAN CATHALIC PAPACY اور
لئے پادری خور شیر عالم لکھتے ہیں: "مغفرت ناموں کی تجارت عام تھی جس کے باعث انسان بس پڑھا
کو گناہ کا بدل روپیہ دیکھ مزرا سے بری قرار دیا جاتا تھا" تو اسکے تاریخ کلیسا شردم، ص ۱۳۲ (ہور اسٹریٹ)
کے پوپ کو بحیثیت واضح قانون (LAW) اور بحیثیت قاضی، قائم اختیارات ہیں،
برٹانیکا، ص ۲۲۲، ج ۱۸، امتعالہ (POPE)

اُب تم ان کو دیکھو گے کہ وہ چھاکی شادی بھتیجی سے اور ماسوں کا نکاح بھاگنی سے اور کسی شخص کی شادی اپنی صاحب اولاد بھاونج سے کتب مقدسہ کی تعلیم اور ان کے پاک اور مقدس جامیعن کے حکم کے خلاف جائز کرتے ہیں، یہ حرمات ان کے نزدیک اس اوقت حلال اور جائز بن جاتے ہیں جب اس کام کے لئے ان کو رشوت کے طور پر کافی رقم مل جائے، اسی طرح بہت سی پابندیاں اور بندشیں ہیں جو انہوں نے اپنے کیا تھا یہ

اس کے بعد کہتا ہے :

”بہت سی کھانے کی چیزیں ہیں جن کو حرام کر دیا ہے، پھر حرام کردہ کو دوبارہ حلال بنادیا، اور ہمارے زمانے میں ٹڑے روزے کے دن جس کی محرومیت ٹڑے زور شور سے مت بک رہی گوشت کا کھانا جائز کر دیا ہے“

اور کتاب ”تیرہ خطوط“ کے دوسرے خط کے صفحہ ۸۸ میں لکھا ہے کہ :-
”فرانسی کارڈینل زبادیلا کیتا ہے کہ پوپ اعظم کو اسقدر اختیارات حاصل یہیں کہ وہ حرام چیز کو جائز قرار دیدے، اور وہ خداۓ تعالیٰ سے بھی ٹڑا ہے“
”توبہ تو بہ! اللہ تعالیٰ ان کے پیتاں اور الذاہموں سے پاک ہے،“

مردوں کی مختصرت پیسوں سے

(۱۱) صد یقین کی ارادا، مطہر، یعنی جہنم میں عذاب اور تکلیف میں مبتلا اور لہ کارڈینل (CARDINAL) کلیسا کا ایک عہدہ ہے جو پوپ کے ماتحت سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ایک پوپ کے تحت بہت سے کارڈینل ہوتے ہیں جن سے کلیسا کی ہیئت حاکم (SOVEREIGN BODY) تشکیل پاتی ہے، یہی لوگ نے پوپ کا انتخاب کرتے ہیں، اور کلیسا کے نظر و نسخہ کی نگرانی کرتے ہیں بھی اوقات یہ لفظ دوسرے پادریوں پر بھی لول دیا جاتا ہے (برٹیش کالج ۸۵۳ میں مقالہ (CARDS) لہ مطہر (ORGANS OF THE) کے لغوی معنی ہیں، پاک کر نیوالی چیز، لصراحتی حضرات اس لفظ کو جہنم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک جہنم کی آگ انسان کو پاک کرتی ہے ۱۲ ت

اس کی آگ میں دو طوپ پڑ رہتی ہیں، یہاں تک کہ پوپ اعظم ان کو بخشش عطا کرے، یا پادری لوگ اپنی قدسیت کی طاقت سے اسکی پوری قیمت پر وصول کرنے کے بعد ان کو رہائی عطا کریں، اس فتنہ کے لوگ پوپ کے نائبین اور خلفاء سے حصول بخات کے لئے سندیں حاصل کرتے ہیں، مگر ان عقائد وں پر تعجب ہوتا ہے کہ جب یہ اس میجود کے خلقا عسے حصول بخات کی سندیں خرید رہے ہیں کہ جس کا حکم آسمانوں اور زمین میں اور نافذ ہے، تو جو لوگ اس عذاب سے بخات پاتے ہیں ان کی مہر لگی ہوئی ریسیدیں کیوں طلب نہیں کرتے، اور چونکہ پوپ کی قدرت روزانہ روح القدس کے فیض سے برابر بڑھتی رہتی ہے، اس لئے پوپ نے ہم نے مغفرت اور بخشش کے لئے دستا دینے کی تکمیل ایجاد کئے، جو اسکی طرف سے یا اس کے دلیل کی جانب سے اپنی گذشتہ اور آشنا خطاوں اور گناہوں کی مغفرت کے خریدار کو دیتے جلتے ہیں، جس میں حسب ذیل مضمون لکھا ہوتا ہے،

”ہمارا رب میسح یسوع بتجھ پر رحم کرے گا، اور بتجھ کو اپنی رحمت کامل سے معاف کرے گا، اما بعد مجھ کو سلطان الرسل پطرس دیوس اور اس علاقہ کے بڑے بڑے پوپ کی جانب سے جواختیارات دیتے گئے ہیں ان کی بناء پر میں سب سے پہلے تیری خطاوں کو بخشتا ہوں، نواہ کسی بگدان کو کیا گیا ہو، پھر دوسرا تیرے قصوروں کو اور کوتاپیوں کو اگر چہرہ شمار سے زیادہ ہوں، بلکہ آشنا کی لغزشوں کو جنہیں پوپ نے حلال کیا ہے، اور جب تک کنجیاں رومی کلیسا کے ہاتھ میں ہیں میں ان تمام عذابوں کو بخشتا ہوں، جن کا تو مطہری میں مستحق ہونے والا ہے، اور میں مقدس کلیسا کے اسر اس کے اتحاد اور خلوص کی طرف سے تیری رہنمائی کروں گا۔“

لہ قدسات (SUFFRAGES) قلاس کی جمع ہے، ان

دعاؤں اور رسماں کو کہا جاتا ہے جو نظری مذہب میں انسانوں کو گناہوں سے بچانے کے لئے کی جاتی ہے سہ سی پی، ایس کلیرک اپنی تاریخ کلیسا میں کہا گیا ہے کہ اس رسما کی تفصیل بتلتے ہوئے لکھتا ہے، ”اگر لوگ اس غرض کے لئے پیسے دینے کو تیار ہوئے تو جیسے ہی پادری کے صدو قی میں سکون

کے گرنے کی آواز آئی تو مردہ کی دہ رورج جس سے بخات دلانے کے لئے پیسے دینے کے لئے پیس فوراً اسیدھی جنت میں پہنچ

اور بیت المقدس کے بعد تو معصوم ہو جائے گا، یہاں تک کہ جب تو مرے گا تو تجھ پر مذکوبوں کے دروازے بند کر دیئے جائیں گے، اور فردوس کے دروازے تیرے لئے کھول دیئے جائیں گے، اور اگر تجھ کو فی الحال موت دلائی تو پسختش آخری دم تک لپٹنے پرے اثر کے ساتھ تیرے لئے باقی اور قائم رہے گی، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آئین، یہ لکھا گیا ہے بھائی یو خا کے ہاتھ بود کیل دوم کا قائم مقام ہے ۹

(۱۲) پہتے ہیں کہ جہنم زمین کے بیچوں بیچ ایک مکعب خلا ہے، جس کا ہر ضلع دو سو میل لمبا ہے۔

(۱۳) پوپ صلیب کا نشان لپٹنے جو توں پر بناتا ہے، اور دوسرے لوگ اپنے چہروں پر، ملکا پوپ کے جوتے مرتبے میں صلیب سے اور دوسرے پادریوں کے چہروں سے کم نہیں ہیں،

قدیس کرطا فر:

(۱۴) بعض مقدس ہستیاں الیسی ہیں جن کی صورتیں تو کہتے جیسی ہیں، اور جسم، انسانی جسم کی طرح، وہ اللہ کے یہاں بندوں کی شفاعت کریں گے، معلم میخائیل مذکور اپنی مذکوہ کتاب کے صفحہ ۱۱۲ میں کیتھوںک فرقہ پر طعن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:-

یو وہم (X ۱۵ نم) ایک پوپ ہے جسے ۱۳۵۰ھ میں نامزد کیا گیا اور ۱۵۲۱ھ میں اس کا متعلق ہوا، برٹانیہ کا، ۱۷ صفحہ ہنا کا حاشیہ معرفت ناموں کی اسی طرح بہت سی تحریریں تاریخ نہیں ملتی ہیں، پوپ کو پہلے دیکھ گناہ معاف کرائیکی یہ رسم سالہا سال سے بغیر کسی روک ٹوک کے جاری رہی ہے ما سکی دیکھ پ تاریخ کیلئے ملاحظہ فرمائیے: انسائیکلو پیڈیا برٹانیہ کا ج ۱۷۰۵ء مقالہ ۲۷ جون ۱۷۰۵ء میں اس کا متعلق رسم کیا گیا کیسے کہے گھنڈا نے کاموں کا لائنس دیا گیا تھا؟ تاریخ میں اسکے عجیب بجیب واقعات ملتے ہیں لایکر فٹ تاریخ کلیسا میں کہڑے کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ۱۷۱۵ء میں ایک پادری جان ٹیشل (ZELTZE) نے عام اعلان کر دیا تھا کہ اگر کسی عیسائی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو اور وہ پہنچ قوم پوکے معرفت کے صندوق میں ڈال دے تو پوپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں اختیار ہے کہ وہ اسکے گناہ معاف

کر دے، اور اگر پوپ نے گناہ معاف کر دیا تو خدا کو ایسا ہی کرنے پرے گا لٹو شارٹ ہسٹری آف دی چنچ ص ۲۷

”ان لوگوں نے بعض مقدس ہستیوں کا نقشہ اور صوت ایسی فرض کی ہے کہ اس قسم کی صورت اسٹرنے کی خلوق کی نہیں بنائی، مثلاً سرگئے جیسا اور جسم انسان کا سا۔ اس کا نام انہوں نے قدیس خلیلیسطنفورس رکھ چھوڑا ہے، اس کے آگے قسم تم کی عبادتیں کرتے ہیں، اس کے سامنے سمجھے کرتے ہیں، اور اس کے آگے ششیں جلاتے ہیں، خوبصوریں لگاتے ہیں، اسکی شفاعت کی درخواست کرتے ہیں، کیا عیا یا عیا کے لائق ہے کہ وہ گئے کے دماغ میں عقل ہونے کا اعتقاد رکھیں؟ اور اسے بزرگ سمجھیں؟ کہاں یہ فاسد اعتقادات لور کہاں ان کے کینیسوں کی عصمت؟“

اس کا یہ کہنا کہ کیا عیاشی کے لائق ہے ” یہ یقیناً سچا اور صحیح ہے، کیوں کہ عیاشیوں کا یہ قدیس ہندوستان کے بعض مشرکین کے قدیس کے بالکل شبہ ہے، شاید یورپ کے عیاشیوں کا گئے سے والہانہ اور شدید محبت رکھنا اسی لئے ہو، کیوں کہ وہ اس محترم قدیس کے مشکل ہے،
صلیب کی عظمت کیوں؟“

⑤ صلیب کی لکڑی اور ازالی باپ اور بیٹے نیر مردح المقدس کی تصویر دن کو حقیقی

لئے قدیس خلیلیسطنوس (SAINT CHRISTOPHER) نظر ان حضرات اسے اپنی تاریخ کا لامب کردار مانتے ہیں، جس کے اور ازالی میں لاطینی کلیسا ۲۵، جوہنی اور یونانی کلیسا ۹ مارچ کو خاص ترین ادا کرتا ہے، اس کے کردار کے باشے میں مختلف کہانیاں مشہور ہیں، جن میں سے مشہور ترین روایت انسانی کلوبیڈ یا برٹانیکا میں یہ نقل کی گئی ہے کہ ” یہ داصل ایک پشت پرست جن نکھا، جو اپنے سے زیادہ طاقتور آتا کی تلاش میں پھرتا تھا، کچھ دنوں پہلی، کنغان کے پاس رہا، مگر چونکہ وہ جنات سے ڈرتا تھا اور یہ صدیبے، اسیلئے دنوں میں بھاگوڑہ ہو سکا، یہ شاہ کنغان کے پاس سے چلا آیا، اور پھر ایک راہب نے اسے عیاشی بنالیا، عیاشی ہم کر اس نے نماز روزے کے بجائے خدمتِ خلق کے کام میں لگنا پسند کیا، اور ایک ایسے دیبا کے کھانے پر رہنے والگا جس پر پول نہیں تھا، جب بھی کوئی سافروہاں سے گزرتا ہے اسے اپنی پشت پر لاد کر دوسرے کھانے پہنچا دیتا، ایک روز ایک چھوٹے سے بچے نے اس سے دوسرے کھانے کی فرماںش کی، چاچھے یہ سب محوں میں کندھے پر

عبدوت والا سجدہ کیا جاتا ہے، اور قدیم لوگوں کی تصویر وں کو سجدہ تعظیمی کیا جاتا ہے، میں یہ رون ہوں کہ پہلی قسم کی تصویر وں کے سجدہ عبادت کا مستحق ہونے کے کیا معنی ہیں؟ اسی کے صلیب کی لکڑی کی تعظیمیں یا واس نئے ہے کہ اس جیسی لکڑی میسح کے جسم سے مس ہوتی تھی، اور ان کے خیال کے مطابق میسح اس پر لٹکائے گئے تھے یا پھر اس نئے کردہ لکڑی ان کے کفارہ بننے کا ذریعہ ہوئی، یا اس نئے کہ آپ کا نون اس لکڑی پر بہا تھا۔ اب اگر پہلی وجہ ہے تو عیاشیوں کے نظریہ کے مطابق گدھوں کی ساری قوم صلیب سے زیادہ معبد ہونے کے لائق اور افضل ہے، کیونکہ مسیح اسلام گدھے اور پھر پر سوار ہوا کرتے تھے، ان دونوں کو بھی آپ کے جسد مبارک سے مس ہونے کا ثرف حاصل تھا ملکہ انہوں نے تو آپ کو راحت پہنچائی، اور بیت المقدس تک لے جانے کی خدمت انجام دی تھی، اور گدھا ان کے سامنے جس قریب اور حیوانیت میں شریک بھی ہے، اس نئے کہ گدھا بھی جسم نامی حاس متحرک بالارادہ ہے، بخلاف اس لکڑی کے کہ جس میں کسی قسم کی حس اور حرکت کی قدرت موجود نہیں ہے،

اور اگر دسری وجہ ہے تو یہودا اسکریوپی تعظیم کا زیادہ مستحق ہے، کیونکہ میسح کے قربان ہونے کا دہ سب سے پہلا واسطہ اور ذریعہ ہے، کیونکہ اگر وہ مسیح کو رُکذشتہ سے پیو سنتہ (لا دکر چلا آدھے ناتے پر پھوپخ کر اسے اسقدر زبردست بوجھ محسوس ہوا کہ وہ لٹکھڑا نہ لگا، جوں توں کرنے کے اس نے بچے کو کناتے پر پہنچایا، اور اس سے کہ: "اگر میں سدھی دنیا کو پشت پر لاد لیتا تب بھی مجھے اتنا بوجھ محسوس نہ ہوتا، جتنا تھے اُنھا کر محسوس ہوا ہے" اس پہنچے نے جواب دیا کہ "تجھ کی کوئی بات نہیں تم نے صرف دنیا کو نہیں بلکہ دنیا کے پیدا کرنے والے کو بھی پشت پر اٹھایا تھا" کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد جب نسٹھ میں ڈیشیس (DEEIS) نے عیاشیوں پر نظم ڈھائے تو اسے بھی مار دیا، (یہ تمام تفصیل بر طائفی کا ج ۶۲ صفحہ: CHRISTOPHER) میں موجود ہے، عیاشیوں نے اس بچے کی کہانی پر ایمان لائک اس قدیس کا ایک محیب ہمیت کا بُت بن اچھوڑا، اور ہر سال اسکی یاد میں خاص ترمیم منانے لگئے، اگر کوئی اس انسانیت سوز حرکت پر احتیاج کرے تو وہ "مخدود" بدعتنی، اور اگل میں جملانے

یہود کے ہاتھ گرفتار نہ کرنا تو یہودیوں کے لئے مسیح علیہ السلام کو پکڑ کر رسولی دینا ممکن نہ ہوتا ، دوسرے مسیح علیہ السلام کے ساتھ انسانیت کے وصف میں برابر ہے ، اور انسانی صورت و شکل پر بھی ہے جو ائمہ کی صورت ہے ، نیز وہ روح القدس سے "بھرا ہوا" صاحبِ کلامات و مجنزرات بھی تھا ، کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایسا زبردست واسطہ جو پہلا واسطہ ہے وہ تو ان کے نزدیک ملعون ہے ، اور ایک چھوٹا ناساطہ مبارک اور معظم ہے ،

اور اگر صلیب کو مقدس مانتے کی تیسری وجہ ہے تو وہ بھئے ہوئے کانتے جو مسیح کے سر پر تاج بنے ہوئے تھے وہ بھی اس اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے ہیں ، یعنی ان پر بھی مسیح علیہ السلام کا خون گرا ہے ، پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی تعظیم اور عبادت نہیں کی جاتی ؟ بلکہ ان کو آگ میں جلا کر جاتا ہے ، اور اس نکڑتی کی تعظیم کی جاتی ہے ، سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ یہ بھی ایک بھی ہے تسلیت کے سمجھھ میں نہ آنے والے بھیہ کی طرح ، اور جس طرح مسیح میں حلول کر جانا انسانی عقولوں کے ادراک سے خارج ہے ، اس سے زیادہ فحش بات باپ کی تھویر کی تعظیم کرنا ہے ، کیونکہ آپ کو باپ کے مقدمہ کی تیسری اور پوختی خصوصیت کے بیان میں معلوم ہو چکا ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ مشاہد سے بری اور پاک ہے لکھنے اس کو کسی نے دیکھا ہے اور نہ دنیا میں کسی کو اس کے دیکھنے کی قدرت ہے ، تو پھر کون سے پوپ نے اس کو دیکھا ہے ؟ جو اس کی تصویر بنانے کا امکان ہو سکے ، اور پیات کے معلوم ہوئی کہ یہ تصویر خدا کی صلی صورت کے مطابق ہے ، اور کسی شیطان کی صورت یا کسی کافر کی صورت کے مطابق نہیں ہے ۔

لئے اشارہ ہے پیدائش ۱:۲ کی طرف ، جس میں کہا گیا ہے کہ "خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا" ۔

لئے انجیل مثی میں ہے : "اور کائنوں کا تاج بنانے کے سر پر رکھا ، اور ایک سرکنڈا اس کے داہنے ہاتھ میں دیا" (رمضان ۲: ۲۹) ۔

لئے یہ خدا کی تصویر بنانا کسی پڑانے نے کی بات نہیں ہے ، آج کے مہندب دور میں امریکے "تہذیب ترین" رسالے لائل نے حال ہی میں "بائل نمبر" شائع کیا ہے ، جس میں خدا کی کئی تصویریں دکھائی گئی ہیں اور وہ تمام تصویریں اپنے مصور دن کی گھٹیا ذہنیت کا جیتا جاگتا بثوت ہیں دیکھئے لائے شمارہ

پھر یہ لوگ ہر انسان کی عبادت کیوں نہیں کرتے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، اس لئے کہ فوریت کی تصریح کے مقابلے انسان خدا کی شکل لئے ہوئے ہے، تعجب ہے کہ پوپ چاہ اس وہی پھر کی صورت کو تو سجدہ کرتے ہیں، جس میں نہ حس ہے نہ حرکت، اور اس کی بنائی ہوئی صورت یعنی انسان کی تو ہیں اور تحریر تحریر نہیں ہیں، کہ اس کے آگے پانے پاؤں پھیلا دیتے ہیں کہ وہ ان کے جو تون کو دوسرا دے میرے نزدیک ان اہل کتاب اور ہندوستان کے مشترکین کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں ہے، اور اس عبادت میں ان کے خواہ مشرکین کے عوام کی طرح اور ان کے خواص مشترکین کے خواص کی طرح ہیں، ہندوستان کے مشترکین اہل علم کبھی اپنی ثبت پرستی کے لئے اسی قسم کے عذر پیش کرتے ہیں، اہل کتاب کا حق صرف پوپ کو ہے:

(۱۱) پوپ کتابوں کی تفسیر و تشریح میں سب سے بڑی اتفاقارثی ہے ایسے عقیدہ آخر زمانے میں گھٹا گیا ہے، ورنہ اگر پہلے بھی یہ عقیدہ رائج ہوتا تو آگستین اور کریزوسٹم جیسے مفسروں نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا سکتے، کیونکہ نہ تو وہ پوپ سخنے، اور نہ انہوں نے اپنے زمانے کے پاؤں سے تغیر لکھنے کی اجازت حاصل کی تھی، اور ان کی تفسیر میں اُس زمانے کے کلیساوں میں بہت مقبول ہوئی، غالباً بعد کے پاؤں نے ان تفسیروں کے مطالعے کے بعد ہی یہ منصب حاصل کیا ہے،

(۱۲) اسقفوں اور شماموں کو نکاح کی اجازت نہیں دی گئی، اسی لئے وہ لوگ وہ

لئے دیکھتے پیدائش ۱:۱۷،

ملہ شamas (DEACON) اُسے اردو باشیل میں "خادم" کا نام بھی دیا گیا ہے (فلپیوں ۱:۱، اور اتیکیس ۳:۸ تا ۱۳) یہ کلیسا کا ایک چہدہ ہے، جو اسقف (بشب) سے نیچے ہوتا ہے، قدیم کلیساوں میں ان لوگوں کے یہ فرائض تھے کہ کلیسا کی مملوکات کی دیکھ بھال کریں۔ بیماروں، شیموں، بیواؤں اور غریبوں کی مردکریں، جب ہسپیتال اور دوسرے رفاهی ادارے وجود میں آگئے تو یہ رذایہ کام ان کے سپرد کر دیئے گئے، آخر دوسری میں ڈیکن کا عہدہ اُس شخص کو دیا جانے لگا جو پادری بننے کا امیدوار ہو، ان کے فرائض بھی رسوم ادا کرتے اور انجیل کی تلاوت تک محدود کر دیئے

کام کرنے چیز جو شادی شدہ لوگ ہنسی کر سکتے، ان کے بعض معلمین نے پاپاؤں کے اس اجنبی ادا کا مقابلہ کیا ہے، میں اُن کے بعض اقوال کتاب ثلاث عشرہ رسالت کے دوسرے رسالے ص ۲۳۱ و ۲۵۱ سے نقل کرتا ہوں، فَلِیسْ بِرْ بَرْ دُوْسْ غَرْلُ الْغَرْلَاتْ نے لغہ نمبر ۶ کے ذیل میں کہتا ہے:

اُن لوگوں نے کلیسا سے نکاح کی شریف رسم کو اڑا دیا، اور وہ ہمیستری جو کردرت اور میل سے پاک تھی اس کو بطرف کر دیا، اس کے بجائے خواب گامیں کوڑا کوں، ماڈیں بہنوں کے ساتھ زنا کاری سے ملوث کر ڈالا، اور ہر قسم کی گندگیوں سے بھر دیا، اور فاروس سے ہیلا جیوس جو پر تکحال کے علاقے کا ساتھ میں بشپ رہا ہے، کہتا ہے کہ کیا اچھا ہوتا کہ کلیسا والے پاک دامتی کی نذر نہ مانئے، بالخصوص اندرس کے اہل کلیسا اس قسم کی پابندی عائد نہ کرتے، اس نے کر عیت کی او لا د اس علاقے میں راہبوں اور پادریوں کی او لا د سے شمار میں کچھ ہی زیادہ ہے، اور پندرہویں صدی کا استقف جان سالٹز برگ کہتا ہے کہ میں نے بہت تھوڑے راہب اور پادری پلائے ہیں جو عورتوں کے ساتھ کثرت سے حرامکاری کے عادی نہ ہوں، اور راہب عورتوں کی خالقا ہیں رہنڈیوں کے چیکلوں کی طرح حرامکاری کے اڈے بنی ہوئی ہیں۔^۱

بھلا پادریوں اور راہبوں کے بارے میں پاک دامتی کا تصور ایسی حالت میں کیونکر ممکن ہے جب کہ وہ لوگ بخیرت شراب نوشی کرتے ہیں، اور نوجوان بھی ہوں، اور جب کہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا روبن اس لعنت سے نہ پنج سکا، کیونکہ اسٹرا پنے والد کی باندی بلہاں سے زنا کیا، اور نہ ان کا دوسرا بیٹا بہوداہ، جس نے اپنے بیٹے کی بیوی سے زنا کیا، اور نہ ہی داؤ د علیہ السلام جنہوں نے باوجود بہت سی مستکوحر بیویوں کے اور بیکی بیوی

ST BERNARD

BISHOP PELAGE BOLAGIUS

JONH SATTZ BOURG

سے زنا کیا، اور نہ ہی لوٹ علیہ السلام اس شیع فعل سے محفوظارہ کے جنحوں نے شرب کے لئے میں اپنی دل حقیقی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا، وغیرہ وغیرہ^{۱۰}، پھر جب عیاشیوں کے عقیدے کے مطابق نبیوں اور ان کے بیٹوں کا حرام کاری اور زنا کاری میں یہ ریکارڈ ہے، تو پادریوں کی پاک دامنی کی کیا توقع کی جاسکتی ہے؟ پسچی بات تو یہ ہے کہ فاروس بیان جوں اور جان دونوں اس بیان میں پڑھے ہیں کہ اس علاقے میں رعیت کی اولاد رہا ہیوں اور پادریوں کی اولاد سے کچھ ہی زیادہ ہے، اور یہ کہ راہب عورتوں کی خالقا ہیں زندگیوں کے چکلوں کی طرح زنا کاری کی گندگی سے بھری ہوئی ہیں،

اب مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ قرآن کریم میں اگر اس قسم کے مضامین صیانتی لوگ موجود پڑتے تو شاید وہ اس کو اشہد کا کلام تسلیم کر لینے اور قبول کر لیتے، اس لئے کہ ان کے محبوب اور دل پسند مضامین تو یہی ہیں، نہ کہ وہ جو قرآن نے بیان کئے ہیں، مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ان کے من پسند اور مرغوب صفت میں سے قطعی خالی ہے تو ایسے قرآن کو کس طرح قبول کر سکتے ہیں؟ رہے وہ بعض مضامین جو قرآن نے جنت دوڑخ کے سلسلے میں بیان کئے ہیں جن کو عیاشی لوگ قبیح فزار دیتے ہیں اس کا ذکر مع جواب کے انشاء اللہ تعالیٰ تیرے اعتراض کے ذیل میں کروں گا،



۱۰ یہ سب قصہ باشیل میں مذکور ہیں، حوالوں کے لئے دیکھئے اسی جلد کے صفحہ ۱۰۷۸، کے حواشی ۲

قرآن کریم نے بائیل کی مخالفت کی ہے

دوسرا اعتراض

یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم نے بعض مقامات پر عہدِ جدید و عہدِ قدیم کی کتابوں کی مخالفت کی ہے اس لئے وہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا،
پہلا جواب:

چونکہ ان کتابوں کا سلسہ سند متصل اپنے مصنفوں تک ثابت نہیں ہو سکتا اور نہ یہ ثابت ہو سکا کہ یہ کتابیں الہامی ہیں، ادھر یہ بھی ثابت ہے کہ ان کتابوں میں خود بے شمار مقامات پر آپس میں معنوی اختلاف پایا جاتا ہے، اور لیقینی طور پر یہ شتم غلطیوں سے بھری ٹھی ہیں، جیسا کہ آپ کو پہلے باب سے معلوم ہو چکا ہے، اسی طرح ان کتابوں میں تحریف کبھی ثابت ہو چکی ہے، جیسا کہ دوسرے باب سے معلوم ہو چکا ہے، تو پھر قرآن کریم کا بہت سے مقامات پر ان کے مخالفت ہونا کوئی مضر نہیں ہے بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان مقامات میں غلطیاں ہیں، یا پھر تحریف کی گئی ہے جس طرح دوسری افلاط اور تحریفات موجود ہیں، جن کا پیان پہلے دو بالوں میں ہو چکا ہے اور اس باب کی پہلی فصل کی چوتھی خصوصیت میں واضح ہو چکا ہے کہ قرآن کریم کی یہ مخالفت ارادی اور قدری ہے، اسی سے یہ جتنا مقصود ہے کہ قرآن کے خلاف جو کچھ ہے، یا غلط ہے، یا تحریف شدہ ہے، یہ بات نہیں کہ یہ مخالفت سہوا ہوئی ہو۔

دوسراء جواب:

عیاشی پادری قرآن کریم اور بائیل کے درمیان جو مخالفتیں بیان کرتے ہیں وہ تین قسم کی ہیں: اول منسوخ احکام کے لحاظ سے، دوسرا کردہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بعض واقعات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور دونوں عہد ناموں میں

ملے کہ قرآن نے سابقہ کتب کے احکام کو منسوخ کر دیا،

نہیں پایا جاتا، تیرتے قرآن کے بعض بیان کردہ حالات ان کتابوں کے بیان کئے ہوئے
حوال کے مخالف ہیں،

ان تینوں لحاظ سے عیاشیوں کا قرآن پر طعن کرنا محض بے چا اور بے معنی ہے،
اول اعتبار سے اس لئے کہ آپ تیرتے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ نسخ قرآن کے نہ
مخصوص نہیں ہے، بلکہ کثرت سے پھیلی شریعتوں میں پایا جاتا ہے، اور اس میں کوئی مجال
عقلی نہیں ہے، چنانچہ عیشی علیہ السلام کی شریعت نے سوائے نو احکام کے تمام
احکام کو منسوخ کر دیا، یہاں تک کہ توریت کے مشہور دش احکام بھی منسوخ کر دیئے
گئے، اور عیاشی نظریہ کے مطابق اس میں تکمیل واقع ہوتی، اور تکمیل بھی ان کے خیال
کے مطابق نسخ ہی کی ایک قسم ہے، لہذا یہ احکام بھی اس لحاظ سے منسوخ ہی
کہلائیں گے، اس کے بعد کسی عقلمند مسیحی کے لئے اس لحاظ سے قرآن پر طعن کرنے
کی مجال باقی نہیں رہی،

دوسرے لحاظ سے بھی اعتراض نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ عہد نامہ جدید
میں بہت سے قہتے وہ ذکر کئے گئے ہیں جن کا ذکر عہد نامہ قدیم کی کسی کتاب میں نہیں
ہے، میں ان میں سے صرف تیرہ فصوں کو بیان کرنے پر اتفاق ہا ہوں،



عہدِ جدید کے وہ واقعات

جن کا ذکر عہدِ قدیم میں نہیں ہے،

پہلا شاہد:

یہودا کے خط کی آیت نمبر ۹ میں:

”لیکن مقرب فرشتہ میکائیل نے مولیٰ عکی لاش کی بایت ابلیس سے بحث دیکھار کرتے وقت لعن طعن کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی حراثت نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے طامت کرے“

اس میں میکائیل علیہ السلام کے شیطان کے ساتھ جس بھگڑے کا ذکر ہے اس کا کوئی پتہ نشان عہدِ قدیم کی کسی کتاب میں نہیں ملتا،

دوسراستاہد:

اسی خط کی آیت نمبر ۱۳ میں ہے:

”ان کے بارے میں حنوك نے بھی جو آدم سے ساتوں پشت میں تھا یہ پیشینگوئی کی تھی کہ دیکھو! خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا، تاکہ سب آدمیوں کا الفصافت کرے، اور سب یہ دینوں کو ان کی بے دینی کے ان کاموں کے سبب جو انہوں نے بے دینی سے کئے ہیں ان سب پنجتہ باقاعدہ کے بیب سے عجب لئے دین گنہگاروں نے اسکی مخالفت میں کہی ہیں قصور وار ظھرا شے“

حضرت حنوك علیہ السلام کی اس پیشینگوئی کا بھی عہد نامہ قدیم کی کسی کتاب میں تذکرہ نہیں ہے،

تیسرا شاہد:

عبرانوں کے نام خط کے باب ۲۱ آیت ۲۱ میں ہے:

”اور وہ نظارہ ایسا ڈرائی ناخفا کر گئی۔ نہ کہا کہ میں نہایت ڈرتا ہوں اور کاپنا ہوں“

ان جملوں میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ کتاب خروج کے باب ۱۹ میں بیان کیا گیا ہے، مگر اس میں حضرت موسیٰؑ کا یہ جملہ کہیں مذکور نہیں، اور نہ عہدِ قدیم کی کسی اور کتاب میں اس کا ذکر ہے،

چھٹا شاہد:

شیخ تھیس کے نام دوسرے خط کے باتی آیت نمر ۸ میں ہے: ”جس طرح نتیس اور یہریں نے موسیٰؑ کی مختلف کی تھی راسی طرح یہ لوگ مجھی حق کی مخالفت کرتے ہیں،“

مخالفت کے جس واقعے کی طرف اس عبارت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ کتاب خروج کے باب ۷ میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان دونوں ناموں کا کہیں کوئی نشان نہیں ہے، نہ اس باب میں اور نہ کسی اور باب میں، اور نہ عہدِ عقیق کی کسی اور کتاب میں پا پچوان شاہد:

شرکتھیوں کے نام پہلے خط کے باب ۱۵ آیت ۶ میں ہے، ”یہر پاچھو سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں، اور بعض سوگھے“

پاچھوآدمیوں کو نظر آتے کا یہ واقعہ نہ تو چاروں انجیلوں میں سے کسی میں موجود ہے، اور نہ کتاب اعمال میں، حالانکہ لوفا اس قسم کی باتیں بیان کرنے کا یہ حدائق ہے،

چھٹا شاہد:

کتاب اعمال بانٹ آیت نمر ۵۳ میں ہے:

”اود خداوندیوں کی باتیں باد رکھنا چلے گئے، کہ اس نے خود کہا: دینا یعنی سے مبارک ہے“

حضرت مسیح علیہ السلام کے اس ارشاد کا چاروں انجیلوں میں کہیں کوئی نشان نہیں،

سوانح شاہد :

اینجیل متنی کے پہلے باب میں حضرت مسیح علیہ السلام کا نسب بیان کرتے ہوئے جو نام ذکر کئے گئے ہیں ان میں زربابل کے بعد داشتے ناموں کا کوئی ذکر عہد قدیم کی کسی کتاب میں نہیں ہے،

آنھواں شاہد :

کتاب اعمال باب آیت نمبر ۲۳ میں ہے:

”اوْرَجِبَ وَهُ قَرِيبًا جَا لِيْسَنْ بَرْسَ كَاهْوَانْوَاسَ كَهْ جِي مِيْسَ آيَا كَهْ مِيْسَ اپَنْتَنْ بَجاْيُونْ بَنْيَ اسْرَائِيلَ كَاحَالَ دَنْجِيْوُنْ، چِنْخِنْهَ اونَ مِيْسَ سَعْيَهْ كَهْ كَاسَ كَهْ جَاهِيْتَ كَيِ، اوْرَهَرِيَ كَوْمَارَ كَرْظَلَوْمَ كَا بَلَهْ لِيَا، اُسَ نَهْ تَوْخِيَالَ كَيَا كَهْ مِيرَهْ بَجاْيُونْ سَمْجَهَ لِيِسَ گَهْ گَهْ خَلَهِ مِيرَهْ بَا تَهْوُنْ اَنْهِيْسَ چِهْكَارَادَهْ گَهْ مَگَرَوَهْ نَسْمَجَهَ، چَهْرَ دَوْسَرَهْ دَنَ وَهْ اَنَ مِيْسَ سَعْيَهْ دَوْرَهْ کَهْ پَاسَ آنْكَلَا، اوْرَ يَهْ كَهْهَهْ نَكَرَ اَنْهِيْسَ صَلَحَ کَرَنَهْ کَيِ تَرْغِيْبَ دَيِ کَهْ تَلَهْ جَوَانَوَ بَاتَمَ تَوْجَهَنِيَ بَجاْيُونْ ہَوَ، بَكِيُونْ اَيْكَ دَوْسَرَهْ پَرْظَلَمَ کَرَتَهْ ہَوَ؟ لَيْكَنْ جَوَانِهْ پَرْدَسَیِ پَرْظَلَمَ کَرَ رَهَا تَهَا اُسَ نَهْ يَهْ كَهْ کَرَ اُسَهْ هَشَارِيَا کَهْ بَجَهَهَ کَسَ نَهْ ہَمَ پَرْحَاکَمَ اوْرَ قَاضِيِ مَقْرَرَ کَيَا؟ کَيَا تَوْجَهَهَ بَجَهِیِ

نَهْ (صفحو گذشتہ کے حاشیے تاں ہو صفحہ پذپار) تاں انجیل میں حضرت عیینی علیہ السلام کے بارے میں یہ مذکور ہے کہ وہ ایک مرتبہ انتقال کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے حواریوں کو دکھائی دیتے تھے، مگر پانچ سو لاکھیں تذکرہ نہیں، گیارہ کا ہے، چنانچہ مفسر آزادے ناکس نے اس کا اعتراف کیا ہے، اور پھر یہ تاویل کی ہے کہ چونکہ حضرت عیینی علیہ السلام اور پطرس کو بار بار دکھائی دیتے ہیں، اس لئے پولنے ہر مرتبہ کو الگ شمار کر لیا رتفییر شہزادہ جدید ص ۱۶۷، لیکن یہ ایسی تاویل ہے جسے کسی کی عقل قبول نہیں کر سکتی ۱۲ الفی

سلکہ نفرانی حضرات اسکی تاویل کر کے کہتے ہیں کہ یہ متنی ۱۰:۸ کی طرف اشارہ ہے جس میں ہے کہ ”تم نے مفت پایا، مفت دینا“ مگر یہ نہ تاویل ہے، ایسے لئے کہ دونوں جملوں میں ہر افرقہ ہے، چنانچہ آزادے ناکس اپنی تفسیر میں اس کا اعتراف کرتے ہو رکھتا ہے: ٹیار شادستجو کے باوجود چاروں

قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل اُس مصری کو قتل کیا تھا؟ ر آیات ۲۳ تا ۲۸

یہ واقعہ کتاب خروج میں بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعض بائیں کتاب اعمال میں زیادہ ہیں، جن کا ذکر کتاب خروج میں نہیں ہے، خروج کی عبارت یہ ہے :

لتنے میں جب موسمی ٹباہ ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا، اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی، اور اُس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے، پھر اُس نے ادھر ادھر نگاہ نگاہ کی، اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اُسے ریت میں چھپا دیا، پھر دوسرے دن باہر گیا، اور دیکھا کہ وہ عبرانی آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں، تب اس نے اُسے جس کا قصور تھا کہ تو اپنے ساتھی کو کیوں مارتا ہے؟ اُس نے کہا مجھے کس نے ہم پر حالم یا مصنف مقرر کیا؟ کیا جس طرح تو نے اُس مصری کو مار دالا مجھے بھی مار دالنا چاہتا ہے؟ (آیات ۱۲ تا ۱۳)

نواف شامد:

اول یہوداہ کے خط کی آیت ۶ میں ہے :

”اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا، بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا ان کو اس نے داشتی قید میں تاریکی کے اندر سوز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے“

دوسری شامد:

اول یہی بات پطرس کے دوسرے خط باب آیت ۳ میں ہے :

”کیونکہ جب اے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا، بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک فارون میں ڈال دیا، تاکہ عدالت کے دن تک حرast میں رہیں“

فرشتوں کے بارے میں یہ بات جسے یہوداہ اور پطرس کی طرف منسوب کیا گیا ہے، عہد نامہ قدیم کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، بلکہ ظاہراً یہ بھوٹ ہے، کیونکہ بظاہر ان قید میں ڈالے ہوئے فرشتوں سے مراد شیاطین ہیں، حالانکہ شیاطین بھی ابدی اور دائمی قید میں نہیں ہیں، جیسا کہ کتاب ایوب کے باب انجلیل مرقس باب آیت

نمبر ۲ پیطرش کے پہلے خط باہم آیت نمبر ۸ اور دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے،
گیارہوں شاہد:

عربی ترجمے کے مطابق زبور نمبر ۱۰۲ اور دوسرے زجوں کے مطابق زبور نمبر ۹۰ اکی آیت نمبر ۸ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کے بارے میں مذکور ہے:
«اُنہوں نے اس کے پاؤں کو بیٹھ ریوں سے ڈکھ دیا، وہ لوہے کی زنجروں میں جگہ اڑا ہے»

حضرت یوسف علیہ السلام کے قید ہونے کا واقعہ کتاب پیدائش کے باب ۳۹ میں ذکر کیا گیا ہے، مگر اس میں یہ بات ذکر نہیں کی گئی، دییے سبھی قیدی کے لئے ان یادوں کا ہمیشہ ہو ناضر دری نہیں، اگرچہ اکثر ہوتی ہیں،

پارہوں شاہد:

کتاب ہو سیع باب ۱۲ آیت ۴ میں ہے:

«ہاں وہ فرشتے سے کشی لڑا، اور غالب آیا، اس نے روکر مناجات کی:»

حضرت یعقوب علیہ السلام کی کشی کا یہ قصہ کتاب پیدائش کے باب ۳۲ میں مذکور ہے لیکن اس میں کہیں آپ کا روکر مناجات کرنا مذکور نہیں ہے،

تیرہوں شاہد:

انجیل میں جنت ددوڑخ، فیامت، اور دہان پر اعمال کی جزا اور سزا کا بیان مختصر ہے موجود ہے، لیکن اُن چیزوں کا کوئی نشان موسیٰ علیہ پاخوں کتابوں میں نہیں ہے ان کتابوں میں فرمائیں برداروں کے لئے دینی فائدے کے وعدهوں اور نافرمانوں کے لئے دینی نقصانات کی دھمکیوں کے سوا کوئی دوسرے مضمون نہیں، دوسرے مقامات کا

سلسلہ تم ہو شیار اور بیدار ہو، مختاراً مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کسی کو پھاڑ کھٹے ہے اس میں ابلیس کا آزاد ہونا مذکور ہے، دوسری آیتوں سے بھی اسی طرح اسکی آزادی معلوم ہوتی ہے ۱۲

۱۲ پوری عبارت کیلئے دیکھئے ص ۸۶۸ جلد ہذا، ۱۲،

۱۲ دیکھئے میں ۱۲: ۲۵ و ۲۲: ۳۱ دلوقا ۱۶: ۲ و پیترس ۲: ۲۳ و مکاشفہ ۱۰: ۱۶ دیغزہ،

بھی یہی حال ہے ،

ہمارے اس بیان سے ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی واقعہ کسی کتاب میں ذکر کیا گیا ہو اور اس سے پہلی کتابوں میں مذکور نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا کتاب مجموعی ہے ورنہ ابخیل کا مجموعہ ہونا لازم ہے گا، کیونکہ وہ ان احوال پر مشتمل ہے جو نہ توریت میں مذکور ہیں، اور نہ عہدہ عینق کی کتاب میں، لہذا ضروری نہیں کہ پہلی کتاب ساتھے حالات کو حاوی اور محيط ہو، دیکھئے؛ آدم و شیث اور آنسو کی تمام اولاد کے نام اور ان کے احوال توریت میں موجود نہیں ہیں، اور دی آٹی اور رچرڈ مینٹ کی تفسیر میں کتاب الطین دوم کے باب کی آیت ۲۵ کی شرح کے ذیل میں یوں کہا گیا سکے :

”اس رسول یونس کا ذکر سوائے اس آیت کے اور اُس مشہور پیغام کے جو نینتوی والوں کے نام تھا اور کہیں نہیں پایا جاتا، اور کسی کتاب میں یہ مذکور ہے کہ حضرت یونس نے یہ عالم کے بارے میں کوئی پیشینگوئی کی تھی حسین کی بناء پر بادشاہ پر عالم نے شام کے سلاطین کے خلاف جنگ کی جراحت کی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انبیاء کی بہت سی کتابیں ہمارے پاس موجود نہیں، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ انبیاء نے بہت سے پیش آنے والے وعوادت کی نسبت کوئی خبر نہیں دی یہ“

لہ مثلاً کتاب خروج میں ہے ”اگر تو پسح پسح اسکی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کرے تو میں قیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہونگا“ (خرود ۱۲۳: ۲۲) اور کتاب اجہار میں ہے: اور اگر تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کر بلکہ میرے عہد کو نظر تو میں بھی تھا کے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت تپ دتی اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا“ (اجہار ۲۶: ۱۵۱ و ۱۶۰)، تقریباً تمام تواریخ میں یہی حال ہے فرمابرداری کے فائدے کے لئے مزید دیکھئے خروج ۱۹: ۵ و اجہار ۳: ۲۶، استثناء ۳: ۸ و ۱۱: ۷۹

اور نافرمانیوں کے نقصانات کیلئے ملاحظہ ہو : استثناء ۸: ۱۱ و ۴۸: ۱۱ و غیرہ ۱۲

لہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شاہ یہ عالم کو شام کے بعض علاقوں پر جو قلمبہ حاصل ہوا ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی پیشینگوئی کے مطابق تھا، مگر یونس کی ایسی کوئی پیشینگوئی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، دی آٹی اور رچرڈ مینٹ اسی کی وجہ بیان کر رہے ہے ۱۲ تھی

یہ قول صاف طور پر ہمارے دعوے پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح انجیل یوحنا کے باب ۲۰ کی آیت نمبر ۳ میں ہے کہ :

”اوہ یوسف نے اور بہت سے مجرمے شاگردوں کے سامنے دکھائے، جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے۔“

اور یوحنا باب ۲۱ آیت ۲۵ میں ہے :

”اوہ بھی بہت سے کام ہیں جو یوسف نے کئے، اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھنا ہوں کہ جو کتاب میں تکھی جاتیں اُن کے لئے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی۔“

یہ قول اگرچہ شاعرانہ مبالغہ سے خالی نہیں، مگر اس سے یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تمام حالات ضبط تحریر میں نہیں آکے، لہذا قرآن پر جو شخص دوسرے لحاظ سے طعن کرتا ہے اس کا حال ایسا ہی ہو گا جیسا پہلے اعتبار سے طعن کرنے والے کا۔

تیرے لحاظ سے بھی قرآن پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ قسم کے اختلافات خود عہد نامہ قدیم کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، اسی طرح انجیلوں میں بعض کا بعض سے اختلاف ہے یا انجیل اور عہدِ عتیق کے درمیان بے شمار اختلافات ہیں، جیسا کہ پہلے باب کی تیسرا فصل میں معلوم ہو چکا ہے، یا جیسے وہ اختلاف جو توریت کے تین نسخوں یعنی عبرانی، یونانی اور سامری میں موجود ہے، بعض اختلافات کا علم آپ کو دوسرے باب سے ہو چکا ہے، مگر پادریوں کی عادت ہے کہ وہ اکثر ادعا ناواقف مسلمانوں کو اشیہ کے ذریعے مغلطے میں ڈالتے ہیں، اس لئے بعض مزید اختلافات کا ذکر کر نامناسب ہے، چونکہ اس من غلطیم الشان فائدے کی توقع ہے اس لئے تھوڑی سی تطویل کی پرداہ نہیں کی جائے گی،

پہلا اختلاف : آدم کی پیدائش سے طوفان نوح تک عبرانی نسخے کے اعتبار سے ۱۹۵۶ء سال

لہ یعنی یہ اعتراض کہ قرآن میں بہت سے طبقات باطل کے خلاف ہیں ۱۴ تقریباً

لہ موجودہ ترجم آئندہ تمام اختلافات میں عبرانی نسخے کے مطابق ہیں، جہاں کہیں اس کے خلاف ہو گا وہاں حا

کی مدت ہے، اور یونانی نسخے کے اعتبار سے ۲۲۶۲ سال اور سامری نسخے کے لحاظ سے ۱۴۰ سال،

دوسرہ اختلاف:

طوفانِ نوحؐ سے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش تک عبرانی نسخے کے اعتبار سے ۲۹۲ سال اور یونانی نسخے کے لحاظ سے ۱۰۷۰ سال اور سامری نسخے کے اعتبار سے کل ۹۳۲ سال ہوتے ہیں،

تیسرا اختلاف:

یونانی نسخے میں ارث شد اور صالح کے درمیان صرف ایک بطن یعنی قینان کا فصل ہے، مگر عبرانی اور سامری نسخوں میں اسی طرح کتابت فواریخ اول ہی نیز تاریخ یوسفیس میں یہ درمیانی واسطہ نہیں پایا جاتا، لیکن توقاً بھیلی نے یونانی نسخے پر اعتماد کیا ہے، اور مسیح کے نسب میں قینان کا اضافہ کیا، اس لئے عیا یوں پر لازم ہے کہ وہ یونانی نسخے کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھیں، اور دوسرے نسخوں کے غلط ہونے کا تکان کیا جھوٹا ہونا لازم نہ آئے گا،

چھوٹا اختلاف:

ہیکل، یعنی مسجد کی عمارت کا مقام عبرانی نسخے کے مطابق کوہ عیبال ہے، اور سامری نسخے کے موافق کوہ جرزیم ہے، ان اختلافات کا حل چونکہ دوسرے باب میں آپ معلوم کرچکے ہیں، اس لئے اس کی توضیح میں زیادہ طوالت کی حاجت نہیں ہے،

بائب کے نسخوں کے مزید اختلافات

پاپخوار اختلاف:

آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مسیح کی ولادت تک عبرانی نسخے کے لحاظ سے لہ تفصیل کیلئے عدیجھے ص ۱۱ جلد ہنا، دیاں ہم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یونانی نسخے کے لحاظ سے کل مدت

چارہزار سال کی مدت ہے، اور یونانی نسخے کے مطابق پانچہزار آٹھ سو ہشت سال، اور سلمی نسخے کے لحاظ سے چارہزار سات سو سال ہوتے ہیں، ہری اور اسکاٹ کی تغیری کی جلد اول میں لکھا ہے:

”ابنیز نے یوسفیس کی تاریخ اور یونانی نسخے کی غلطیوں کو درست کرنے کے بعد تاریخ شروع کی، اس کی تاریخ کے مطابق ابتدائے عالم سے میسیح کی ولادت تک پانچہزار چار سو گیارہ سال کی مدت ہے، اور طوفان سے ولادت میسیح تک یعنی ہزار ایک سو چھین سال“ چارلس روچ نے اپنی کتاب میں جس کے اندر انگریزی ترجیح کا موازنہ کیا ہے، ابتدائے آفریش سے ولادت میسیح تک کی مدت کے بیان میں مورخین کے پچھن قول بیان کئے ہیں، اسی طرح ۱۸۲۱ تک کی مدت میں بھی، پھر اس نے اقرار کیا کہ ان میں سے دو قول بھی ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہیں، اور صحیح کا غلط سے امتیاز محال ہے، میں اُس کے کلام کا ترجمہ نقل کرتا ہوں، اور صرف میسیح کی ولادت کے بیان پر استفادہ کروں گا، یکون تم اس کے بعد کی مدت میں مورخین کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے:-“

نمبر شمار	مورخین کے نام	میسیح تک کا زمانہ	آدم سے ولادت	میسیح تک کا زمانہ	مورخین کے نام	آدم سے ولادت	نمبر شمار
۱	لاریوس سکوتوس	اراذس ربن ہولٹ	۹	۳۱۴۲	اراذس ربن ہولٹ	۳۰۲۱	
۲	لارنٹ پوس کودو ماوس	جیکوبوس کیپالوس	۱۰	۳۱۳۱	جیکوبوس کیپالوس	۳۰۰۵	
۳	ٹومالید پٹ	ارتھ بشپ اشر	۱۱	۳۱۰۳	ارتھ بشپ اشر	۳۰۰۳	
۴	میکائیل مستلی نوس	دیونی سیوس پیتا دیوس	۱۲	۳۰۶۹	دیونی سیوس پیتا دیوس	۳۹۸۳	
۵	جی پیٹر رک کیپوس	بشب پک	۱۳	۳۰۶۲	بشب پک	۳۹۷۳	
۶	جیک سلیانوس	گرن زیم	۱۴	۳۰۵۳	گرن زیم	۳۹۷۱	
۷	ہری کوس پوندرالوس	ایلی اس ریوس نیوس	۱۵	۳۰۵۱	ایلی اس ریوس نیوس	۳۹۷۰	
۸	ولیم لینک	جوہانیس کلادریوس	۱۶	۳۰۴۱	جوہانیس کلادریوس	۳۹۶۸	

نمبر شمار	مورخین کے نام	تبریز شمار	آدمی سے ولادت تیج تک کا زمانہ	مورخین کے نام	آدمی سے ولادت تیج تک کا زمانہ
۱۷	گریپتیانوس لونکر مونشانوس	۲۲	۳۹۶۶	۳۹۲۷	میتھوس پروں دیوس
۱۸	فلپ ملا تختون	۲۳	۳۹۶۴	۲۸۳۶	اندریاس ہل دی کیوس
۱۹	جیک ہین لی نوس	۲۴	۳۹۶۳	۳۸۶۰	یہودیوں کا مشہور قول
۲۰	الفون سوس سال مرون	۲۵	۳۹۵۸	۳۰۰۳	عیسائیوں کا مشہور قول
۲۱	اسکی بیکر		۳۹۳۹		

اُن میں سے کوئی سے ڈائقول بھی ایک درستے کے مطابق نہیں ہیں، اب جو شخص کسی وقت اس میں غور کرے گا وہ سمجھے گا کہ یہ عجیب بڑا ٹیرہا معاملہ ہے، مگر ظاہر یہ ہے کہ مقدس مورخین نے کسی وقت بھی بیارادہ نہیں کیا کہ تاریخ کو نظم کے ساتھ لکھیں اور نہ اُس وقت کسی شخص کے لئے بھی اُس دور کی صحیح مت جانتے کے امکانات موجود ہیں، مورخ چارلس روچر کے اس بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں اس کا پتہ چلاتا کہ اس دور کی صحیح مت کیا ہے؟ محال ہے، اور عہدِ عتیق کے مورخین نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے، وہ سب اندازے اور ترتیبیں کے سوا کچھ نہیں ہے، پھر یہودیوں کے بیان عام طور پر جو مت مرتضی جسے ہے وہ عیسائیوں کی مردو جسے مت کے خلاف ہے،

اب داشمن ناظرین فیصلہ کریں کہ اگر قرآن کریم ان کی کسی مقدس تاریخ کی مخالفت کرے جن کا حال آپ دیکھ جکے ہیں، تو ان تاریخوں کی بناء پر ہمیں قرآن کے بیان میں کوئی خلک نہ ہو گا، خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسائیوں کے مقدس بزرگوں نے اس باب میں غلطی کی ہے، اور محسن قیاس اور ترتیبی سے جو چاہا لکھ دیا ہے، اس مخصوص جب کہ تاریخ عالم کی دوسری کتابوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان مقدس لوگوں کی تحریر اس معاطلے میں قیاس اور ترتیبی سے زیادہ نہیں ہے، یہی وجہ

ہے کہ ہم اس قسم کے کمزور اقوال در�ايات پر اعتقاد نہیں کرتے۔ علامہ تقی الدین مقریزیؒ اپنی کتاب کی جلد اول میں خفیہ ابن حزم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:-

”ہم لوگ یعنی مسلمان کسی معین اور خاص عدد پر یقین نہیں کرتے، اور جن لوگوں نے سات ہزار سال یا کم و بیش مدت کا دعوای کیا ہے، انہوں نے ایسی بات کہی ہے جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بھی یقینی اور صحیح منقول نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس کے بر عکس منقول ہے، بلکہ ہم اس پر یقین کرتے ہیں کہ دنیا کی مدت کا صحیح علم انشہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ما اشهد تهم خلق السموات والارض دلائل
الفس فهو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافر مان ہے کہ ”تم لوگ گذشتہ امتون کے مقابی میں سیاہ بیل کے جسم میں ایک سفید بال، یا سفید بیل کے جسم میں ایک سیاہ بال سے زیادہ نہیں ہو“، جو شخص اس نسبت پر عذر کرے، اور پھر مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ کرے، اور پھر دنیا کے ان بے شمار مالک کا جو مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، وہ خوب سمجھ سکتا ہے کہ واقعی دنیا کی صحیح عمر اور مدت کا علم انشہ کے سوا کسی کو نہیں ہے“

ہملا بھی یعنیہ یہی خیال ہے،

چھٹا اختلاف : یہ نجیار بیوان حکم جود شہر حکموں کے علاوہ ہے، سامری نسخے میں پایا جاتا ہے مگر عبرانی نسخے میں ندارد ہے،

سالوں اختلف :

کتاب خروج کے باب ۲ آیت ۷۴ عبرانی نسخے میں اس طرح ہے کہ:-

لَهْ دِيْكَهْتَهْ التَّحْكِيمَ الْمَقْرِيزِيَّ، ص جلد اول طبع لبنان، تھے یعنی: ”میں نے مذاہیں آسمان دزیں کی تخلیق کا گواہ بنایا ہے، اور نہ خود اُن کی اپنی تخلیق کا“ ۱۷ تھے دیکھئے صفحہ ۹، جلد ہذا،

”اور بنی اسرائیل کو مصروف بود و باش کرتے ہوئے چار سو تیس برس ہوئے تھے“
اور سامری اور یونانی نسخے میں یوں ہے کہ :-

”بنی اسرائیل اور ان کے باپ رادا کو مصر اور کنعان میں بود و باش کرتے ہوئے
چار سو تیس سال ہوئے تھے“

اور صحیح وہی ہے جو ان دونوں نسخوں میں ہے، اور عبرانی نسخے کی بیان کردہ مدت یقیناً
غلط ہے،

امکھواں اختلاف :

کتاب پیدائش عبرانی نسخے کے باپ کی آیت ۸ میں اس طرح ہے :-
”اور قائل نے اپنے بھائی ہابیل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں
ہوا الحز“

یونانی اور سامری نسخے میں یوں ہے کہ :-

”قاشق نے اپنے بھائی ہابیل سے کہا، اور ہم کھیت میں چلیں، اور جب دونوں کھیت
کو روانہ ہوئے تو یوں ہوا الحز“

محققین کے نزدیک یونانی اور سامری نسخہ ہی درست اور صحیح ہے :

نوال اختلاف :

کتاب پیدائش عبرانی نسخے کے باپ آیت ۷ میں ہے کہ :-

”اور چالینگ دن نہک زمین پر طوفان رہا“

یونانی نسخے میں یوں ہے کہ :-

”اور طوفان زمین پر چالینگ دن رات رہا“

صحیح نسخہ یونانی ہی ہے،

دسوال اختلاف :

لہ اٹھارالحق کے تمام عربی نسخوں میں یہ عدد اسی طرح مذکور ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے، کتاب کے
انگریزی ترجمے نے یہاں ”چار سو تیس“ کے بجائے ”چار سو بیس“ کا ذکر کیا ہے، اور یہی درست ہے ۱۲ تقری

کتاب پیدائش عبرانی نسخے کے باب ۲۹ آیت ۸ میں یوں ہے کہ:

”جب تک کہ سب ریوڑ جمع نہ ہو جائیں“

اور سامری اور یونانی شخوں میں اونکنی کاٹ نیز، ہمرو بی گینٹ کے عربی ترجمے میں اس طرح ہے کہ:

”ہیاں تک کہ چڑا ہے اکٹھے ہو جائیں اور صحیح وہی ہے جو ان کتابوں میں ہے کہ جو عبرانی میں ہے“

گیارہواں اختلاف:

کتاب پیدائش عبرانی کے باب ۲۵ آیت ۲۳ میں ہے کہ:-

”اور روبن نے جا کر اپنے باپ کی حرم بلہاہ سے مباشرت کی اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا“

اور یونانی نسخے میں یوں ہے کہ:-

”روبن سویا اپنے باپ کی باندی بلہاہ کے ساتھ، پس اسرائیل نے شنا، اور وہ اپنے باپ کی نگاہ میں بٹا تھا“

اور صحیح نسخہ یونانی ہے،

سارہواں اختلاف:

کتاب پیدائش یونانی نسخے میں یہ جملہ موجود ہے کہ (باب ۲۳ آیت ۵)

”جب تم نے میرا پیارہ چڑایا“

یہ جملہ عبرانی شخوں میں موجود نہیں ہے، اور صحیح وہی ہے جو یونانی نسخے میں ہے،

پیرہواں اختلاف:

کتاب پیدائش عبرانی نسخے کے بانٹ آیت ۲۵ میں یوں ہے کہ:

”سو تم صردار ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا“

اور یونانی اور سامری شخوں میں ہے:

”پھر تم میری ہڈیاں اپنے ساتھ یہاں سے لے جانا“

لہ اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے ص ۶۲۵، جلد ہذا،

پجود ہواں اختلاف :

کتاب خروج یونانی نسخے کے بابت آیت ۲۲ میں یہ عبارت ہے کہ:-

"اوایک دوسرا لٹکا جنا، اور اس کو علزار کے نام سے یہ کہہ کر پچارا کہ میرے باپ کے جو دنے میری مدد کی، اور مجھ کو فرعون کی توار سے بچایا یا"

یہ عبارت عبرانی نسخے میں نہیں ہے، اور یونانی نسخے کی عبارت صحیح ہے، عربی مترجمین نے بھی اس کو اپنے ترجموں میں داخل کیا ہے،

پسند ہواں اختلاف :

کتاب خروج عبرانی نسخے کے بابت آیت ۲۰ میں یہ ہے کہ،

"اُس عورت کے اس سے ہارون اور موسیٰ پیدا ہوئے"

اور سامری اور یونانی نسخوں میں اس طرح ہے:-

"اوہ اُس عورت سے ہارون اور موسیٰ اور ان کی بہن مریم پیدا ہوئے"

سامری و یونانی نسخہ ہی صحیح ہے
سو ہواں اختلاف :

کتاب لکنتی ترجمہ یونانی کے بابت آخر آیت ۶ میں یہ عبارت ہے کہ:-

"اور جب تیسری پھونک ماریں گے تو مغربی خیمے روانی کے لئے اٹھائے جائیں گے اور جب پوتھی پھونک ماریں گے تو شمالی خیمے روانی کے لئے اٹھائے جائیں گے"

یہ عبارت عبرانی نسخے میں موجود نہیں ہے، اور یونانی نسخے کی عبارت صحیح ہے،

ستر ہواں اختلاف :

کتاب لکنتی سامری نسخے کے بابت آیت ۰۱ اسکے درمیان یہ عبارت ہے:-

لہ عبرانی نسخے میں آیت ۲۲، اس عبارت پر ختم ہو گئی ہے، اور اس کو ایک بیٹا ہوا اور موسیٰ نے اس کا

نام بھر سوم یہ کہہ کر رکھا کہ میں اپنی ملک میں مسافر ہوں، لہ یعنی عمران کی بیوی یوکید سے،

لہ چنا پھرزا، تواریخ ۳:۳ میں ایسا ہی ہے: "اور حرام کی اولاد ہارون اور موسیٰ اور مریم" ۱۲ نقی

”خداوند ہمارے خدا نے (موسیٰ علیہ السلام) کو تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے ہو، سواب پھرو، اور کوئی حکم کرو، اور امور یوں کہ کوہستانی ملک اور اسکی آس پاس کے میدان اور (طور کے قطعے) اور نشیب کی زمین، اور جنوبی اطراف میں اور سمندر کے ساحل تک جو کنفیانیوں کا ملک ہے، بلکہ کوہ لبستان اور دریائے فرات تک جو ایک بڑا دریا ہے، چلے جاؤ، دیکھو میں نے ایک ملک (تم کو دیریا ہے) پس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضے میں کرو، جس کی بابت خداوند نے تمہارے پاپ دادا ابراہام اور اصحاب اور یعقوب سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ احسان کو اور ان کے بعد ان کی نسل کو دے گا“

یہ عبارت عبرانی نسخے میں موجود نہیں ہے، مفسر ہارسلی اپنی تفسیر کی جلد صفحہ ۱۴۱ میں کہتا ہے کہ:

”گنتی، سامری نسخے کے باب آیت ۱۰ اور اس کے درمیان جو عبارت موجود ہے وہ سفر استثناء باب آیت ۶، ۷، ۸ میں پائی جاتی ہے، اس کا اکٹھاف پر وکوبیں کے زمانے میں ہوا“

اٹھارہواں اختلاف:

کتاب استثناء عبرانی نسخے کے باب آیت ۹ میں یہ عدالت موجود ہے:

”پھر بنی اسرائیل بیروت بنی یعنیان سے روانہ ہو کر موسیٰ میں آئے، وہیں ہاردن نے رحلت کی، اور دفن بھی ہوا، اور اس کا پیٹا الیعزز کہانت کے منصب پر مقرر ہو کر اس کی جگہ خدمت کرنے لگا، دہان سے وہ جد جودہ کو اور جد جودہ

لے یہ عبارت ہم نے استثناء ۱: ۸، ۷، ۶ سے نقل کی ہے، مگر اس میں قویین کی عبارت کی جگہ یہ عبارت ہے ”حرب میں ہم سے یہ کہا تھا؟“ تھے استثناء: ”اور پہاڑی قطعہ،“ تھے استثناء: ”تمہارے سامنے کر دیا ہے،“ ۱۲ نتیٰ تھے مگر استثناء کے یہ الفاظ کہ: ”خداوند ہمارے خدا نے حرب میں ہم سے یہ کہا تھا؟“ اس بات کی دلیل میں، ان آیتوں میں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ حرب میں بہت پہلے نازل ہو چکا تھا، لہذا یہ حکم گنتی میں موجود ہونا چاہیے، اس لئے سامری نسخہ یہاں صحیح معلوم ہوتا ہے ॥

سے یوں طبیات کو چلے، اس ملک میں پانی کی ندیاں ہیں، اس موقع پر خداوند نے لاوی کے قبیلہ کو اس عرض سے الگ کیا کہ وہ خداوند کے عہد کے مصروف کو ہٹھایا کرے، اور خداوند کے حضور کھڑا موکر اس کی خدمت کو انجام دے، اور اس کے نہم سے برکت دیا کرے جیسا کچھ تک ہوتا ہے۔ (آیات ۲۸ تا ۳۱)

یہ عبارت گنتی کے بات کے مخالف ہے، گنتی میں راستے کی مزابر کی تفصیل اس سے بہت مختلف بیان کی گئی ہے، اور سامری نسخہ نے کتاب الاستثناء میں صحی گنتی ہی کی موافق تک ہے، گنتی کی عبارت مندرجہ ذیل ہے:

«اد رحشتو نے چل کر موسرودت میں ڈیرے کھڑے کئے، اور موسرودت سے روانہ ہو کر بنی یعقوب میں ڈیرے ڈالے، اور بنی یعقوب سے چل کر حورہ جد جاد میں خینہن ہوئے، اور حورہ جد جاد سے روانہ ہو کر یوں طبیات میں خیسے کھڑے کئے، اور یوں طبیات سے چل کر عبرون میں ڈیرے ڈالے، اور عبرون سے چل کر عصیون جابر میں ڈیکھا، اور عصیون جابر سے روانہ ہو کر دشت صین میں ہو فادرس ہے قیام کیا، اور قادس سے چل کر کوہ ہون کے پاس جو ملک ادم کی حضرت ہے خیمه نہ ہوئے، یہاں ہارون کا ہن خداوند کے حکم کے مطابق کوہ ہور پر چڑھ گیا۔ اور استنبت بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کو چالیسویں برس کے پانچ سو ہفتے میں ہیئتی تاریخ کو دیں دفاتر یافی، اور جب ہارون نے کوہ ہون پر وفات پائی تو وہ ایک سوتیش برس کا سخنا، اور عزاد کے کنغانی بادشاہ کو جو ملک کنغان کے جنوب میں رہتا تھا، بنی اسرائیل کی آمد کی خبر ملی، اور اسرائیل کوہ ہور سے کوچ کر کے ضلمونی میں مشہر ہے، اور ضلمونی سے کوچ کے خون میں ڈیرے ڈالے» (آیات ۳۲ تا ۴۵)

آدم کلارک نے اپنی تفسیر کی جلد اول ص ۹، ۱۰، ۱۱ میں کتاب الاستثناء کے دسویں باب کی شرح میں ہمنی کاٹ کی ایک بہت طویل تقریب نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نسخہ سامری کے متن کی عبارت صحیح ہے، اور عبرانی کی غلط، اور چار آیتیں ۱۰، ۱۱ کے درمیان والی یعنی ۱۲ سے ۹ تک اسی مگر محض اجنبی ہیں، اگر ان کو ساقط کر دیا

جائے تب بھی پہترین ربِ عالم رہتا ہے، لہذا یہ آیات کا تب کی غلطی سے اس جگہ لکھی گئیں، جو کتاب الاستثناء کے دوسرے بلب کی تھیں۔ اس تقریر کو نقل کرنے کے بعد اسکی سپرائی پسندیدگی کا انطباق کیا اور کہا کہ:

”اس تقریر کے انکار میں جلد بازی نہیں کرنا چاہئے“

هم کہتے ہیں کہ ان چار آیتوں کے الحاقی ہونے پر خود وہ آخری مجلہ دلالت کرتا ہے جو اٹھویں آیت کے آخر میں پایا جاتا ہے

انہیسوں اختلاف :

کتاب الاستثناء عبرانی باب ۳۲ آیت ۵ میں ہے:

”یہ لوگ اس کے سانحہ بڑی طرح سے پیش آئے۔ ان کا عیب ایسا عیب نہیں جو اس کے فرزندوں کا ہو، یہ سب کچھ روادار طیار ہی نسل ہیں“

اور یونانی و سامری نسخوں میں یہ آیت اس طرح ہے:

”یہ لوگ اس کے سانحہ بڑی طرح سے پیش آئے، ایسا اس کے فرزند نہیں، یہ ان کا عیب ہے“

ہنری فاسکات کی تفہیمیں لکھا ہے کہ:

”یہ بارہ اصل کے زیادہ قریب ہے“

منیر ہارسلی جلد اول صفحہ ۲۱۵ میں کہتا ہے کہ:

”اس آیت کو سامری اور یونانی نسخوں کے مطابق پڑھا جائے“

لہ کیتھوک باشل () میں استثناء، ۱۰:۷ کے تحت یہ حاشیہ دیا گیا ہے جس میں لکھا ہے کہ: ”آیات ۷، ۸ کے بارے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تشریحی حاشیہ تھا جو سفروں کے کسی ریکارڈ سے لیا گیا تھا، اور اسکی وجہ شاید استثناء، ۹: ۲۰ کی تشریح کرنے کے لئے ٹھہر دیا گیا“ تھے اس میں یہ جملہ ہے کہ: جیسا آج تک ہوتا ہے ”یہ جملہ بھی اس آیت کے الحاقی ہونے پر دلالت کرتا ہے“ ترقی تھے چنانچہ موجودہ ترجمے یونانی و سریانی لمحے ہی کے مطابق ہیں، ۱۲ ت

اور ہبوبی گینٹ اور کنی کاٹ اور عربی کے متن میں اس مقام پر تحریف کی گئی ہے۔ اور یہ عبارت عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۲۳ء اور ۱۸۲۸ء میں اس طرح ہے:

اتھتوالیه و هو برع من ابناه، اس کی طرف قدم بڑھاؤ، وہ بدی کے فرزندوں القبائح ایها الجیل الاعوج المثلوی، سے بری ہے ای ٹیری اور کجدنسل۔

پیسوں اختلاف:

کتاب پیدائش عبرانی کے بابت آیت ۲ میں یوں ہے:

”اور ابرہام نے اپنی بیوی سارہ کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے، اور جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارہ کو بلا بیا،“

ہنری فاسکات کی تفسیر میں لکھا ہے:

”یہ آیت یونانی نسخے میں اس طرح ہے کہ ”اور کہا اپنی بیوی سارہ کی نسبت کیا ہے“ اور کہا کہ اس کو بیوی کہنے سے اندریشہ ہوا کہ ایسا کہنے سے شہر میری بہن ہے، یعنی کہ اس کو بیوی کہنے سے اندریشہ ہوا کہ ایسا کہنے سے شہر والے اس کو قتل کر دالیں گے، پس فلسطین کے بادشاہ نے پچھ لوگوں کو بیچ کر سارہ کو بلوایا۔“

مذکورہ عبارت کہ ”ان کو بیوی کہنے سے اس امر کا ڈر ہوا کہ اس کی وجہ سے شہروالے اُس کو قتل کر دیں گے“ عبرانی نسخے میں موجود نہیں ہے،

اکیسوں اختلاف:

کتاب پیدائش بابت ۳ اور آیت ۳۶ کے سامری نسخے میں یہ عبارت ہے:

”خداؤنڈ کے فرشتے نے یعقوب سے کہا کہ لے یعقوب! یعقوب نے کہا حاضر ہوں، فرشتے نے کہا، اپنی نگاہ اٹھا اور بکریوں اور دنبوں کو دیکھ، جو بکریوں اور بکریوں کو (مار رہے ہیں) اور وہ ابلق (بچے دالی) اور چتلی ہیں، اور اور جو تجھ لابن نے

لے انہار الحق کے عربی نسخے میں ایسا ہی ہے، مگر کتاب کے انگریزی مترجم نے اس کا ترجمہ مار رہے ہیں“ کی طرف جا رہے ہیں“ سے کیا ہے ۱۲ ملہ بیان انہار الحق میں اصل لفظ ہمہرہ ہے، جس کا ترجمہ احرنے سیاق و سیاق کے مطابق ”بچے والی“ سے کیا ہے، لیکن چونکہ سامری نسخہ ہمارے پاس نہیں

تیرے سانحہ کیادہ تو نے دیکھ لیا میں بیت ایل کا خدا ہوں جہاں تو نے پتھر کو سمع کیا تھا اور میرے لئے نذر مانی تھی:

مگر عبرانی نسخے میں یہ عبارت نہیں ہے،

بائیسوائیں اخلاف:

کتاب خردج نسخہ سامری باب آیت ۴ کے پہلے جملے کے بعد یہ عبارت موجود ہے:

”موسیٰ علیہ فرجون سے کہا کہ خدا کہتا ہے کہ اسرائیل میرے اپہلو شہا ہے، پھر میں نے جوچہ سے کہا کہ میرے بیٹے کو آزاد کر دے تاکہ وہ میری پرستش کرے اور تو نے اس کو آزاد کرنے سے انکار کیا، آنکاہ ہواب میں تیرے جوان بیٹے کو قتل کر دیا گا“

یہ عبارت عبرانی نسخے میں موجود نہیں ہے،

بائیسوائیں اخلاف:

کتاب گنتی عبرانی کے باب ۲۲ کی آیت ۷ میں اس طرح ہے:

”اس کے چرسوں سے پانی بہے گا، اور سیراب کھینتوں میں اس کا نیچ پڑے گا، اس کا بادشاہ اجاج سے بڑھ کر ہو گا، اور اسکی سلطنت کو عزوج حاصل ہو گا“

اور یونانی نسخے میں یوں ہے کہ:

”اور اُس سے ایک انسان ظاہر ہو گا جو بہت سی قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کی سلطنت اجاج کی سلطنت سے سمجھی بڑی ہو گی، اور اسکی بادشاہت بلند ہو گی“

چھو بیسوائیں اخلاف:

کتاب اجار عبرانی کے باب ۹ آیت ۲۱ میں یہ جملہ موجود ہے:

”موسیٰ علیہ حکم کے مطابق“

اُس کے بچنے یونانی اور سامری نسخوں میں یہ جملہ ہے:

”جیسا کہ حکم دیارب نے موسیٰ علیہ حکم کو“

لہ یہ عربی سے ترجمہ ہے، سامری نسخہ دستیاب نہیں ہے ۱۶ ترقی

پچھیسوائی اختلاف :

کتاب گنتی بُرانی کے باب ۲۶ آیت ۰ ایں اس طرح ہے کہ :
”اسی موقع پر زین نے مٹنہ کھوں کر قورح سمیت، ھ کو بھی نگلی یا اتنا، اور وہ سب عرب
کائناتی تھے“

سامری نسخے میں یوں ہے کہ :

”ادم کو زمین نگل گئی، اور جب کردہ لوگ مر گئے، اور آگ نے قورح کو مع ڈھنی
سو اشخاص کے جلا دیا، تو یہ بڑی عبرت کی چیز ہوئی“

ہنری واسکاٹ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ عبارت سیاق کے مناسب اور زبردست ۱۰۶ کی
آیت ۷۸ کے مطابق ہے،

پچھیسوائی اختلاف :

عیا یثوں کے مشہور محقق لیکلر ک نے سامری اور بُرانی نسخوں کے دریان
پائے چنانے والے اختلافات کا استخراج کر کے انہیں چھل قسموں پر تقسیم کیا ہے :

- ① وہ اختلافات جن میں سامری نسخہ بُرانی سے زیادہ صحیح ہے، ایسے اختلافات گیارہ ہیں،
- ② وہ اختلافات جن میں قریب نہ اور سیاق سامری نسخے کی صحت کا مقتضی ہے، وہ
کل سات اختلافات ہیں،

③ وہ اختلافات جن میں سامری نسخے میں کچھ زیادتی پائی جاتی ہے، ایسے اختلافات کی
تعداد تیرہ ہے،

④ وہ اختلافات جن میں سامری نسخے میں تحریف کی گئی ہے، اور تحریف کرنے والا
محقق اور بڑا ہوشیار تھا، ایسے اختلافات ۱۸ ہیں،

⑤ وہ اختلافات جن میں مضمون کے لحاظ سے سامری نسخہ زیادہ پاکیزہ ہے ایسے اختلافات
دوسرے ہیں،

⑥ وہ اختلافات جن میں سامری نسخہ ماقص ہے، ایسے اختلافات کی تعداد دو ہے،
رنقشہ آئندہ صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

اختلافات مذکورہ کی تفصیل

قسم اول کل گیارہ اختلافات

کتاب سفر و جمیں میں ۱۲ اختلاف	کتاب پیدائش میں ۹ اختلاف
آیت ۷ باب ، و ۳۱۲	آیت ۷ باب ۲و ۳۱۹: ۱۹: ۱۹ و ۲: ۲۰: ۱۴ و ۲۳: ۱۳ و ۲۳: ۱۰ و ۳۲ و ۱۱: ۵۰ و ۳۶ و ۳۹: ۰

دوسری قسم کل ساٹ اختلافات

کتاب استثناء میں ایک	کتاب پیدائش میں چھ
، ۳۲: ۵	۳۹ و ۳۱: ۲۹ و ۳۵: ۲۹ و ۳۱: ۲۹ و ۳۲: ۳۳ و ۳۲: ۳۸ و ۳۱: ۳۷ و ۳۵: ۳۴ و ۳۱: ۳۷ و ۳۶ و ۳۰: ۳۱: ۱۵

تیسرا قسم کل نیزہ اختلافات

کتاب سفر و جمیں میں سات	کتاب پیدائش میں تین
۱۸: ۲۳ و ۲۷: ۵: ۲۰ و ۹: ۵ و ۲۱: ۲۰ و ۹: ۵ و ۲۳ و ۲۷: ۱۸ ۰: ۳۲: ۹ و ۰۳: ۱۰ و ۲۲: ۵	۰: ۳۱: ۱۶ و ۳۰: ۱۳ و ۲۹: ۱۵

له واضح ہے کہ اس نقشے میں پہلا نمبر آیت کا ہے اور دوسرا باب کا، یعنی ۳: کا مطلب یہ ہے کہ ساتوں

کتاب استثناء میں ایک

۵:۲۱

کتاب احیا میں دو

۱۴:۳۱:۱۰

پوچھی قسم سترہ اختلافات

کتاب خروج میں تین

۱۱:۵ و ۱۳:۴ و ۱۵:۵

کتاب گنتی میں ایک

۶:۲۲:۳۲

کتاب پیدائش میں تیرہ

۲:۲ و ۱۰:۳ و ۹:۵ و ۱۰:۱۹ و ۲:۲۱ و ۱۰:۲

۱۱:۳ و ۱۸:۱۲ و ۱۹:۱۲ و ۳۰:۳۸ و ۱۶:۳۸ و ۳۰:۳۸

۵:۵ و ۳۶:۶ و ۳۸:۸ و ۳۶:۴ و ۳۴:۶ و ۳۶:۲ و ۲۳:۵

۶:۳۱:۵۰

پاپخوں قسم کل دس اختلافات

کتاب خروج میں دو

۸:۳۱ و ۱۱:۳۱ و ۱۲:۳۰

کتاب پیدائش میں چھ

۱:۳۲:۳۳ و ۳۳:۳۲ و ۱۹:۱۹ و ۱۱:۳۱ و ۸:۳۱

۶:۳۳:۲۵ و ۳۹

کتاب استثناء میں ایک

۱۶:۲۰

کتاب گنتی میں ایک

۷:۳۰

چھٹی قسم کل دو اختلافات

کتاب پیدائش میں دو

۱۶:۲۰ و ۱۳:۲۵

عیاٹیوں کا مشہور محقق ہورن اپنی تفسیر مطبوعہ ۱۸۲۲ء جلد شانی میں کہتا ہے کہ مشہور محقق لیکلر کے بفرانی اور سامری نسخوں کا بڑی جانفتانی اور تحقیق کے ساتھ مقابله اور موازنہ کیا۔ اور ان مقامات کا استخراج کیا، ان مقامات میں سامری نسخے مقابلہ بفرانی نسخے کے صحت کے زیادہ قریب ہے۔

کوئی شخص بھی گمان نہیں کر سکتا کہ محقق لیکلر کے بیان کردہ اختلافات کی تعداد جو بفرانی اور سامری نسخوں میں پائے جاتے ہیں صرف سائٹھ ہی میں منحصر ہے، اس لئے کہ اختلافات نمبر ۲۵، ۲۴، ۲۲، ۱۰، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۸۱۰، ۱۸۸۱۱، ۱۸۸۱۲، ۱۸۸۱۳، ۱۸۸۱۴، ۱۸۸۱۵، ۱۸۸۱۶، ۱۸۸۱۷، ۱۸۸۱۸، ۱۸۸۱۹، ۱۸۸۲۰، ۱۸۸۲۱، ۱۸۸۲۲، ۱۸۸۲۳، ۱۸۸۲۴، ۱۸۸۲۵، ۱۸۸۲۶، ۱۸۸۲۷، ۱۸۸۲۸، ۱۸۸۲۹، ۱۸۸۳۰، ۱۸۸۳۱، ۱۸۸۳۲، ۱۸۸۳۳، ۱۸۸۳۴، ۱۸۸۳۵، ۱۸۸۳۶، ۱۸۸۳۷، ۱۸۸۳۸، ۱۸۸۳۹، ۱۸۸۴۰، ۱۸۸۴۱، ۱۸۸۴۲، ۱۸۸۴۳، ۱۸۸۴۴، ۱۸۸۴۵، ۱۸۸۴۶، ۱۸۸۴۷، ۱۸۸۴۸، ۱۸۸۴۹، ۱۸۸۵۰، ۱۸۸۵۱، ۱۸۸۵۲، ۱۸۸۵۳، ۱۸۸۵۴، ۱۸۸۵۵، ۱۸۸۵۶، ۱۸۸۵۷، ۱۸۸۵۸، ۱۸۸۵۹، ۱۸۸۶۰، ۱۸۸۶۱، ۱۸۸۶۲، ۱۸۸۶۳، ۱۸۸۶۴، ۱۸۸۶۵، ۱۸۸۶۶، ۱۸۸۶۷، ۱۸۸۶۸، ۱۸۸۶۹، ۱۸۸۷۰، ۱۸۸۷۱، ۱۸۸۷۲، ۱۸۸۷۳، ۱۸۸۷۴، ۱۸۸۷۵، ۱۸۸۷۶، ۱۸۸۷۷، ۱۸۸۷۸، ۱۸۸۷۹، ۱۸۸۸۰، ۱۸۸۸۱، ۱۸۸۸۲، ۱۸۸۸۳، ۱۸۸۸۴، ۱۸۸۸۵، ۱۸۸۸۶، ۱۸۸۸۷، ۱۸۸۸۸، ۱۸۸۸۹، ۱۸۸۸۱۰، ۱۸۸۸۱۱، ۱۸۸۸۱۲، ۱۸۸۸۱۳، ۱۸۸۸۱۴، ۱۸۸۸۱۵، ۱۸۸۸۱۶، ۱۸۸۸۱۷، ۱۸۸۸۱۸، ۱۸۸۸۱۹، ۱۸۸۸۲۰، ۱۸۸۸۲۱، ۱۸۸۸۲۲، ۱۸۸۸۲۳، ۱۸۸۸۲۴، ۱۸۸۸۲۵، ۱۸۸۸۲۶، ۱۸۸۸۲۷، ۱۸۸۸۲۸، ۱۸۸۸۲۹، ۱۸۸۸۳۰، ۱۸۸۸۳۱، ۱۸۸۸۳۲، ۱۸۸۸۳۳، ۱۸۸۸۳۴، ۱۸۸۸۳۵، ۱۸۸۸۳۶، ۱۸۸۸۳۷، ۱۸۸۸۳۸، ۱۸۸۸۳۹، ۱۸۸۸۴۰، ۱۸۸۸۴۱، ۱۸۸۸۴۲، ۱۸۸۸۴۳، ۱۸۸۸۴۴، ۱۸۸۸۴۵، ۱۸۸۸۴۶، ۱۸۸۸۴۷، ۱۸۸۸۴۸، ۱۸۸۸۴۹، ۱۸۸۸۵۰، ۱۸۸۸۵۱، ۱۸۸۸۵۲، ۱۸۸۸۵۳، ۱۸۸۸۵۴، ۱۸۸۸۵۵، ۱۸۸۸۵۶، ۱۸۸۸۵۷، ۱۸۸۸۵۸، ۱۸۸۸۵۹، ۱۸۸۸۶۰، ۱۸۸۸۶۱، ۱۸۸۸۶۲، ۱۸۸۸۶۳، ۱۸۸۸۶۴، ۱۸۸۸۶۵، ۱۸۸۸۶۶، ۱۸۸۸۶۷، ۱۸۸۸۶۸، ۱۸۸۸۶۹، ۱۸۸۸۷۰، ۱۸۸۸۷۱، ۱۸۸۸۷۲، ۱۸۸۸۷۳، ۱۸۸۸۷۴، ۱۸۸۸۷۵، ۱۸۸۸۷۶، ۱۸۸۸۷۷، ۱۸۸۸۷۸، ۱۸۸۸۷۹، ۱۸۸۸۸۰، ۱۸۸۸۸۱، ۱۸۸۸۸۲، ۱۸۸۸۸۳، ۱۸۸۸۸۴، ۱۸۸۸۸۵، ۱۸۸۸۸۶، ۱۸۸۸۸۷، ۱۸۸۸۸۸، ۱۸۸۸۸۹، ۱۸۸۸۸۱۰، ۱۸۸۸۸۱۱، ۱۸۸۸۸۱۲، ۱۸۸۸۸۱۳، ۱۸۸۸۸۱۴، ۱۸۸۸۸۱۵، ۱۸۸۸۸۱۶، ۱۸۸۸۸۱۷، ۱۸۸۸۸۱۸، ۱۸۸۸۸۱۹، ۱۸۸۸۸۲۰، ۱۸۸۸۸۲۱، ۱۸۸۸۸۲۲، ۱۸۸۸۸۲۳، ۱۸۸۸۸۲۴، ۱۸۸۸۸۲۵، ۱۸۸۸۸۲۶، ۱۸۸۸۸۲۷، ۱۸۸۸۸۲۸، ۱۸۸۸۸۲۹، ۱۸۸۸۸۳۰، ۱۸۸۸۸۳۱، ۱۸۸۸۸۳۲، ۱۸۸۸۸۳۳، ۱۸۸۸۸۳۴، ۱۸۸۸۸۳۵، ۱۸۸۸۸۳۶، ۱۸۸۸۸۳۷، ۱۸۸۸۸۳۸، ۱۸۸۸۸۳۹، ۱۸۸۸۸۴۰، ۱۸۸۸۸۴۱، ۱۸۸۸۸۴۲، ۱۸۸۸۸۴۳، ۱۸۸۸۸۴۴، ۱۸۸۸۸۴۵، ۱۸۸۸۸۴۶، ۱۸۸۸۸۴۷، ۱۸۸۸۸۴۸، ۱۸۸۸۸۴۹، ۱۸۸۸۸۵۰، ۱۸۸۸۸۵۱، ۱۸۸۸۸۵۲، ۱۸۸۸۸۵۳، ۱۸۸۸۸۵۴، ۱۸۸۸۸۵۵، ۱۸۸۸۸۵۶، ۱۸۸۸۸۵۷، ۱۸۸۸۸۵۸، ۱۸۸۸۸۵۹، ۱۸۸۸۸۶۰، ۱۸۸۸۸۶۱، ۱۸۸۸۸۶۲، ۱۸۸۸۸۶۳، ۱۸۸۸۸۶۴، ۱۸۸۸۸۶۵، ۱۸۸۸۸۶۶، ۱۸۸۸۸۶۷، ۱۸۸۸۸۶۸، ۱۸۸۸۸۶۹، ۱۸۸۸۸۷۰، ۱۸۸۸۸۷۱، ۱۸۸۸۸۷۲، ۱۸۸۸۸۷۳، ۱۸۸۸۸۷۴، ۱۸۸۸۸۷۵، ۱۸۸۸۸۷۶، ۱۸۸۸۸۷۷، ۱۸۸۸۸۷۸، ۱۸۸۸۸۷۹، ۱۸۸۸۸۸۰، ۱۸۸۸۸۸۱، ۱۸۸۸۸۸۲، ۱۸۸۸۸۸۳، ۱۸۸۸۸۸۴، ۱۸۸۸۸۸۵، ۱۸۸۸۸۸۶، ۱۸۸۸۸۸۷، ۱۸۸۸۸۸۸، ۱۸۸۸۸۸۹، ۱۸۸۸۸۸۱۰، ۱۸۸۸۸۸۱۱، ۱۸۸۸۸۸۱۲، ۱۸۸۸۸۸۱۳، ۱۸۸۸۸۸۱۴، ۱۸۸۸۸۸۱۵، ۱۸۸۸۸۸۱۶، ۱۸۸۸۸۸۱۷، ۱۸۸۸۸۸۱۸، ۱۸۸۸۸۸۱۹، ۱۸۸۸۸۸۲۰، ۱۸۸۸۸۸۲۱، ۱۸۸۸۸۸۲۲، ۱۸۸۸۸۸۲۳، ۱۸۸۸۸۸۲۴، ۱۸۸۸۸۸۲۵، ۱۸۸۸۸۸۲۶، ۱۸۸۸۸۸۲۷، ۱۸۸۸۸۸۲۸، ۱۸۸۸۸۸۲۹، ۱۸۸۸۸۸۳۰، ۱۸۸۸۸۸۳۱، ۱۸۸۸۸۸۳۲، ۱۸۸۸۸۸۳۳، ۱۸۸۸۸۸۳۴، ۱۸۸۸۸۸۳۵، ۱۸۸۸۸۸۳۶، ۱۸۸۸۸۸۳۷، ۱۸۸۸۸۸۳۸، ۱۸۸۸۸۸۳۹، ۱۸۸۸۸۸۴۰، ۱۸۸۸۸۸۴۱، ۱۸۸۸۸۸۴۲، ۱۸۸۸۸۸۴۳، ۱۸۸۸۸۸۴۴، ۱۸۸۸۸۸۴۵، ۱۸۸۸۸۸۴۶، ۱۸۸۸۸۸۴۷، ۱۸۸۸۸۸۴۸، ۱۸۸۸۸۸۴۹، ۱۸۸۸۸۸۵۰، ۱۸۸۸۸۸۵۱، ۱۸۸۸۸۸۵۲، ۱۸۸۸۸۸۵۳، ۱۸۸۸۸۸۵۴، ۱۸۸۸۸۸۵۵، ۱۸۸۸۸۸۵۶، ۱۸۸۸۸۸۵۷، ۱۸۸۸۸۸۵۸، ۱۸۸۸۸۸۵۹، ۱۸۸۸۸۸۶۰، ۱۸۸۸۸۸۶۱، ۱۸۸۸۸۸۶۲، ۱۸۸۸۸۸۶۳، ۱۸۸۸۸۸۶۴، ۱۸۸۸۸۸۶۵، ۱۸۸۸۸۸۶۶، ۱۸۸۸۸۸۶۷، ۱۸۸۸۸۸۶۸، ۱۸۸۸۸۸۶۹، ۱۸۸۸۸۸۷۰، ۱۸۸۸۸۸۷۱، ۱۸۸۸۸۸۷۲، ۱۸۸۸۸۸۷۳، ۱۸۸۸۸۸۷۴، ۱۸۸۸۸۸۷۵، ۱۸۸۸۸۸۷۶، ۱۸۸۸۸۸۷۷، ۱۸۸۸۸۸۷۸، ۱۸۸۸۸۸۷۹، ۱۸۸۸۸۸۸۰، ۱۸۸۸۸۸۸۱، ۱۸۸۸۸۸۸۲، ۱۸۸۸۸۸۸۳، ۱۸۸۸۸۸۸۴، ۱۸۸۸۸۸۸۵، ۱۸۸۸۸۸۸۶، ۱۸۸۸۸۸۸۷، ۱۸۸۸۸۸۸۸، ۱۸۸۸۸۸۸۹، ۱۸۸۸۸۸۸۱۰، ۱۸۸۸۸۸۸۱۱، ۱۸۸۸۸۸۸۱۲، ۱۸۸۸۸۸۸۱۳، ۱۸۸۸۸۸۸۱۴، ۱۸۸۸۸۸۸۱۵، ۱۸۸۸۸۸۸۱۶، ۱۸۸۸۸۸۸۱۷، ۱۸۸۸۸۸۸۱۸، ۱۸۸۸۸۸۸۱۹، ۱۸۸۸۸۸۸۲۰، ۱۸۸۸۸۸۸۲۱، ۱۸۸۸۸۸۸۲۲، ۱۸۸۸۸۸۸۲۳، ۱۸۸۸۸۸۸۲۴، ۱۸۸۸۸۸۸۲۵، ۱۸۸۸۸۸۸۲۶، ۱۸۸۸۸۸۸۲۷، ۱۸۸۸۸۸۸۲۸، ۱۸۸۸۸۸۸۲۹، ۱۸۸۸۸۸۸۳۰، ۱۸۸۸۸۸۸۳۱، ۱۸۸۸۸۸۸۳۲، ۱۸۸۸۸۸۸۳۳، ۱۸۸۸۸۸۸۳۴، ۱۸۸۸۸۸۸۳۵، ۱۸۸۸۸۸۸۳۶، ۱۸۸۸۸۸۸۳۷، ۱۸۸۸۸۸۸۳۸، ۱۸۸۸۸۸۸۳۹، ۱۸۸۸۸۸۸۴۰، ۱۸۸۸۸۸۸۴۱، ۱۸۸۸۸۸۸۴۲، ۱۸۸۸۸۸۸۴۳، ۱۸۸۸۸۸۸۴۴، ۱۸۸۸۸۸۸۴۵، ۱۸۸۸۸۸۸۴۶، ۱۸۸۸۸۸۸۴۷، ۱۸۸۸۸۸۸۴۸، ۱۸۸۸۸۸۸۴۹، ۱۸۸۸۸۸۸۵۰، ۱۸۸۸۸۸۸۵۱، ۱۸۸۸۸۸۸۵۲، ۱۸۸۸۸۸۸۵۳، ۱۸۸۸۸۸۸۵۴، ۱۸۸۸۸۸۸۵۵، ۱۸۸۸۸۸۸۵۶، ۱۸۸۸۸۸۸۵۷، ۱۸۸۸۸۸۸۵۸، ۱۸۸۸۸۸۸۵۹، ۱۸۸۸۸۸۸۶۰، ۱۸۸۸۸۸۸۶۱، ۱۸۸۸۸۸۸۶۲، ۱۸۸۸۸۸۸۶۳، ۱۸۸۸۸۸۸۶۴، ۱۸۸۸۸۸۸۶۵، ۱۸۸۸۸۸۸۶۶، ۱۸۸۸۸۸۸۶۷، ۱۸۸۸۸۸۸۶۸، ۱۸۸۸۸۸۸۶۹، ۱۸۸۸۸۸۸۷۰، ۱۸۸۸۸۸۸۷۱، ۱۸۸۸۸۸۸۷۲، ۱۸۸۸۸۸۸۷۳، ۱۸۸۸۸۸۸۷۴، ۱۸۸۸۸۸۸۷۵، ۱۸۸۸۸۸۸۷۶، ۱۸۸۸۸۸۸۷۷، ۱۸۸۸۸۸۸۷۸، ۱۸۸۸۸۸۸۷۹، ۱۸۸۸۸۸۸۸۰، ۱۸۸۸۸۸۸۸۱، ۱۸۸۸۸۸۸۸۲، ۱۸۸۸۸۸۸۸۳، ۱۸۸۸۸۸۸۸۴، ۱۸۸۸۸۸۸۸۵، ۱۸۸۸۸۸۸۸۶، ۱۸۸۸۸۸۸۸۷، ۱۸۸۸۸۸۸۸۸، ۱۸۸۸۸۸۸۸۹، ۱۸۸۸۸۸۸۸۱۰، ۱۸۸۸۸۸۸۸۱۱، ۱۸۸۸۸۸۸۸۱۲، ۱۸۸۸۸۸۸۸۱۳، ۱۸۸۸۸۸۸۸۱۴، ۱۸۸۸۸۸۸۸۱۵، ۱۸۸۸۸۸۸۸۱۶، ۱۸۸۸۸۸۸۸۱۷، ۱۸۸۸۸۸۸۸۱۸، ۱۸۸۸۸۸۸۸۱۹، ۱۸۸۸۸۸۸۸۲۰، ۱۸۸۸۸۸۸۸۲۱، ۱۸۸۸۸۸۸۸۲۲، ۱۸۸۸۸۸۸۸۲۳، ۱۸۸۸۸۸۸۸۲۴، ۱۸۸۸۸۸۸۸۲۵، ۱۸۸۸۸۸۸۸۲۶، ۱۸۸۸۸۸۸۸۲۷، ۱۸۸۸۸۸۸۸۲۸، ۱۸۸۸۸۸۸۸۲۹، ۱۸۸۸۸۸۸۸۳۰، ۱۸۸۸۸۸۸۸۳۱، ۱۸۸۸۸۸۸۸۳۲، ۱۸۸۸۸۸۸۸۳۳، ۱۸۸۸۸۸۸۸۳۴، ۱۸۸۸۸۸۸۸۳۵، ۱۸۸۸۸۸۸۸۳۶، ۱۸۸۸۸۸۸۸۳۷، ۱۸۸۸۸۸۸۸۳۸، ۱۸۸۸۸۸۸۸۳۹، ۱۸۸۸۸۸۸۸۴۰، ۱۸۸۸۸۸۸۸۴۱، ۱۸۸۸۸۸۸۸۴۲، ۱۸۸۸۸۸۸۸۴۳، ۱۸۸۸۸۸۸۸۴۴، ۱۸۸۸۸۸۸۸۴۵، ۱۸۸۸۸۸۸۸۴۶، ۱۸۸۸۸۸۸۸۴۷، ۱۸۸۸۸۸۸۸۴۸، ۱۸۸۸۸۸۸۸۴۹، ۱۸۸۸۸۸۸۸۵۰، ۱۸

قرآن کریم پر تبیر اعتراض گرامی کی نسبت اللہ کی جانب

قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ ہدایت اور گرامی اللہ کی جانب سے ہے، جنت میں نہریں اور حوریں اور محلات ہیں، اور کافروں کے ساتھ جہاد کرنا واجب ہے یہ ٹینوں کام قبیح اور بُرے ہیں، جو اس امر کی دلیل ہے کہ قرآن جو ایسے قبیح معنا میں پرستیل ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا،
 یہ اعتراض عیسائیوں کا بڑا معرکہ۔ الارا اور زبردست اعتراض ہے، یہاں تک کہ شابید ہی کوئی کتاب جو مسلمانوں اور اسلام کی تردید میں ان کی جانب سے نکلتی ہے دہ اس اعتراض کے ذکر و بیان سے خالی ہوتی ہو، عیسائی حضرات اس اعتراض کے بیان کرنے میں اپنے ذہنی و عقلی تفاوت کے مطابق عجیب عجیب تقریریں کرتے ہیں، ان تقریروں کا پڑھنے والا عیسائیوں کے انتہائی تعصّب کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے،

جواب

پہلی بات کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس قسم کا مضمون عیسائیوں کی مقدس کتابوں میں بہت سے متنات پر موجود ہے، لہذا ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی مقدس کتابیں بھی یقینی طور پر منجانب اللہ نہیں ہیں، ہم کچھ آیات ناظرین کے فیصلے کے لئے تقلیل کرتے ہیں ।



مسئلہ القریب پر بائبل اور علماء ① کتاب خروج باب ۳ آیت ۲۱ میں ہے:
اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جب قمر
نصرت پیغمبر کے اقوال میں پھوپخے تو دیکھو وہ سب کرامات جو میں نے
تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں فرعون کے آگے دکھانا، لیکن میں اسکے دل کو سخت کر دو
گا، اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا:

② اور خروج ہی کے باب آیت ۳ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح بیان کیا گیا ہے:
”اور میں فرعون کے دل کو سخت کر دو گا، اور اپنے نشان اور عجائبِ ملکِ مصر میں کثرت سے
دکھاؤں گا“

③ خروج ہی کے بابت آیت ایں ہے،
”اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا، کیونکہ میں ہی نے اس کے
دل اور اُس کے نوکر دل کے دل کو سخت کر دیا ہے، تاکہ میں اپنے یہ نشان ان کے
پیچ دکھاؤں“

④ اور اسی باب کی آیت ۲۰ میں ہے:
”پر خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اُس نے بنی اسرائیل
کو جانے نہ دیا“

⑤ اور آیت ۲۷ میں ہے:
”لیکن خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اُس نے ان کو جانے ہی نہ دیا“

⑥ اور خروج ہی کے باب آیت ۱۰ میں ہے:
”اور خداوند نے زرعون کے دل کو سخت کر دیا، اس نے اپنے ملک سے بنی اسرائیل
کو جانے نہ دیا“

⑦ اور کتاب استثناء باب ۴۹ آیت ۳ میں ہے:
”لیکن خداوند نے تم کو آج تک نہ تو ایسا دل دیا جو سمجھے اور نہ دیکھے کی آنکھیں اور
مشنے کے کام دیئے“

۸ کتاب یسیاہ کے بابت آیت ۱۰ میں ہے :

”تو ان لوگوں کے دلوں کو چربا مے، اور ان کے کافوں کو سمجھائی کر، اور ان کی آنکھیں بند کر دے، تماز ہو کر وہ آنکھوں سے ریکھیں، اور اپنے کافوں سے شینیں، اور اپنے، اور اپنے دلوں سے سمجھے لیں، اور باز آئیں اور شفایاں ۔“

۹ اور دمیوں کے نام خط باب ۱۱ آیت ۸ میں ہے :

”چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی۔ اور الی ۱۰ آنکھیں جو نہ دیکھیں، اور الی سے کان جو نہ شینیں ۔“

۱۰ اور ابھیل یو خا باب ۱۲ میں ہے :

”اس سبب سے ڈایجان نہ لاسکے، کہ یسیاہ نے پھر کہا، اس نے انہی آنکھوں کو اندر کھا اور دل کو سخت کر دیا، ایسا نہ ہو کر وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور جو ع کریں ۔“

تورات، انجیل اور یسیاہ کی کتاب سے معلوم ہوا کہ الش نے بنی اسرائیل کو اندر کر دیا تھا، ان کے دلوں کو سخت اور کافوں کو بہرا بنا دیا تھا، تاکہ نہ وہ تو بہ کر سکیں نہ خدا ان کو شفادے ماری وجہ سے نہ وہ حق کو دیکھتے ہیں، نہ اُس میں غفر کرتے ہیں، نہ اس کو سنتے ہیں۔ آیت قرآنی خَخَرَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْقَلِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ مَا لَخَ کے معنی بھی تو صرف اسی قدر ہیں،

۱۱ کتاب یسیاہ ترجیحہ عربی مطبوعہ ۱۸۳۱ء و ۱۸۳۲ء و ۱۸۳۳ء کے باب ۳۶ آیت، ایں یوں کہا گیا ہے :

”لے خداوند تو نے ہم کو اپنی راہوں سے کیوں گراہ کیا؟ اور ہمارے دلوں کو سخت کیا کہ تجھ سے مد فریض ۹ اپنے بندوں کی خاطر اپنی میراث کے قبائل کی خاطر رکذا ۔“

۱۲ کتاب حزقی اہل ترجیحہ مذکورہ کے باب ۱۲ آیت ۹ میں ہے :

”اد را گر نبی فریب کھا کر کچھ کہے تو میں خداوند نے اس نبی کو فریب دیا اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلا دیا گا، اور اُسے اپنے اسرائیلی لوگوں میں سے نابود کر دوں گا ۔“

۱۳ موجودہ اردو مترجم بھی اسی سبک مطابق ہیں، اسی لئے ہم نے یہ عباریں اسی سے نقل کر دی ہیں ۱۲ نقی

یسوعیاء کے کلام میں تصریح ہے کہ اے رب اتو نے ہمیں گراہ گیا ۔ اور حنفی ایلائے کے کلام میں پیغمبر کو فریب دینے کا تذکرہ ہے :

(۱۳) اور کتاب سلاطین اول باب ۲۲ آیت ۱۹ میں ہے :

”تب اُس نے کہا کہ اچھا خداوند کی سخن کو سشن لے، میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اور سراسر آسمانی شکر اس کے دامنے اور باشیں کھڑا ہے، اور خداوند نے

کہا کون انھی اب کو بہکائے گا، تاکہ وہ چڑھائی کسے، اور رامات جلعاد میں کھیت آئے؟“

تب کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ، لیکن ایک روح نخل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی، اور کہا میں اُسے بہکاؤں گی خداوند نے اس سے پوچھا کس طرح؟ اُس نے کہا میں جاکر

اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بونے والی روح بن جاؤں گی، اُس نے کہا تو

اُسے بہکائے گی اور غالب بھی ہو گی، روانہ ہو جا، اور ایسا ہی کر، سو دیکھ خداوند نے حکم تھا:

لئے تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بونے والی روح ڈالی ہے اور خداوند نے تیرے حق میں بد کا حکم تھا:

یہ روایت صراحةً یہ بتلارہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، اور لوگوں کو

گراہ کرنے اور فریب دینے کے لئے اسی طرح مجلس مشادرت منعقد ہوتی ہے جس طرح

لندن میں کسی سرکاری بات پر غور کرنے کے لئے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا کرتا ہے،

اس مجلس میں مشادرت میں تمام آسمانی شکر شرکت کرتے ہیں، اور مشووے کے بعد

اللہ تعالیٰ الگراہی کی روح کو بیھجا ہے، پھر یہ روح لوگوں کو گراہ کرتی ہے، اب آپ

ہی غور فرمائیئے کہ جب خود اللہ میاں اور آسمانی شکر ہی انسان کو گراہ کرنے کا رادہ کر لیں تو یہ بے چارہ ناتوان انسان کیسے نجات پاسکتا ہے؟

اور یہاں ایک اور عجیب بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود شود

کے بعد گراہی کی روح کو اتنی اب کے گراہ کرنے کے لئے بصحیح دیا تو حضرت میکاہ

علیٰ السلام نے اس مجلس کے سربراہ راز کو کیسے افشا کر دیا؟ اور آنھی اب کو

اس کی اطلاع کیون تحریکی؟

لہ یعنی میکاہ علیہ السلام نے۔

(۱۴) تخلیقیوں کے نام و میرے خط بابت آیت ۱۱ میں ہے :

۰ اسی سبب سے (یعنی اون کے حق کو قبول نہ کرنے کے سبب سے) خداون کے پاس گراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا، تاکہ وہ جھوٹ کو پسخ جائیں، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ نار استی کو لپسند کرتے ہیں وہ سب مزرا پائیں ۔

اس عبارت میں نصاریٰ کا مقدس پوس بیانگ دہل کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہلاک ہونے والوں کے پاس گراہ کرنے والی تاثیر بھیجا ہے جسے وہ جھوٹ کی تصدیق کرتے ہیں، اور مزرا پاتے ہیں،

(۱۵) اور حب میسح علیہ السلام ان شہروں کو قیامت کے عذاب سے ڈر اکر فارغ ہوئے جنہوں نے تو وہ نہیں کی تھی تو فرمایا :

۰ اسے باپ! آسمان اور زمین کے خداوند! میں یہری حسد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں دانا ڈن اور عقولمندوں سے چھپائیں، اور پھوں پر ظاہر کیں، ہاں لے باپ!

کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا، (مشی بالع،)

(۱۶) کتاب یسعیاہ ترجمہ عربی مطبوعہ سال ۱۶۷۴ء و ۱۸۲۴ء و ۱۸۲۷ء کے باب ۲۵

آیت ۷ میں ہے :

”میں ہی روشنی کا موجہ اور تاریخی کا خالق ہوں، میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی خداوند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں ۔“

(۱۷) نوحہ یزمیاہ کے باب ۳ آیت ۳۸ میں ہے :

”کیا بھلانی اور بڑائی حق تعالیٰ ہی کے حکم سے نہیں ہے؟“

فارسی ترجمہ مطبوعہ سال ۱۸۲۸ء میں صحی ہے

”آیا خیر و شر از دہان خدا صادر نہی شود یہ“

اس استفہام انکاری کا مطلب یہی تو ہے کہ خیر و شر دونوں اللہ سے صادر ہوتے ہیں،

۰۳۶، ۲۵ نمبر آیت

ملے موجودہ اردو ترجمہ چونکہ اس کے مطابق ہیں، اس لئے عبدت وہیں سے نقل کر دی گئی ہے ۱۲ ات

۱۸ مذکورہ تراجم کی کتاب میکاہ باب آیت ۱۲ میں ہے:
”کیونکہ خداوند کی طرف سے بلانازل ہوئی جویر دشلم کے پھامنک نکل ہوئی۔“
اور فارسی ترجمے کی عبارت ہے:

”اما ہر بدی بدر دازہ اور شیم از خداوند نازل شد“

لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح خیر کے خالق ہیں، اسی طرح شر کے خالق بھی وہی
ہیں،

۱۹ رومنیوں کے نام خط کے باب آیت ۲۹ میں ہے:
”کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا، کہ اس کے بیٹے
کے ہمشکل ہوں، تک دو بہت سے بھائیوں میں پہلو مظہر ہے“

۲۰ اور اسی خط کے باب ۹ آیت ۱۱ میں ہے:

”ادا بھی تک ن تولڈ کے پیدا ہوئے تھے، اور ناخنوں نے نیکی یا بدی کی سختی
کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جبر گزیدگی پر
توقف ہے اعمال پر مبنی نہ ہہرے، بلکہ بلانے والے پر، چنانچہ لکھا ہے کہ
میں نے یعقوب سے توجہت کی مرگ عیوب سے نفرت،

پس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں! کیونکہ دو
موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر نرس
کھانا منظور ہے اس پر نرس کھاؤں گا، پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے
ندوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر، کیونکہ کتاب مقدس

۲۱ اس عبارت میں پولس یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حضرت مسیح کا صیغح دارث (ہمشکل) ہونے کے لئے مفردی ہے
کہ انسان اس قسم کی تکلیفیں سمجھی برداشت کرے جیسی حضرت مسیح نے برداشت کی یقین، اس لئے اللہ تعالیٰ
بعض اوقات انسان کو حضرت مسیح کا مثابہ فرار دینے کے لئے اس پر معمیتیں سمجھی نازل کرتا ہے،
(تفیر عہد نامہ جدید، انداگس، ص ۱۰۰ ج ۲) مصنفوں کے اس عبارت کو پیش کرنے کا منشاء یہ ہے
کہ اس عبارت سے خدا کا خالق نظر ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، ۱۲ تھی

میں فرعون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی نئے بچھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کر دو، اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو، لیں وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سخت کر دیتا ہے، لیں تو مجھ سے کہے گا پھر وہ کیوں غیب لگاتا ہے؟ کون اس کے ارادے کا مقابلہ کرتا ہے؟ اے انسان بھلا نتوکون ہے بو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوتی چیز بنلنے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے بچھے کیوں ایسا بنایا؟ کیا کہار کو مٹی پر اختیار نہیں کر ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے نئے بنائے اور دوسرا بے غرقتی کے نئے؟ (آیات ۱۱ تا ۲۱)

پوکس کی مذکورہ بالا عبارت تقدیر یہ کے مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں ائمہ کی طرف ہوتی ہیں، اور اس معاملے میں حضرت اشعياء عليه السلام کا دہ ارشاد بہت خوب ہے جو کتاب یسعیاء باب ۲۵ آیت ۹ یہ مذکور ہے:

وہ افسوس اس پر جو اپنے خالق سے بھکڑتا ہے !
 ٹھیکرا تو زمین کے ٹھیکر دل میں سے ہے ، کیا
 مٹی کھبار سے کہے کہ تو کیا بناتا ہے ؟ کیا بتیری
 دستکاری کے اس کے تو ہامان تھے ہنسنے ؟

غالباً اپنی آیات کے پیش نظر فقرہ پر وسٹ کا پیشوں تو تھر عقیدہ بھر کی طرف
لئے یہاں تک مصنفؒ نے اگلیں حوالوں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ باشیل کے نزدیک خدا غیر کا بھی خالق ہے،
اور وہ لوگوں کو گراہ بھی کرتا ہے، باشیل اس قسم کی عبارتوں سے برباد ہے، جو اس دعوے کا ثبوت مہیا کرتی ہیں،
مزید دیکھئے یہ میاہ ۳۰: ۲۸، رومیوں ۱: ۲۶، یمیتھیس ۲: ۸، ططس ۱: ۱۴، اور ۲. گریتھیوں ۵: ۱۳

مائیں رہا ہے، چنانچہ اس کا کلام بخطابِ راسی پر دلالت کرتا ہے۔ کیتھوں لکھیر لڑ کی جلد ۹ ص ۲۶۶ میں اس مقتا کے اقوال درج کئے گئے ہیں، ہم ان میں سے دو قول نقل کرتے ہیں،

عقیدہ جبر کے باسے میں تو تحریکی رائے "انسان کی پیمائش گھوٹے کی طرح ہٹی تو دہ اسی طرح چلے گا، جس طرح خدا چلائے گا، اور اگر اس پر شیطان کا تسلط ہو جائے تو وہ شیطان کی طرح چلے گا، وہ اپنی طرف سے کسی سوار کو پسند کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، بلکہ دونوں سوار کو کوشش کرتے ہیں کہ اس پر قبضہ اور تسلط حاصل کر لیں"؛

کیتھوں لکھیر لڑ ہی میں اس کا دوسرا قول اس طرح منقول ہے:

"جب کسی مقدس کتاب میں یہ حکم پایا جائے کہ فلاں کام کرو تو سمجھ دو کہ یہ کتاب اس اپھے کام کے ذکر نہ کام کے رہی ہے، یونہ کہ تم اس کے کرنے پر قادر نہیں ہو" بخطابِ راس کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جبر کا معتقد ہے۔

پادری طاوس نگلخس کی رائے

پادری موصوف اپنی کتاب موسم مرآۃ الصدق مطبوعہ ۱۸۵۱ء کے صفحہ ۳۳ پر فقرہ پر ٹستنٹ پر طعن کرتے ہوئے کہتا ہے:

"اُن کے پڑانے والاعظون نے یہ بیہودہ اقوال اُن کو سکھائی ہیں:

① خداگناہ کا موجہ ہے،

لہ سینت سفہا میں ایکو الفس اپنی مشہور کتاب

لکھتا ہے، ہندا جس طرح تقدیر الہی انسان کو غلطت سے بمنکار کرتی ہے، اس طرح خدا کی لغت خدا کے اس ارادے کو شامل ہے، جس کے ذریعے وہ ایک شخص کو گناہ میں بدلنا

۱) انساں کو گناہ سے بچے۔ کا کوئی اختیار نہیں،

۲) دسوں احکام پر عمل نہ رکنا ممکن ہے،

۳) کبائی خواہ کرنے پر بڑے کیوں نہ ہوں، اشہد کی گناہ میں انسان کو نہیں گھٹاتے،

۴) فقط ایمان بنجات کے لئے کافی ہے، کیونکہ ہم کو ایمان ہی پر سزا و جزا دی جا

سکتی ہے، ایم تعلیم بہت ہی مفید اور سکون سے برباد ہے،

۵) اور دین کی اصلاح کا علمبردار یعنی ونحر کرتا ہے کہ صرف ایمان لااؤ اور یقین رکھو

کہ تم کو بنجات حاصل ہو گی، روزے کی مشقت اور تقوے کے بو جھے اور اعتراض

کی مشقت، اور اعمال حسنہ کی مشقت کی ضرورت نہیں، تم کو بلاشبہ اعلیٰ دفعے

کی بنجات ملے گی، جس قسم کی خدمتی کو ملی، خوب دلیری سے گناہ کرو، ہاں البتہ

ایمان لااؤ اور یقین رکھو، ایمان تم کو بنجات دے گا، اگرچہ تم ایک دن میں

ہزار مرتبہ زنا یا قتل کے گناہ میں ملوث ہوتے رہو، تم فقط ایمان قائم رکھو،

میں کہتا ہوں کہ تمہارا ایمان تم کو بنجات دے گا یا۔

معلوم ہوا کہ فرقہ پر و میثمت کے علماء نے قرآن حکیم کے حق میں جو ہمیں بات ہکی تھی وہ بلاشبہ مرد و اور خود ان کی مقدس کتابوں اور مقدار کے قول کے خلاف ہے خدا کے پروردگار نے ہے خدا کا مشترک ہونا لازم نہیں آتا، بالکل اسی طرح جس طبع سیاہ و سپید رنگوں کے پریدا کرنے سے خدا کا سیاہ یا سپید ہونا لازم نہیں آتا، اور مشرک کے پریدا کرنے سے وہی حکمت ہے، جو شیطان کے پریدا کرنے میں ہے، جو ہر بُشی کی اصل اور تمام مفاسد کی جڑ ہے، باوجود یہ کہ علم الہی ازلی میں یہ بات تھی کہ شیطان سے فلاں فلاں کام صادر ہوں گے، اسی طرح جو حکمت انسانی طبائع میں شہتو اور حرص کے پریدا کرنے کی ہے، حالانکہ تمام مفاسد جو افراد انسانی میں ان دونوں خصلتوں پر مرتب ہونے والے ہیں علم الہی ازلی میں تھے، اسی طرح اشہد کو فدرت تھی (دکن شہر سے پیدا ہونے) کرتا ہے، اور اس کا، کوچھ سے اس پر عذاب سلطگڑا ہے، (بیک لائشنگز اف سیستھ تھامس ایکو ائمہ ص ۲۲۷ حادی، نیویارک ۱۹۴۹ء، تھامس ایکو ائمہ نو و کلیخوک ہے، اس لئے

کہ شیطان کو پیدا نہ کرتا، یا اگر پیدا کیا تھا تو اسے گمراہ کرنے کی قدرت نہ دیتا، اور مشر سے اس کو روک دینا، اس کے باوجود نہ صرف پیدا کیا بلکہ کسی حکمت کی بناء پر اس کو جڑائی سے نہیں روکا، اسی طرح اس کو قدرت تھی کہ جڑائی کو پیدا نہ کرنا لیکن اس کے پیدا کرنے میں حکمت بله ہے،

جنت کی لذتیں | دوسری بات کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ اس امر میں جنت کی لذتیں کر جنت حور و قصور اور دوسری نعمتوں پر مشتمل ہے، عقلی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، نیز مسلمان یہ نہیں کہتے کہ جنت کی لذتیں جسمانی لذتوں تک محدود ہیں، جس طرح فرقہ پروشنٹ کے علماء غلطی سے یا عوام کو غلطی میں ڈالنے کے لئے کہتے ہیں، بلکہ ہم قرآنی نصوص اور تصریحات کی بناء پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جنت روحانی اور جسمانی ہر دو قسم کی لذتوں پر مشتمل ہے، ان میں سے پہنچی لذت دوسری سے بڑھی ہوئی ہے، مؤمنین کو دونوں قسم کی لذتیں نصیب ہونگی، سورہ توبہ میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ
بِجَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ
خَلِدِيْنَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةَ
فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِنْ
اللَّهِ أَكْبَرُ . ذَلِكُو هُوَ الْغَوْنُ
الْعَظِيْمُ هُ

”اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے ان باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نیپریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بغیر فانی باغات میں پاکیزہ رہائش گاہوں کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشبوئی ان سب سے بڑھ کر ہے، یہی عظیم کامیابی ہے۔“

اس میں رضوان ہے اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خوشبوی اور اسے اور یہ حکمت بالکل ظاہر ہے کہ بمالیٰ کو ظاہر کے بغیر نہ انسانوں کی آزمائش ہو سکی ہے۔ اور نہ اچھائی کی قدر معلوم ہو سکتی ہے، اگر تاریخی نہ ہوتی تو ردشی میں کوئی لطف نہ ہوتا، اگر گرمی اور جسم نہ ہوتی تو بارش بے معنی تھی، اور اگر چماری نہ ہوتی تو صحت میں کوئی کیف نہ تھا، ۱۲ نقی

رضا پھولی بیان کردہ جنت کی تمام نعمتوں سے مرتبہ اور درجے میں ڈی ہے، باغات سے بھی اور سہروں سے بھی، اور عمدہ عمدہ مکانوں سے بھی، یہ ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جنت میں انتہ کا سب سے بڑا عطیہ روحانی لذتیں ہیں، یہ دوسری بات ہے کو جسمانی لذتیں بھی میں گی، اسی وجہ سے آگے فرمایا کہ وَذِلَّتُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کیونکہ انسان کی خلقت دُو جو ہر دوں سے ہوتی ہے، ایک بیعت علوی، اور دوسری کثیف سفلی، جسمانی سعادت و شقاوت کا حصول ان دونوں ہی کے ساتھ وابستہ کیا گی ہے، جب جسمانی منافع اور فوائد کے ساتھ ساتھ روحانی سعادتوں کا حصول بھی ہو تو بلاشبہ روح ان سعادتوں کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، جو اس کے لائق اور مناسب ہیں، اسی طرح جسم ان سعادتوں کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گا جو اس کی شان کے لائق ہیں، یقیناً فوز عظیم کا مصدقہ صرف یہی ہو سکتا ہے، اور اگر علماء پر دشمنت یہ کہیں کہ جنت میں ان دونوں قسموں کی لذتوں کا جماعت بھی ہماں سے خیال میں نامناسب ہے، تو ہم اُس کے جواب میں صرف اس قدر کہیں گے کہ گھر بیٹے نہیں، خدا نے چاہا تو آپ کو یہ لذتیں نصیب نہیں ہوں گی،

جنت کی لذتوں کے باعث
ناظرین کو بائیت اول سے معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے
زدیک انجیل کا مصدقہ کتاب ہے جو صرف
میں عیسائی نظر بیات | عیسیٰ پر نازل کی گئی، اب اگر الفاق سے میخ
کا کوئی قول بظاہر کسی قرآنی حکم کے معارض ہو تو اس امر کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ وہ
خبر واحد کے طور پر منقول ہے، اور مقدس کتابوں کا قرآن کے مخالف ہونا قرآن کے
لئے قطعی بھی مھر نہیں (جیسا کہ آپ کو دوسرے اعتراض کے جواب میں معلوم ہو چکا
ہے) پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس قول کی یقیناً کوئی تاویل کی جائے گی، اور عیسائیوں
لئے اس بحث کو پڑھتے سے پہلے یہ بھیجئے کہ پر دشمنت فرقے کے زدیک جنت کی تمام لذتیں
روحانی ہزنگی، جسمانی نہیں ہزنگی، علماء پر دشمنت اپنے اس نظر بیٹے کو ثابت کرنے کے لئے باشیں
کی بعض عبارتوں سے استدلال کرتے ہیں، مصنف "اس کار د فرمائے ہے ہیں۔"

کے نظریے کے مطابق جنتیوں کا فرشتوں کے مشابہ ہونا خود انہی کتابوں کے فیصلے کے مطابق کھانے اور پینے کے منافی نہیں ہو سکتا، کیا ان حضرات کو معلوم نہیں کہ وہ فرشتے جو اپرائیس کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور آپ نے ان کے آگے سُجھنا ہوا بچھڑا، کھی اور دودھ پیش کیا تھا وہ فرشتے ان سب چیزوں کو نوشی جان کر کے چنانچہ اس کی تصریح کتاب پیدائش کے باب میں موجود ہے۔

اسی طرح وہ دو فرشتے جو لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہوں نے ان کے لئے کھانا، روپی اور پرندے کا سالن تیار کیا تھا، دونوں فرشتوں نے خوب کھایا، جیسا کہ کتاب پیدائش کے باب^{۱۹} میں صاف طور پر لکھا ہے،

زیادہ تجھب تو اس پر ہے کہ جب عیسائی حضرات حشر جسمانی کے قائل ہیں، تو پھر جسمانی لذتوں کے مستبعد ہونے کے کیا معنی ہے؟ ہاں الروہ مشرکین عرب کی طرح سرے سے حشر ہی کے منکر ہوتے، یا اس طور کے مانند والوں کی طرح حشر جسمانی کے منکر اور حشر وحشی کے قائل ہوتے، تو بھی نظام ہران کے استبعاد کے لئے کوئی گنجائش ہو سکتی تھی،

نیز عیسائیوں کے نظریے کے مطابق اللہ کا جسمانی ہونا اور کھانا پینا اور حبلہ جسمانی لوازمات اس لحاظ سے ہیں کہ وہ انسان بھی ہے، ادھر عیسیٰ علیہ السلام، بھی علیہ السلام کی طرح ریاضت گزار اور نفیس کھانوں اور شراب نوشی سے احتراز د اجتناب کرنے والے نہیں تھے، جس کی بناء پر ان کے منکریں ان کو بسیار خوری اور بسیار نوشی کا طعنہ دیتے ہیں، (جیسا کہ انجیل مثی کے باب میں تصریح موجود ہے) ہمارے نزدیک گو انہی ذات گرامی پر یا اعتراض بالکل نامعقول ہے، تاہم یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلاشبہ عیسیٰ علیہ السلام جسمانی لحاظ سے خالص انسان ہی انسان تھے، پھر جسیں لہ پیدائش ۸۱۸ میں تصریح ہے کہ فرشتوں نے یہ چیزیں کھائیں، یاد رہتے کہ قرآن کریم نے بھی یہ داقعہ ذکر کیا ہے، مگر اس نے صاف کہا ہے کہ فرشتوں نے بچھڑے کو ما تھے بھی نہیں لگایا (سورۃ ذاریبات، مصافت) یہاں الزامی طور پر الصاری کے قول کے مطابق جواب ہے یہ ہے یہیں ہات

طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے عہدہ کھانے اور مشروبات ان کے حق میں بخانی لذتوں سے مانع نہیں بن سکے بلکہ آپ پر وحانی احکام ہی کا غلبہ رہا اسی طرح جسمانی لذتیں جنتیوں کے لئے روحانی لذتوں سے مانع نہیں ہو سکیں گی، جب کہ وہ جنت میں ہونے کے لیے

ملے حقیقت یہ ہے کہ علماء پر وُسْنَث کا یہ نظر پر کہ جنت میں جسمانی لذتیں نہیں ہونگی، خود باطل کے بے شمار افواں کے مخالف ہے جنہیں ہم مختصر ادرج ذیل کرتے ہیں،

کتاب پیدائش میں ہے : « اور خداداد خدا نے آدم ع کو حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا چھل بے روک نوک کھا سکتا ہے ॥ (۱۹:۳) ۱۹۰۳۲) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں کھانے کے درخت پڑت سے تھے اس پر کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کی جنت زمین پر تھی اور آخرت کی جنت آسمان پر اس نے ایک کو دوسرا پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، میکن اول توحضرت آدم ع کی جنت کا زمین پر ہوا ہمیں تسلیم نہیں، باطل کی کوئی عبارت بھی اس پر دلالت نہیں کرتی، اور اگر بغرض محل مان لیا جائے کہ وہ زمین پر تھی، تب بھی اسکی کیا دلیل ہے کہ آخرت والی جنت حضرت آدم ع کی جنت سے مختلف ہو گی، بلکہ انجلیوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی جنت میں بھی جسمانی لذتیں ہونگی تھیں اناجیل میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے عشاء ربیانی کے موقعے میں خاریوں سے ارشاد فرمایا : " میں تم سے کہتا ہوں کہ انکوڑ کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تھاں سے ساقہ لانے باپ کی بادشاہی میں نہ پیوں " (متی ۲۶:۲۹، مرقس ۱۳:۲۵، ۱۲:۲۲) اسی طرح انجلی میں ایک اور جگہ یوم آخرت کا بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ : " اور یورپ پچھم اتر دکھن سے لوگ اگر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہونے گے ॥ (لوقا ۱۳:۲۹) اگر جنت میں جسمانی لذتیں نہیں ہوں گی تو انکوڑ کا شیرہ پینے اور خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہونے کے کیا معنی ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر پرانے عیسائی علماء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جنت میں جسمانی اور روحانی دو نوع قسم کی لذتیں ہوں گی، چنانچہ سینٹ آگسٹن کہتا ہے کہ مجھے یہی راستے بھلی معلوم ہوتی ہے کہ جنت جمالی بھی ہے اور روحانی بھی ہے اور سینٹ تھامس ایکوائس نے

(میں پوری تقسیم کے ساتھ ان لوگوں

اپنی کتاب ر

تمیری بات کا جواب ان شاء اللہ چھٹے باب میں آ رہا ہے، یکیوں کہ جہاد کا اعتراض عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئے جانے والے اعتراضوں میں سے بڑا اعتراض اور عیب شمار کیا جاتا ہے، اس لئے ہم اس کو اسی موقع پر مطابع ن کی بحث میں ذکر کریں گے،

قرآن کریم پر چوتھا اعتراض

قرآن کریم میں وہ مضامین نہیں پائے جاتے جو روح کے مقاصد اور اس کے پسندیدہ ہو سکتے ہیں،

جواب

دو چیزوں جو روح کے مقاصد اور مقتصدیات ہیں، اور جو اس کی پسند اور چاہت کی چیزوں ہیں وہ صرف دو ہیں، کامل اعتقادات اور نیک اعمال، اور قرآن کریم ان دونوں قسم کے مضامین کو مکمل طور پر بیان کرتا ہے، جیسا کہ پہلے اعتراض کے جواب سے واضح ہو چکا ہے، اب ان چیزوں کے قرآن میں مذکور نہ ہونے سے جو عمل پر وسٹٹ کے خیال کے مطابق روح کے مقاصد میں سے ہیں قرآن کریم کا ناقص ہونا اسی طرح لازم نہیں آتا جس طرح توریت اور انجیل اور قرآن میں ان چیزوں کے مذکور نہ ہونے سے کوئی نقص لازم نہیں آتا، جو مشرکین ہند کے علماء یعنی برہمنوں کے خیال میں روح کی پسندیدہ ہیں، چنانچہ آپ نے برہمنوں کا یہ اعتراض سننا ہو گا کہ جانور کا ذبح کرنا محض کھانے اور لذت کے لئے ہے، اور روح کے تقاضوں کے خلاف ہے، بلکہ عقل کے نزدیک بھی ناپسندیدہ حرکت ہے اس کا امکان ہی نہیں کہ اللہ رکذشند سے پوستہ، کے دلائل کا روکی ہے وجہت کے جسمانی ہونے سے انکار کرتے ہیں، (ملاحظہ بیگ رائٹنگز آن سینٹ تھامس ایکو ولیس، ص ۹۲۳ تا ۹۲۶، ج اڈل)

کی طرف سے ایسے شیع فعل کی اجازت دی جائے تو جو کتاب اس قسم کے مضمون پر مشتمل ہوگی وہ خدا نی کتاب نہیں ہو سکتی،

قرآن کریم پر پاچواں اعتراض

اختلافات مضامین

قرآن میں جا بجا معنوی اختلاف پائے جاتے ہیں، مثلاً آیت:

لَا إِكْرَاهَ فِي الْإِيمَانِ «دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے»

اور:

فَذَّبِحُوكُمَّا أَمْتَ مُذَّكِّرُوكُمْ
لِمَنْ لَمْ يَهْبِطْ لَكُمْ فِي الْمُصِيتَ
كُنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْدُ طِيرٍ،
کرنیاے ہی تو ہیں، آپؐ کے داروغہ نہیں ہیں؛

اور:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
فَلَمَّا تَوَكَّدَا فِي أَنَّمَا عَلَيْهِ مَا شِئْتُمْ
دَعَكُمْ مَا حَمِلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ
تَهْتَدُ دُادَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝
بلاشہ آپؐ کہدیجے کہ تم اس تو اور اس کے
رسولؐ کی اھانت کرو، پھر اگر وہ اعتراض
کریں تو رسولؐ کے اعمال رسولؐ کے ساتھ
ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور
اگر تم اسکی اھانت کرو گے تو ہدایت پاؤ
گے اور رسولؐ پر ہوائے واضح تبلیغ کے اور کوئی ذمہ داری نہیں۔

یہ تمام آیتیں ان آیات کے مخالف ہیں جن میں جہاد کا حکم پایا جاتا ہے۔ اسی طرح
اکثر آیتوں میں کہا گیا ہے کہ میشع انسان اور صرف رسول ہیں، اس کے بر عکس دوسرے
موقع پر اس کے خلاف یہ کہا گیا ہے کہ وہ نوع انسانی میں سے نہیں ہیں بلکہ ان کا مقام
بلند تر ہے، پہلا مضمون سورۃ نساء کی آیت ذیل میں ہے:

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ «blasphemy عیسیٰ بن مریم اشد کے رسول

رَسُولُ اللَّهِ دَكَلِمَتْهُ الْقَاهَا
اُور ائمہ کا وہ کلمہ ہیں، جو ائمہ نے مریم پر
نالیٰ مَرْيَمَ وَرُوحَ مِنْهُ؛
نازل کیا، اور ائمہ کی روح ہیں۔

اور دوسرا مصنفوں سورہ تحریم کی آیت ذیل میں موجود ہے،

وَمَرْيَمَ ابْنَةَ حَمْرَانَ الْكَتْرِيٌّ
اُور مریم بنت عمران جس نے اپنی شرمگاہ
اَخْسَنَتْ خَرْجَهَا فَنَفَخْتَاهُ فِيْهِ
کو (بد کاری سے) محنوذار کھا، تو یہم نے اس
میں اپنی روح پھونک دی یہ

بڑے زبردست اختلافات ہیں، اسی لئے میزان الحق میں مصنفوں نے اس کتاب کے ہلکے
فصل ۲ میں اپنی روؤں کے بیان پر اتفاقاء کیا ہے،

جواب: سچے اختلاف کی نسبت تو یہ کہا جائے گا کہ اس کو اختلاف کہنا ہی
حکم نازل ہے اتو پہلا حکم منسون ہو گیا اور نسخ کو اختلاف معنوی کہنا بالکل لغو ہے، وہ لازم
کے گا کہ توریت اور انجلیٰ کے تمام احکام منسون خر میں اختلاف معنوی تسلیم کیا جائے،
اسی طرح مطلقاً توریت اور انجلیٰ کے احکام میں بھی تضاد مانا جائے، جیسا کہ آپ کو
تیرے بارے وضاحت کے ساتھ معلوم ہو چکا ہے، اس کے علاوہ ارشاد خداوندی
”لَا اِحْكَمَ فِي الدِّينِ .. منسون ہیں ہے“،

دوسرے اختلاف کا جواب آپ کو کتاب کے مقدمہ کے امرِ مفت میں معلوم ہو چکا
ہے، دہاں پر آپ کو یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ یہ دونوں قسم کی آیات ہرگز اس پر دلالت
نہیں کرتیں کہ عیسیٰ بن مریم فویع انسانی میں سے نہیں ہیں، آیات مذکورہ سے یہ معنی سمجھنا
محض فاسد خیالی اور لغویات ہے، توجیہ اور حیرت تو یہ ہے کہ یہ عقلمندان اختلافات اور
غلطیوں کو زگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے جو ان کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، جن کا نونہ
آپ نے سچے باب کی تیسرا فصل میں دیکھ دیا ہے،

ملہ اور اس حکم کا چہاد کے حکم کے ساتھ کوئی تعارض بھی نہیں ہے، تفصیل اپنے مقام پر آئے گی،
ملہ ملاحظہ ہو، ص ۳۹۳ جلد اول،

تیسرا فصل

احادیث کی صحت کا بیوت

اس فصل میں ہم ان احادیث کی صحت کا بیان کریں گے جو کتب صحابہ میں نقل ہیں، اور یہ فصل تین فائدوں پر مشتمل ہے:

زبانی روایات بھی قابل اعتماد

تمام اہل کتاب خواہ یہودی ہوں یا عیائی، پھر ہوں یا پچھلے، زبانی روایات کو ایسا ہی معتبر ہو سکتی ہیں، پہلا فائدہ مانتے ہیں جیسا کہ ہوئی روایتوں کو، بلکہ یہودی حضرات توالیٰ روایات کو لکھی ہوئی روایتوں سے زیادہ متراب و سر درجہ دیتے ہیں، عیائیوں کے مشہور فرقے کیتھولک کے نزدیک دونوں برابر درجے کی ہیں، اور دونوں یہی واجب استیم ہیں، اور ایمان کی اصل ہیں، البته عیائیوں کا دوسرا فرقہ پر وُسٹنٹ ان روایات کا ایسا ہی منکر ہے، جیسا کہ یہودیوں کا فرقہ صدوقی، مگر فرقہ پر وُسٹنٹ والے اپنے اس انکار میں مجبور ہیں، اس لئے کہ اگر وہ ان روایات کا انکار نہ کریں تو ان کے لئے اپنے اصل مذہب اور نوایجاد عقیدوں کو ثابت

کرنا مشکل ہو جائے گا، اس کے باوجود وہ بھی بہت سے موقعوں پر زبانی روایات کے محتاج نظر آتے ہیں، اور اسی اعتبار کی سند اُن کی مقدس کتابوں میں ملتی ہے چنانچہ اگر خدا نے چاہا تو ناظرین پر یہ سب حیزیں غیر قریب واضح ہو جائیں گی، **مشنا اور تا المود کی حقیقت** [آدم کلارک اپنی تفسیر مطبوعہ ۱۵، جلد ثانی میں کتاب عزراء کے دیباچے کی شرح میں

یوں کہتے ہے :

”یہودیوں کا قانون دو قسم کا تھا، ایک لکھا ہوا جس کو دہ توریت کہتے تھے، اور دوسرا بغیر لکھا ہوا، جس کو زبانی روایات کہا جاتا ہے، یہ اُن کو بزرگوں کے ذریعے پہنچنی تھیں، ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دونوں قسم کے قوانین دیئے تھے، جن میں سے ایک بذریعہ سخیر ہم تک پہنچا، اور دوسرا بزرگوں کے واسطے سے جو اُن کو نسلابعد نہیں بیان کرتے چلے آئے آئے، اس لئے ان کا عقیدہ ہے کہ دونوں مرتبے میں مساوی اور مبنی، اللہ ہونے اور واجب التسلیم ہونے میں قطعی برابر ہیں، بلکہ یہ لوگ دوسرا قسم کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ لکھا ہوا اکثر ناقص اور تحریر ہوا کرتا ہے، اور اُسے بغیر زبانی روایات کے پورے طور پر ایمان کی بنیاد قرار نہیں دیا جاسکتا، اور زبانی روایتیں نہایت واضح اور مکمل طور پر قانون کی تشریح کرتی ہیں، اسی لئے یہ لوگ لکھے ہوئے قوانین کی ان تفسیروں کا قطعی اکار کرتے ہیں جذبانی روایات کے مخالف پائی جائیں، اور یہ بات یہودیوں میں مشہور ہے کہ وہ عہد جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا وہ اس لکھے ہوئے قانون کو کے لئے پر گز نہ تھا، بلکہ ان زبانی روایات ہی کے لئے لیا گیا تھا،

لہ یہ دونوں یہودیوں کی مذہبی کتابیں ہیں جن کا مفصل تعارف آدم کلارک اور ہوزن کے الفاظ میں آپ کے سامنے آ رہا ہے، اُن میں اسرا یل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ خدا کے دیئے ہوئے احکام کی پابندی کریں گے، (دیکھئے استثناء ۱:۲۹)، تلقی

گویا انہوں نے اس جملے سے لکھے ہوئے قانون کو نظر انداز کر دیا، اور زبانی روایتوں کو اپنے دین کی بنیاد پر قرار دیا، بالکل اسی طرح رومانیہ کے کتیحولک فقیر کے وگوں نے اپنے مذہب کے لئے اسی طریقے کا اختیار کیا، اور ائمہ کے کلام کی تفسیر ان روایتی ہی کے مطابق کرتے ہے، اگرچہ یہ روایتی تفسیر بہت سے مقامات کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، ان کی یہ کیفیت ہمارے خدا کے زمانے میں اس درجہ پر پہنچنی سمجھی کر خدا نے ان لوگوں پر اس معاملے میں گرفت کی کہ تم لوگ ائمہ کے کلام کو ان کی سنت کی وجہ سے ہل کر سوئے ہو؟ اور خدامی عہد کے باسے میں بھی انہوں نے حد سے تجاوز کی، یہاں تک کہ ان روایات کو لکھے ہوئے سے برتر بنادیا، ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مشائخ کے الفاظ توریت کے الفاظ سے زیادہ محبوب ہیں، اور توریت کے بعض کلمات اچھے عہدہ اور بعض بالکل نکتے اور زنا پسندیدہ ہیں، اور مشائخ کے سامنے کلمات عہدہ اور پسندیدہ ہی ہیں۔ لکھ مشائخ کے الفاظ پیغمبروں کے کلمات سے بہت ہی بہتر ہیں، مشائخ کے کلمات سے ان کی مراد یہی زبانی روایات ہیں، جو ان کو مشائخ کے داسطے سے پہنچی تھیں، نیز یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لکھا ہوا قانون پاکی طرح ہوتا ہے، اور مشنا اور تالמוד کی بیان کردہ روایات جودوں کی مذہبوں میں منضبط ہیں سیاہ مرعح والی شراب کے مانند ہیں، نیز ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لکھا ہوا قانون نمک کے مانند ہے، اور مشنا اور تالמוד سیاہ پیغ اور میٹھے تخم کی طرح ہیں، اس قسم کے اور بھی اقوال میں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ لکھے ہوئے قانون کے مقابلے میں زبانی روایات کی برتری اور فویقیت کے قائل ہیں، اور ائمہ کے کلام کا مفہوم اُن زبانی روایات کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اس لئے لکھے ہوئے قانون کی حیثیت ان کی نگاہ میں مردہ جسم سے زیادہ نہیں ہے، اور زبانی روایات اُن کے خیال میں اُس روح

۱۰۳

کے مانند ہیں جو حیات اور زندگی کی بنیاد ہے، ان زبانی روایات کے بنیادی ہنسنے کی دلیل وہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ جب خدا شے تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی تھی، تو توریت کے معانی اور تفسیر بھی سمجھائی تھی، اور یہ بھی حکم دیا تھا کہ توریت کو لکھا جائے، اور تفسیر کو یاد رکھا جائے اور اس کو صرف زبانی طریقے پر دوسروں تک پہنچا یا جائے، اور وہ اسی طرح نسل بعد نسل منتقل ہوتی رہیں اسی لئے پہلی قسم کے لئے یہ لوگ «قانون مکتب» کے الفاظ اور دوسری قسم کے لئے — «زبانی قانون» کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور وہ فتاویٰ جوان روایات کے مطابق ہوں ان کا نام «قوایین موسیٰ»، (جو ان کو کوہ سینا پر ملے تھے) رکھتے ہیں،

ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت جس طرح چالسیں دو زمیں دی گئی تھی جو ان کے اور خدا کے درمیان براہ راست مکالمہ اور بات چیت کی چیختی رکھتی ہے، اسی طرح ان کو زبانی روایات بھی عطا کی گئی تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے لے کر آئے اور بنی اسرائیل کو پہنچا دیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ نے اپنے بھائی ہارون کو کوہ طور سے والپی کے بعد پستے خیبر میں بلا یا اور پہلے ان کو لکھا ہراق قانون سکھایا، پھر وہ روایات سکھائیں جو لکھے ہوئے قانون کی شرح اور تفسیر تھیں جن کو انہوں نے خدا کے ہاں سے حاصل کیا تھا، ہارون علیہ السلام حاصل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دامنے ہاتھ آ بیٹھے، اور ہارون کے دو بیٹے العینر اور ایتمر داخل ہوئے، اور جس طرح ان کے ہاتھ پر آپ نے ان دلوں چیزوں کو سیکھا تھا، ان دلوں نے بھی سیکھا پھر ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے یا میں ہاتھ اور دوسرے ہارون کے داعی میں ہاتھ جا بیٹھا، پھر ستر مشہور مشائخ حاضر ہوئے، انہوں نے بھی وہ قوانین سیکھے، اور سب لوگ خیہے میں بیٹھ گئے، پھر جو لوگ سیکھنے کے مشتاق تھے

انھوں نے بھی سیکھا، پھر حوسی اٹھ کھڑے ہوئے اور ہارون نے سیکھا ہوا سبق سنایا، پھر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو الیزرا اور ایتمرنے سبق سنایا، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، پھر ان ستر مشائخ نے لوگوں کے مسامنے سیکھا ہوا قانون سنایا، غرض ان سب حاضرین نے چار مرتبہ اس قانون کو سننا، اور خوب یاد کر لیا، پھر ان لوگوں نے موسیٰ کی مجلس سے واپسی پر تمام بنی اسرائیل کو خبر دی، اور لکھے ہوئے قانون کو تحریر کے ذریعے، اور اس کے معانی کو تقلیل و روایت کے ذریعے دوسری نسل تک پہونچایا، اور وہ احکام جو توریت میں لکھے ہوئے تھے ان کی تعداد ۶۱۳ تھی، اس لئے اس قانون کو اسی لحاظ سے تقسیم کر لیا،

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو خرچ مصروف کے چھالیسویں سال کے گیارہویں میئنے کی پہلی تاریخ کو جمع کیا تھا، اور ان کو اپنی وفات کی بھی اطلاع دے دی، اور حکم دیا کہ اگر کوئی شخص اس قانون الہی کا کوئی قول جو میرے ذریعہ سے اس کے پاس پہونچا ہے، بھول گیا ہے تو وہ میرے پاس آگر مجھ سے دریافت کر لے، باکسی کو اگر ان اقوال میں سے کسی قول پر اعتراض ہو تو میرے پاس اگر اپنا شک دور کر لے، اس کے بعد اپنی آخری زندگی تک تعلیم ہی میں مشغول رہے (یعنی گیارہویں میئنے کی پہلی تاریخ سے بارہویں میئنے کی چھٹی تاریخ تک) اور لکھا ہوا اور بے نکھا ہوا دونوں قسم کے قوانین سکھا دیئے، اور اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے «قانون مکتوب» کے تیرہ نسخے بنی اسرائیل کو عطا کئے، یعنی ہر فریضے کو ایک ایک نسخہ دیدیا گیا، تاکہ وہ ان کے پاس نسل بعد نسل محفوظ رہے، اور ایک نسخہ لادی کی اولاد کو بھی عطا کیا، تاکہ وہ عبادت خانے میں محفوظ رہے۔

اور زبانی قانون (یعنی زبانی روایات) یوشع کو سنایا، پھر آپ

اسی مہینے کی ساتویں تاریخ کوہ بُور پر چڑھ گئے، اسی مقام پر آپ کی وفات ہو گئی، یوشع نے موسیٰ کی وفات کے بعد یہ روایات مشائخ کے حوالے کر دیں، اور انہوں نے پیغمبر ملک کے سپرد کیں، پھر ہر بُری دوسرے آنے والے بُری کے حوالے کرتا رہا، یہاں تک کہ ارمائے نے بارہ دن تک اور بارہ دن نے عزرا وہ تنگ اور عزرا اُس نے علماء کے اُس مجمع تک پہنچا دیا، جن میں سے آخر شمعون صادق تھے، پھر اُس نے ایشی کو نوس تک، اور انہوں نے یوتو بن نیخان تک اور اُس نے یوسی بن یوسیر تک پھر اس نے نتھان اریلی اور یوشع بن برخیا تک، پھر ان دونوں نے یہوداہ بن یحییٰ اور شمعون بن شطاۃ تک اور انہوں نے شمایا اور ابی طیعون تک، پھر ان دونوں نے ہل تک اور اس نے اپنے بیٹے شمعون تک، اور گمان یہ ہے کہ یہ شمعون دہی شمعون ہیں جنہوں نے ہمارے سنجات دہندہ خدا کو مریم سے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، جب کہ وہ اپنے ایام نفاس سے پاک ہو گر عبادت گاہ میں آئی تھیں، پھر اس نے پانے بیٹے کملائیل تک پہنچا یا، اس کملائیل سے ہی پوس نے سکھا، پھر اُس نے اپنے بیٹے شمعون تو سکھا یہ اور اس نے اپنے بیٹے کملائیل کو، پھر اس نے اپنے بیٹے ربی یہودا حق دشمن کو، پھر یہودا نے ان تمام روایات کو کتابی شکل میں جمع کر کے

اس کا نام مشتا رکھا ۔

پھر آدم کلارک کہتا ہے :

”یہودی اس کتاب کی بیتے حد تعظیم کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے سب منجانب استد ہے، جو اس نے موسیٰ پر کوہ طور کے مقام پر لکھے ہوئے قانون کی طرح دھی کیا تھا، اس نے اس کی طرح یہ بھی واجب التدیم ہے جبکہ یہ کتاب تصنیف ہوئی ہے برابر یہودیوں میں درس و تدریس کے طور پر رائج ہے، بڑے بڑے علماء نے اس کی دو شرحدیں لکھی ہیں، پہلی شرح تیسرا

صدی میں اور شیعیم میں لکھی گئی، اور دوسری شرح چھٹی صدی کے شروع میں بابل کے اندر لکھی گئی، ان دونوں شروحوں کا نام کمرا ہے، کیونکہ کراکے معنی لغت میں "کمال" کے ہیں، ان کے خیال میں ان دونوں شروحوں سے متن کی پوری پوری توضیح ہو گئی ہے، شرح اور متن دونوں کے مجموعے کا نام تالמוד ہے، میں سے الگ الگ امتیاز کے لئے یوں کہا جاتا ہے کہ "تالמוד اور شیعیم" اور "تالמוד بابل" موجودہ زمانے کا یہودی مذہب مکمل طور پر ان دونوں "تالمودوں" میں جوانبیاء کی کتابوں سے خارج ہیں درج ہے اور پونکہ "تالמוד اور شیعیم" پھرید ہے، اس لئے ان کے یہاں موجودہ زمانے میں تالמוד بابل زیادہ مردّج ہے۔

اور ہورن آپنی تفسیر مطبوعہ ۱۸۲۳ء جلد ۲ حصہ اول کے یابج میں کہتا ہے: "مشناوہ کتاب ہے جو یہودیوں کی مختلف روایتوں پر اور مقدس کتابوں کے متنوں کی شروحوں پر مشتمل ہے، ان کا خیال اُس کے باسے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کوہ طور پر جس وقت توریت عطا فرمائی تھی اسی وقت یہ روایات بھی دے دی تھیں، پھر موسیٰ سے ہارونؑ کو اور یوشعؑ سے الیزر کو اور ان سے دوسرے پیغمبروں کو اور ان سے دوسرے مشائخ کو، اسی طرح ایک پشت سے دوسری پشت کو چلتے ہوئے شمعونؑ کی پہنچیں، یہ وہی شمعونؑ تھے جنہوں نے پہمارے نجات دہندہ خدا کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، ان سے کلائیں کو پھر اس سے یہوداہ حق دشمن کو پہنچیں، اس نے بڑی محنت سے چالیس سال میں ان کو دوسری صدی میں کتابی صورت میں جمع کیا، یہ کتاب نسلأ بعد نسل یہودیوں میں اس دلت سے مستحل جی آئی ہے، اور اکثر اس کتاب کی عزت لکھے ہوئے قانون کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں، پھر کہتا ہے کہ:

ہشتاکی دو شرچیں ہیں، جن میں سے ہر ایک کا نام کراہے، ایک "کمرا اور شلیم" جو بعض محققین کی رائے کے مطابق تیسرا صدی میں شلیم میں لکھی گئی اور فادر مون کی رائے کے مطابق پانچویں صدی میں، دوسرا "کمرا بایبل"، جو پھٹی صدی میں بایبل کے اندر لکھی گئی، "بیر کمرا" قطعی یہودہ قصور اور کہاں یہوں پر مشتمل ہے، لیکن یہی یہودیوں کے نزدیک زیادہ معتبر ہے اور اس کا پڑھنا پڑھنا ناچنان مروج ہے، یہ لوگ ہر مشکل اور چیزیدہ معاملے میں اس لفظ کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ان کی رہنمائی کرے گی، کمرا کا نام رکھنے کی وجہ ہے کہ اس لفظ کے معنی کمال کے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ شرح توریت کا مکمال ہے، اور کسی شرح کا اس سے بہترہ دننا ناممکن ہے، اور نہ اس کے بعد اور کسی شرح کی ضرورت باقی رہتی ہے، اور جب متن کے ساتھ کمرا اور شلیم کو شامل کر لیا جائے تو مجموعے کو "المود اور شلیم" کہا جاتا ہے، اور جب "کمرا بایبل" کو متن کے ساتھ ملا لیا جائے تو مجموعے کو "المود بایبل" کہا جاتا ہے، اقل یہ کہ یہودی زبانی روایات کا توریت کی طرح اعتبار کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ان کی اس سے زیادہ تعظیم کرتے ہیں، وہ ان کو بمنزلہ رُوح اور توریت کو بمنزلہ جسم سمجھتے ہیں، پھر جب توریت کی پوزیشن بہے تو دوسری کتابوں کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں،

دوسری بہت یہ معلوم ہوتی کہ ان روایات کا جامع یہوداہ حق دکش ہے جس نے ان کو دوسری صدی کے آخر میں جمع کیا، یہ روایات ایک ہزار سات سو سال تک محض زبانی یادداشت کی حیثیت رکھتی تھیں، پھر اس دوران میں یہود پر بڑے بڑے مصائب اور اور شدائد سمجھی واقع ہوئے، مثلاً بخت نصر اور انتیوکس اور طیطوس وغیرہ کے حادثے لئے تالود بایبل اور تالود پر شلم" میں سے ہر ایک کے پھر دو حصے ہیں، پہلے حصے کو "حلک" کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو "بحدہ" ہے، ہلکہ میں سچھ سوتیرہ حکام ہیں، اور بحدہ میں روایات اور قصہ، (تاریخ صحف سعادی اذ سید نواب علی صاحب، ص ۲۸، گرچی ۱۹۶۳ء) ملت

جن میں تواتر کی صورت یقیناً منقطع ہو گئی تھی، اور کتاب میں بھی صالح اور بر باد ہو چکی تھیں، جیسا کہ دوسرے بار سے معلوم ہو چکا ہے، ان حالات کے باوجود یہود کے نزدیک اس کا اعتبار توریت سے بھی زیادہ ہے۔

تمیری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ روایتیں اکثر طبقات میں صرف ایک ایک راوی سے منقول ہوتی رہیں جیسے کہ لائل اول و دوم اور سمعون دوم و سوم، حالانکہ یہ دو کے نزدیک یہ لوگ انبیاء میں بھی شامل نہیں ہیں، اور عیسائیوں کے نزدیک شدید ترین کافر اور منکر یہ مسیح میں سے ہیں، اس کے باوجود یہ روایات یہود کے نزدیک ایمان کی بنیاد اور اصل عقائد ہیں، اس کے برعکس یہ ملے نزدیک وہ صحیح حدیث بھی جو آحادیت کی روایت سے منقول ہو، عقائد کی بنیاد ہرگز قرار نہیں دی جاسکتی، چونکہ بات یہ معلوم ہوئی کہ جب "مگر اب ابل"، چھٹی صدی میں لکھی گئی ہے، تو اس کے یہودہ قصۂ کہانیاں ہورن کے قول کے موافق دو ہزار سال تک محفوظ رہیں رہیت کے ذریعے محفوظ تھے،

جب محققین فقرہ پروٹست کے اعتراض کے مطابق یہود کی پوزیشن ہے تو اس سے تمام مسیحی متقدیں کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں، یوسی بیس جس کی تاریخ علماء کی تھوڑک اور فرقۂ پروٹست دونوں کے بیان معتبر ہے اپنی تاریخ مطبوعہ ۱۸۴۸ء کی کتاب کے باب ۹ میں یعقوب خاری کے حال میں یوں کہتا ہے کہ:

"کلینیش نے ایک قابل ناشت فضۂ اپنی سالوں کتاب میں اس یعقوب کے حال کے بیان میں نقل کیا ہے، ظاہر ہے کہ کلینیش نے یہ فضۂ اپنی زبانی روایات سے نقل کیا ہے، جو اس کو اپنے باپ دادوں سے پہنچی تھیں"

رس کے بعد تمیری کتاب کے تمیرے باب میں ص ۱۲۳ پاریسیوس کا قول نقل کرتا ہے:

"افس کا گر جا جس کو پوس نے تغیر کیا تھا اور جس میں یوحنّا خاری نے

لے دیجئے ص ۸۹ و ۹۰، جلد دوم ۷۵ یعنی تین سے کم اس کے راوی ہوں،

سلطنت مرجانوس تک قیام کیا، حواریوں کی احادیث کا پختہ کوہا ہے ॥

پھر اسی صفحہ پر کلینٹس کا یہ قول نقل کیا ہے :

”یو جتا حواری کی نسبت ایسا قصہ جو سچا اور واقعی ہے جس میں اصل احتجوٹ نہیں ہے اور جو سینوں میں محفوظ چلا آتا ہے ॥“

پھر کتاب ثالث کے باب ۲۷ ص ۱۲۶ میں کہتا ہے :

”میسح کے شاگردوں کی تعداد حواری میں کی طرح بارہ ہے، اور، رسول ہیں، اور دوسرے بہت سے لوگ ہیں جو حالات مذکورہ سے ناواقف نہ ہتھے، (یعنی ان حالات سے جن کو ان بھی دالوں نے لکھا ہے، لیکن ان میں سے فقط یو خنا اور متی نے انہیں لکھا ہے اور زبانی روایات سے بھی معلوم ہوا کہ ان دونوں کا لکھنا بھی ضرورت کی وجہ سے تھا۔“

پھر کتاب ثالث کے باب ۲۸ صفحہ ۱۳۲ میں کہتا ہے :

”ارنیوس نے اپنی تیسرا کتاب میں ایک قصر لکھا ہے جو اس لائق ہے کہ لکھا جائے اس کو یہ دانہ پولیکارپ سے بطور زبانی روایت کے پہنچا۔“

پھر کتاب رابع کے باب ۷ ص ۱۲۷ میں کہتا ہے :

”میں نے اور شلیم کے پادریوں کے حالات ترتیب فارکسی کتاب میں نہیں دیکھے مگر زبانی روایت سے ثابت ہے کہ وہ تھوڑی مدت تک رہے ॥“

پھر کتاب ثالث کے باب ۶ صفحہ ۱۳۸ میں کہتا ہے :

”زبانی روایت کے ذریعے ہم کو معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ جب آنکھیں کو قتل کرنے کے لئے عردم لے گئے، تاکہ اس کو صرف ہیلائی ہونے کے جرم میں دزدیں کے آگے ڈال دیا جائے، اور اس کا گذر ایشیا پر فوجی حفاظت میں ہوا۔ تو راستے میں جس قدر مختلف گرجاتے دہان کے لوگوں نے اس کی نصیحتوں اور اقوال سے قوت حاصل کی، اس نے ان لوگوں کو ان بدعتات سے بھی باخبر کیا جو اس زمانے میں پھیلی ہوئی تھیں، اور ان کو زبانی روایات کے ساتھ

چھٹے رہنے کی سخت تائید کی، اور مزید یادداشت کے لئے اس نے بہتر سمجھا کہ ان روایات کو لکھ دیا جائے، اور ان پر اپنی گواہی بھی ثبت کر دی، پھر کتاب ثالث کے باب ۳۹، ص ۳۲ پر کہتا ہے کہ:

مپلے پیاس نے اپنی کتاب کے دیباچے میں کہا ہے کہ میں متحالے فائزے کے لئے وہ نہام چیزیں لکھے دیتا ہوں جو صحیح تک شاخ کے ذریعے پہنچنی ہیں، اور پوری تحقیق کے بعد میں نے ان کو محفوظ کر لیا تھا تاکہ اس پر میری مزید شہادت سے ان کی تحقیق اور صحائی اور زیادہ ثابت ہو جائے، کیونکہ میں ہمیشہ سے ان لوگوں کی روایات سننا پسند نہیں کرتا جو بکثرت لغو گوئی کرتے ہیں، اور دوسری نصیحتوں کی بھی تعلیم کرتے ہیں، بلکہ میں نے صرف ایسے لوگوں سے احادیث شنی ہیں جو سوائے ان سچی نصیحتوں کے جو ہمدی پچھے خداوند سے منقول ہیں اور کچھ نہیں جانتے، اور مشائخ کے متبوعین میں سے جن جن سے میں ملا ہوں، ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ اندر اوس یا پطرس یا فیلیپس یا تو ما یا یعقوب یا متی یا ہمارے خدا کے کسی شاگرد نے یا رسول یا حضرت یوحنا نے جو ہمارے خدا کے مرید سخنے کیا کہا؟ کیونکہ مجھ کو جو فائدہ زبانی روایات سے ہوا وہ کتابوں سے قطعی نہیں ہوا۔^{۱۷}

پھر کتاب رابع کے باب ۱۵ ص ۱۵۱ میں کہتا ہے:

”بھیسی بوس کنیسا کے مورخین میں مشہور ہے، میں نے اس کی تالیفات سے بہت سی چیزیں نقل کی ہیں، جن کو اس نے حواریین سے بذریعہ زبانی روایات کے نقل کیا ہے، اس مصنف نے حواریین کے مسائل کو جو اس کو زبانی روایات کے طور پر سخنے آسان عبارت میں پائیں گتابوں میں لکھا ہے۔“^{۱۸}

پھر کتاب رابع کے باب ۱۵۸ ص ۱۵۸ پر پولیکارپ کے حال میں ارمنیوں کا قول نقل کیا ہے:

”پولیکارپ نے ہمیشہ اہنی چیزوں کی تعلیم دی جو اس نے حواریین سے اور

کیسے کی لغت سے بذریعہ روایت حاصل کی تھیں، اور جو سچی باتیں تھیں؟ پھر کتاب خامس کے بابت میں آرٹیوس کے داسطے سے روم کے استقوں کی فہرست نقل کرتا ہوا ص ۲۰۱ پر کہتا ہے :

”رب تہر دس تک جو اس سلسلے کا بار ہواں استقف ہے جو ہم تک صحیح اور سچے داسطے سے اور حاریوں سے بذریعے زبانی روایات کے پہنچا ہے“ پھر کتاب خامس کے بابت ص ۳۰۶ میں گلینٹس کا قول نقل کرتا ہے :

”میں نے یہ کتنا پیس بڑائی اور بڑی حاصل کرنے کے لئے منہیں لکھی ہیں، بلکہ اپنے بڑھاپے کے خیال سے، اور اس لئے تاکہ میری سچوں کا تزیاق ہو سکے، بطور تفسیر کے میں نے ان کو جمع کیا ہے، گویا یہ اُن الہامی مسائل کی شرح ہیں جن کی بدولت میں بلندی اور بزرگی کو پہنچا، اور سچوں، برکتوں والوں میں شامل ہوا، ان میں سے بونی گوئی سمجھی ہے جو یونان میں تھا، اور دوسرے جو میکنیا کریشیا میں مقilm تھا، باقی دوسرے لوگ سب مشرق کے ہمسنے والے تھے، ان میں ایک شامی اور دوسرے اعرابی، فلسطین کا باشندہ تھا، اور وہ شیخ جن کی خدمت میں میں سب سے آخر میں پہنچا ہوں، وہ مصر میں گوشہ نہائی دگنا میں رہتے تھے، جو سارے مشائخ سے افضل تھے، ان کے بعد پھر میں نے کسی شیخ کے تلاش کر لے کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ ان سے بہتر کوئی شیخ دنیا میں موجود نہ تھا، یہ تمام مشائخ دہ سچی روایات محفوظ اور زبانی یاد رکھتے تھے جو مقدس پولس دلیعقوب ولیو حنا پولس سے پشت در پشت اور نسل بعد نسل نقل ہوتی جیلی آئی تھیں“

پھر کتاب خامس کے بابت ص ۲۱۹ پر آرٹیوس کا قول نقل کرتا ہے :

”میں نے خدا کے فضل سے یہ روایتیں بڑے اہتمام اور کوشش کے ساتھ شنی ہیں اور ان کو اپنے بیسے کی شکنی پر بجائے کاغذ کے لکھا ہے، اور عرصہ دراز سے میرا معمول ہے کہ میں ایمانداری سے ان روایات کا تکرار اور

اعادہ کرتا رہتا ہوں ॥

پھر کتاب خامس کے باب ۴۳ ص ۲۲۲ میں کہتا ہے :

”پولی گرائیں اسقف نے ایک روایت جو اس کو زبانی روایات کے طور پر پہنچی تھی، اپنے اس خط میں لکھی ہے جو اس نے کینسر روم اور دکتر کو بھیجا تھا ॥“

پھر کتاب خامس کے باب ۴۵ ص ۲۲۶ پر کہتا ہے :

”نا رکھوں اور تھیر فلوس و کا سیوس جو فلسطین کے اسقف ہیں، اور کینسر صور کے اسقف نیز اسقف تولماق کلاروس اور دوسرے لوگ جوان اساقفوں کے ہمراہ آئے تھے، ان سب نے بہت سی چیزیں اس روایت کے سلسلے میں جوان کو عید فصح کے باعث میں حواریں سے پہنچی تھی، اور بذریعہ زبانی روایات نسلہ بعد نسل متفوں ہوتی چلی آئی تھیں پیش کیں، اور سب نے کتاب کے آخر میں لکھا کہ اس کی نقیص کراکر تمام کینسروں کو بیحیج دی جائیں ہاگر جو لوگ سیدھی راہ سے چل رہے ہو جاتے ہیں اُن کے لئے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہ رہے ॥“

پھر کتاب سادس کے بابت، ص ۴۶ میں کلینٹس اسکندر یانوس کے حال کے بیان میں (جو خاریوں کے تبع رابعین میں سے تھے) کہتا ہے :

”وہ اپنی اس کتاب میں جس کو عید فصح کے بیان میں ”مالیت“ کیا ہے کہتا ہے کہ مجھ سے دوستوں نے درخواست کی کہ میں ان روایتوں کو جو اساقفوں سے میں نے سنی ہیں آنے والی نسلوں کے فائدے کے لئے لکھ دوں ॥“

پھر کتاب سادس کے بابت ص ۴۷ میں کہتا ہے :

”ایفریکا نوں اپنے اس رسالے میں جو اس زمانے میں بھی موجود ہے، اور جس کو اس نے ارستد لیس کے پاس بھیجا تھا مسیحؐ کے نسب کے بارے میں جو روایت اسے اس کے باپ دادوں کے واسطے سے پہنچی تھی اس کے مطابق وہ متی اور لوقا کے متعارض بیانات میں تطبیق دیتا ہے ॥“

ان سترہ اقوال سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ عیسائیوں کے متقدمین زبانی روایتوں پر بڑا بھاری اعتماد کرتے تھے، جان ملٹر کتیخولک اپنی کتاب میں جو ڈربی میں ۱۸۲۶ء میں طبع ہوئی ہے جمیں بردن کے نام اپنے روانہ خط میں کہتا ہے :

”میں اس سے پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ فرقہ کتیخولک کے ایمان کی بنیاد صرف دہ کلام اشہر نہیں ہے جو لکھا ہوا ہے، بلکہ عام ہے، خواہ لکھا ہوا ہو یا بے لکھا ہوا، یعنی کتب مقدسہ اور زبانی روایات اس تشریح کے مطابق جو کہ نیز کتیخولک نے کی ہے“

پھر اسی خط میں کہتا ہے :

”درینوس نے اپنی کتاب کی جلد نمبر ۳ باب نمبر ۹ میں کہا ہے کہ طالبینِ حق کے لئے اس سے زیادہ آسان اور سہیل اور کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ہر کتبیے میں اُن زبانی روایات کی جستجو اور تلاش رکھیں جو حواریین سے منقول ہیں اور ان کو سارے عالم میں پھیلائیں“

پھر اسی خط میں کہتا ہے کہ :

”درینوس نے اپنی کتاب کی جلد نمبر ۴ کے باب نمبر ۲ میں کہا ہے کہ قوموں کی زبانیں اگرچہ مختلف ہیں، لیکن زبانی روایتوں کی حقیقت ہر مقام پر بیکار ہو گی، جو منی کے کہنے سے تعلیم و عقائد میں فرانس اور اسپین اور مشرق و مغرب اور ایسا کے کہنسوں کے خلاف نہیں ہیں،“

پھر اسی خط میں کہتا ہے کہ :

”درینوس نے جلد نمبر ۳ کے باب نمبر ۲ میں کہا ہے کہ چونکہ سارے کہنسوں کے سلسلوں کا حال طوالت سے غالی نہیں ہے، اس لئے رومی کلیسا کی روایت اور عقیدے کو بنیاد فزار دیا جائے گا، جو بے زیادہ قدیم اور بڑا مشہور ہے، جس کے بانی پطرس اور پولس ہیں، باقی تمام کہنسے اسکی موافقت کرتے ہیں، کیونکہ وہ زبانی روایات حواریین سے نسل ابتداء نسل منقول ہوتی آئی“

پس دہ سب اس میں محفوظا ہیں،"

پھر اسی رسالے میں کہتا ہے:

"ارنیوس نے کتاب رابع کے باب ۴ میں کہا ہے کہ ہم اگر فرض کریں کہ حواریین
نے ہمارے لئے کتابیں نہیں چھوڑیں، پھر بھی ہم کہیں گے کہ یا تو ہم پر یہ بات
لازم ہے کہ ہم ان زبانی روایتوں کے ذریعے ثابت ہونے والے احکام کو
مانیں، جو حواریین سے منقول ہوتی چلی آتی ہیں جن کو حواریین نے ایسے لوگوں
کے حوالے کیا تھا جنہوں نے ان کو کہیں تک پہنچا دیا، اور یہ وہی روایتیں
ہیں جن کے مطابق وہ وحشی لوگ عمل کرتے ہیں، جو میسیح پر بغیر حدف اور
روشنائی کے استعمال ایمان دے سکتے ہیں۔"

پھر اسی خط میں کہتا ہے کہ:

"ٹرولین نے اپنی کتاب میں حیں کواس نے اہل بدعت کے رد میں تالیف کیا
ہے، اور جو شہر عنان میں طبع ہوئی ہے صفحہ ۳۶، ۳۷ میں کہا ہے کہ بدعتی
لوگوں کی عادت ہے کہ وہ هر فکیب مقدس سے استدلال کرتے ہیں، اور
کہتے ہیں کہ کتب مقدسہ کے علاوہ اور کوئی چیز ایمان کی بنیاد ہونے کے لائق
نہیں ہے، تو یہ لوگوں کو اسی جیلے سے عاجز کرنے ہیں، اور کمزوروں کو اپنے
جال میں پھانستے ہیں، اور درمیانی قسم کے لوگوں کو شک میں مبتلا کرتے ہیں
اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی اسبابات کی اجازت نہ دو کہ ووفاقی
کتب مقدسہ سے استدلال کریں، کیونکہ اس مباحثے سے ذرۂ برابر بھی
فائدے کی توقع نہیں جو کتب مقدسہ کے ساخت کیا جائے، سوائے اس کے کہ
دماغ اور پیٹ دونوں خالی ہو جائیں، اس لئے کتب مقدسہ کی طرف رجوع
کرنا بخوبی غلط ہے، کیونکہ ان کتابوں سے کسی بات کا قطعی فیصلہ نمکن نہیں،
اور اگر کچھ حاصل بھی ہو گا تو وہ ناقص ہو گا، اور لگر یہ بات بھی نہ ہوتی تب بھی
اس صورت میں مبتلا ہٹے کاظم رفیق یہ ہوتا کہ سب سے پہلے یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ ان

کتب مقدسہ کا تعلق کن لوگوں سے ہے؟ اور کس شخص نے کس شخص کو کس وقت پہنچایا؟ جبکی بد دلت ہم میانی قرار پائے، اس لئے کہ جس مقام میں بھی دین مسیحی کے احکام اور عقائد موجود ہوں گے، وہاں انجیل اور اس کے معانی اور دین مسیحی کی ان تمام روایتوں کی صداقت موجود ہو گی جو صرف زبانی ہیں؟

پھر اسی خط میں کہتا ہے:

”آرمج� نے کہا ہے کہ یہ بات ہمارے لئے مناسب نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کا اعتبار کریں جو کتب مقدسہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کلامِ مختارے آگے ہے، تم اس کو دیکھو، اور اسی پیغام کرو، یعنی کہ یہ بات ہمارے لئے لائق نہیں ہے کہ ہم کنیت کی روایت کو ترک کر دیں، بلکہ ہم اس چیز کے سوا کسی اور شے کے معتقد ہوں، جو ہم تک اللہ کے کنبسوں سے مسلسل روایت کے ذریعے پہنچی ہے۔“

پھر اسی خط میں کہتا ہے کہ:

”باسلیوس نے کہا ہے کہ بہت سے مسائل کنیت میں محفوظ ہیں، جن کو وعدہ و نصیحت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کچھ تو ان میں سے کتب مقدسہ سے لئے گئے ہیں، اور کچھ زبانی روایتوں سے، اور دین میں دو نوں فوت کے لحاظ سے برابر ہیں، جس شخص کو شریعت میسیحی سے تھوڑی سی بھی واقفیت ہو گی وہ اس پر اعتراض نہیں کرے گا۔“

پھر اسی خط میں کہتا ہے کہ:

”ایپی فالمیس نے جو کتاب بدعتی لوگوں کے مقابلے میں تالیف کی ہے اس میں کہا ہے کہ زبانی روایتوں کو استعمال کرنا ضروری ہے، یعنی کتب مقدسہ میں تمام چیزوں موجود نہیں ہیں۔“

پھر اسی خط میں کہتا ہے کہ:

”مگر میساشم نے خسینگیوں کے نام درسرے خط کے باب آیت ۱۲ کی شرح

لہ اس آیت کے الفاظ آگے ص ۹۲۱ پر دیکھئے۔

میں تصریح کی ہے کہ اس سے صاف ثابت ہوا کہ حواریین نے ہم تک تمام باتیں تحریر کے ذریعہ نہیں پہنچائیں، بلکہ بہت سی چیزوں بغیر تحریر کے بھی پہنچائیں ہیں، اغتاب میں دونوں برابر ہیں، اسی لئے ہماری رائے ہے کہ کلیسا کی روایت ہی ایمان کی بنیاد ہے، اور جب بھی ہمکو کوئی بات زبانی روایت سے ثابت ملے گی اس سے زیادہ اور کوئی خبر ہم تلاش نہیں کریں گے ॥

پھر اسی خط میں کہتا ہے :-

”آگذشان ایک لیے شخص کے حق میں جس کا ہم برعت سے پتشہر (اصطباخ) حاصل ہوا ہو لکھتا ہے کہ اگرچہ اس بارے میں کوئی تحریر یہ سند تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ چیز قابل لحاظ ہے کہ یہ رسم زبانی روایت کے ذریعے حاری پڑھنی ہے، یونکہ بہت سی چیزوں کی نسبت عام کلیسا تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو حواریین نے بخوبی زیکر کیا ہے، حالانکہ ہمکی ہوئی نہیں ہیں ॥“

پھر اسی خط میں کہتا ہے کہ :-

”اسقف ون سنت نے کہا ہے کہ مبتدا عین کو کتب مقدسہ کی تغیری عام کنیتوں کی روایت کے مطابق کرنا چاہئے ॥“

ان بارہ اقوال سے یہ بات پائی ہوت کو پسخ گئی کہ زبانی روایتیں فرعون کی خود کے پہاں ایمان کی بنیادی چیز ہیں، اور متفقہ میں کے نزدیک معتبر کھنوک ہمیلتاری کی جلد نمبر ۳، ص ۶۳ میں ہے کہ :-

”ربی دوسری قدسی نے بہت سے شاہد اس بات کے پیش کئے ہیں کہ کلام مقدس کا منن حدیث اور زبانی روایت کی مدد کے بغیر سمجھا جانا ممکن نہیں ہے، کھنوک کے مشائخ نے ہر زمانے میں اس کی پروردی کی ہے، اور ٹرولین کہتا ہے کہ مسیح نے جن باتوں کی تعلیم حواریوں کو دی سختی ان کو سمجھنے کے لئے ان کلیساوں کی جانب رجوع کرنے اضوری ہے جن کو حواریین نے قائم کیا، اور ان کو اپنی تحریرات اور زبانی روایات کی تعلیم دی ॥“

ان مذکورہ روایات سے معلوم ہوا کہ یہودیوں کے نزدیک روایات و احادیث کی غلطت توریت کی غلطت سے زیادہ ہے، اسی طرح عیاٹیوں کے تمام مقدم میں مشتمل ہیں، ارینوس، کلاروس، سکندر یا نوس، الیفر بخانوس، ٹرولین، آر بھو، باسیلوس اپنی فائیس، کریز اسٹم، آگ شائن، دن سنت استف وغیرہ تمام زبانی روایتوں کی غلطت کے قائل ہیں، اور ان کو معتبر اور مسترد مانتے ہیں، اور اگناشنس نے اپنی آخری عمر میں زبانی روایتوں کو منظبوطی کے ساتھ تھامے رہنے کی وصیت کی تھی، اسی طرح کلیمنٹ اپنے مشائخ کی تاریخ میں لکھتے ہیں:

”وہ لوگ ان سچی روایتوں کے حافظ تھے جو پطرس، یعقوب، یوحنا، پوس سے نسل بعد نسل منقول ہوتی آئی ہیں“

اپنی فائیس نے کہا:

”جونق عجم کو دوستوں کی زبانی روایتوں سے پھر بخدا وہ کتابوں سے نہیں

پہنچ سکا“

ارینوس نے کہا کہ

”خدا کے فضل سے میں نے احادیث کو کامل غور داہم کے ساتھ مٹنا، اور بجائے کاغذ کے سینے میں لکھ دیا ہے، اور عرصہ دراز سے میری عادت اور معمول ہے کہ میں ایمانداری سے ان روایتوں کا تحریر اور افادہ کرتا رہا ہوں“

ادریس سمجھی کہا کہ:

”طالبین حق کے لئے اسی زیادہ سهل صورت نہیں کر دے کلیساؤں میں ان زبانی روایتوں کو تلاش کریں جو عواریں سے منقول چلی آئی ہیں، اور ان کو سارے عالم میں پھیلا دیں“

ادریس سمجھی کہا کہ:-

”اگر ہم یہ مان سمجھی لیں کہ حواری ہمارے لئے کتابیں نہیں چھوڑ سکے، پھر سمجھی ہم کہیں گے کہ ہم پر لازم ہے کہ ان احکام کو مانیں جو الیسی زبانی روایتوں سے ثابت

ہوں جو حوار میں سے منقول ہوتی آئی ہیں؟ اور آر بجن اور ڈر ٹولین دنوں ایسے شخص کو ملامت کرتے ہیں جو احادیث کا منکر ہوا، باسیلوس نے کہا ہے کہ جو مسائل کتب مقدار سے مستنبط ہوں وہ اور جو احادیث سے ماخوذ ہوں وہ دو نوں اعتبار میں برابر ہیں، اور کلیسا کی روایت بنیاد ایمان ہے، اور جب کوئی بات زبانی روایت سے ثابت ہو جائے، پھر مزید کسی چیز کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے،

آگلہ شاعر نے صاف کہا یہ کہ بہت سی چیزوں کے متعلق عام کلیات لیم کرتے ہیں کہ حوار میں نے ان کو مقرر کیا ہے حالانکہ وہ لکھی ہوئی نہیں ہیں، اس لئے انصاف کی بات یہ ہے کہ سب کو رد کر دینا تعصیت اور چالات سے خالی نہ ہو گا، اور خود انجلی بھی اسکی تکذیب کرتی ہے:-

زبانی روایات کے حق میں انجلی کی شہادتیں | چاچہ انجلی مرقس ۲۳ آیت کے باب آیت

میں یوں ہے کہ:-

”ادربے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن خلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی پیانا کرتا تھا“

اور یہ بات بعیر ہے کہ یہ تمام تفسیریں یاؤں میں سے بعض منقول نہ ہوں، اور یہ بھی ماقابل یقین ہے کہ حواری تafsیر کے محتاج ہوں اور ہمارے ہم عصر لوگ ان سے بے نیاز اور مستغنی ہوں، اور انجلی یو خان کے باب آیت ۲۵ میں ہے کہ:-

”ادر سمجھی بہت سے کام ہیں جو لیوں نے کئے، اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتنا میں لکھی جاتیں ان کے لئے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی“

انجلی کی اگرچہ یہ بات مبالغہ اور غلو سے خالی نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اپنی ہر بات کو تمثیلات میں کہا کرتے سنے، اور تہماں میں ان تمثیلات کی تشریح کرنے تھے ۱۴ تفہی

نہیں سکا یہ کہنا کہ "اور بہت سے کام ہیں" یہ مسیحؐ کے تمام افعال کو شامل اور عام ہے، خواہ وہ معجزات ہوں یاد دسری چیزوں، اور بات بعید ہے کہ ان میں سے کوئی چیز زبانی روایت سے منقول نہ ہو،

اور تخلیقیوں کے نام دوسرے خط کے باب آیت ۱۵ میں ہے:

"لے بھائیں بابت قدم رہو، اور جن روایتوں کی تم نے ہماری زبانی یا خط کے ذریعے تعلیم پائی ہے اُن پر قائم رہو"

اس کے یہ الفاظ کہ "خواہ زبانی ہوں یا خط کے واسطے سے" صاف اس پر دلالت کر رہے ہیں کہ بعض چیزوں تو ہم تک بذریعہ تحریر پہنچی ہیں، اور بعض روایات چیزیں کے ذریعے سے، لہذا ضروری ہوا کہ علیاً یوں کے نزدیک دونوں معابر ہوں جیسا کہ اس مقام کی شرح میں کریم اسٹم نے تصریح کی ہے،
کرختیوں کے نام پہلے خط کے باب آیت ۲۷ میں (عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۲۳ء)

کے مطابق اس طرح ہے:

"اور باقی باتیں (کی) میں آگر تم کو نصیحت کروں گا"

اور ظاہر ہے کہ یہ باتیں جن کی ضیحت کرنے کا وعدہ پولسی نے کیا ہے لکھی ہوئی ہیں ہیں اور یہ بات بعید ہے کہ ان میں سے کوئی بھی منقول نہ ہو،

اور شیخوخیں کے نام دوسرے خط کے باب اول آیت ۱۳ میں ہے:

"جو صحیح باتیں تو نے مجھ سے سُنیں اسے ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے ان کا غاہک یاد رکھو"

اور اس عبارت میں یہ الفاظ کہ "جو صحیح باتیں تو نے مجھ سے سُنیں" صاف دلالت کر رہے ہیں پر وہ سنت باطل میں یہ آیت نمبر ۱۵ ہے، اور کیتوں کی باطل میں آیت نمبر ۱۴۔

ملہ دیکھئے ص ۹۱،

یہ اطہار الحق میں نقل کی ہوئی عربی عبارت کا ترجمہ ہے، باطل کے جتنے ترجمے ہمارے پاس ہیں، ان سب میں عبارت یہ ہے "اور باقی باتوں کو میں آگر درست کر دوں گا" ۱۲ ترقی

ہیں کہ بعض باتیں زبانی بھی نقل کی گئی ہیں، اور اسی خط کے باب آیت ۲ میں ہے:

”ادر جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھے سے سُنی ہیں، ان کو ایسے دیانت دار آدمیوں کے پر درکر جاؤں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں؟“

دیکھئے! اس عبارت میں نصاریٰ کا مقدس پیشوائیتھیں کو دعاوت کے ساتھ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تم نے جو زبانی باتیں مجھے سے سُنی ہیں وہ نہ صرف یہ کہ یاد رکھو بلکہ ایسے لوگوں کو بینپا و وجود دسوں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور یوحنانے کے دوسرے خط کے آخر میں ہے:

”مجھے بہت سی باتیں تم کو لکھنا ہے، مگر کاغذ اور سیاہی سے لکھنا نہیں چاہتا بلکہ متحفظے پاس آنے اور روبرو بات چیت کرنے کی امید رکھتا ہوں تاکہ سماجی خوشی کامل ہو۔“

اور تیسرا خط کے آخر میں ہے:

”مجھے لکھنا تو تجھ کو بہت کچھ تھا، مگر سیاہی اور قلم سے تجھ کو لکھنا نہیں چاہتا بلکہ تجھ سے جلد طنز کی امید رکھتا ہوں، اس وقت ہم روبرو بات چیت کریں گے۔“

یہ دونوں آیات اس بات کو بتاتی ہیں کہ یوحنانے بہت سی باتیں وعدے کے مطابق زبانی بتائی ہیں، اب یہ چیز بعید ہے کہ وہ تمام باتیں یا ان میں سے بعض بذریعہ رداشت منقول نہ ہوں،

لہذا ان بیانات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ فرقہ پروٹسٹنٹ میں سے جو شخص مطلقاً احادیث کے معتبر ہونے کا انکار کرتا ہے وہ جاہل ہے، یا پھر انتہائی متحب اور ہٹ دھرم ہے، اور اس کی بات کتب مقدسہ اور جمہور علماء متقدیں کے خلاف ہے، اور بعض متقدیں کے فیصلے کے مطابق اس کا شمار بدعقیتوں میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فرقے کی بہت سی طبع ناد چیزوں میں روایات کا اعتبار کرتے پر

محور ہے، مثلاً یہ کہ بیبا جو ہر کے اعتبار سے باپ کے برابر ہے، اور یہ کہ روح القدس باپ اور بیٹے سے تکلا ہے، اور یہ کہ مسیح دو طبیعتوں والا اور ایک اقوام ہے، وہ دو ارادوں والا ہے، خدا نے اور السانی، اور یہ کہ وہ مرنے کے بعد جہنم میں داخل ہوا، دغیرہ دغیرہ، حالانکہ یہ خرافات یعنیہ عہدِ جدید میں کہیں نہیں پائی جاتیں، اور یہ لوگ ان چیزوں کے معتقد محض روایات اور تقلید کی بناء پر ہوئے ہیں۔

زبانی روایات کے معتبر ہونے پر ایزاس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ **بائبل کی دوسری شہزادی میں** کیا جائے مثلاً انجیل مرقس ولوقا کا اور کتاب اعمال الحوار میں کے اُنیں ابواب کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سب زبانی روایات کے ذریعے لکھے گئے ہیں، نہ اُنہیں مشاہد کے ذریعے لکھا گیا ہے اور نہ وحی کے ذریعے، جیسا کہ باپ اول میں معلوم ہو چکا ہے، اسی طرح کتاب امثال کے پانچ بابوں کا بھی (۲۴ سے ۲۵ تک) انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سب حقیقتیہ میں ان زبانی روایتوں سے جمع کئے گئے ہیں جو ان کے یہاں راجح تھیں، اور ان روایات کی تدوین اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے درمیان دوسو ستر سال کا عرصہ ہے، چنانچہ کتاب امثال کے باب ۲۵ آیت ایں ہے:

”یہ بھی سلیمان کی امثال ہیں جن کی شاہ یہوداہ حقیقتیہ کے لوگوں نے نقل کی تھی“

آدم کلارک مفسر اپنی تفیر مطبوعہ ۱۸۰۱ء میں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے کہتا ہے:

”و معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے آخر میں کچھ واقعات ہیں جو پادشاہ حقیقتیہ کے حکم سے ان زبانی روایات سے جمع کئے گئے ہیں جو عہدِ سلیمانؑ سے مشہور چلی آرہی تھیں، ان واقعات کو ان روایات سے ہی لوگوں نے جمع کیا، پھر ان

کو اس کتاب کا صنیعہ بنادیا، ممکن ہے کہ حز قیاہ کے دوستوں سے آشیاہ شنیاہ وغیرہ مراد ہوں، جو اس عہد کے پیغمبروں میں سے ہیں، اس صورت میں یہ صنیعہ بھی سند کے لحاظ سے باقی کتاب کی طرح ہو جائے گا، در نہ اس کو کتاب مقدس کا صنیعہ کیونکر بنانا سکتے تھے؟

اس میں مفسر مذکور کا یہ کہنا کہ ہادشاہ کے حکم سے زبانی روایتیں جمع کی گئی ہیں، ہمارے دعوے کی واضح دلیل ہے، رہا اس کا یہ کہنا کہ ممکن ہے یہ نقل کرنے والے بھی پیغمبر ہوں، سو یہ بات بالکل غلط ہے، اس لئے کہ خالی احتمال بغیر کسی دلیل کے مخالف پر جوت نہیں ہو سکتا، دلیل ان لوگوں کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، محض احتمال اور ظنی چیز ہے، اور یہ کہنا کہ اگر یہ روایتیں پیغمبروں سے مرفی نہ ہوتیں تو اس کو کتاب مقدس کے ساتھ کیونکر شامل کر سکتے تھے باطل ہے، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک زبانی روایات کا درجہ توریت کے درجے سے زیادہ ہے، جب توریت باوجود یہ وہ مثالیخی کی روایات سے تقریباً نشتہ، دو سال بعد جمع کی گئی ہے یہودیوں کے نزدیک معتبر اور سند بن گئی، نیز کراپل کے قصے کہا نیاں بھی معتبر ہو گئے باوجود یہ وہ دو سال بعد جمع کئے گئے ہیں، تو پھر ان پاپخ بالوں نے کیا قصور کیا اور صرف دو سو ستر سال بعد جمع کئے گئے (کہ وہ معتبر نہ مانتے جائیں؟)

بعض محققین علماء پرولٹٹ کا اعتراف

بعض محققین علماء پرولٹٹ نے انصاف سے کام لیتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ زبانی روایات بھی بھی ہوئی کتاب کی طرح معتبر ہیں، کتاب کیتھوں کہ ہیر لد جلد نمبر ۲ صفحہ ۶۳ میں اس طرح ہے:

ڈاکٹر بریٹ جوفسٹ پرولٹٹ کے فضلاء میں سے ہے، اپنی کتاب کے ص ۳۷ پر کہتا ہے کہ یہاں کتب مقدسہ سے واضح ہے کہ دین عیسوی پہلے

اسقفوں اور حواریوں کے تابعین کو زبانی روایت کے ذریعے حولے کر دیا
گی تھا، ادوان کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اسکی حفاظت کریں، اور
بچھلی نسل کے حوالے کر دیں، اور کسی مقدس کتاب سے خواہ وہ پوس
حواری کی ہو، یا کسی دوسرے حواری کی، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے
ان تمام چیزوں کو جن کو بخات میں دخل ہے اجتماعی طور پر یا انفرادی طریقے
پر لکھا ہو، اور اس کو قانون بنایا ہو، جس سے یہ بات سمجھی جائے کہ دین
ہیسوی میں کوئی ایسی ضروری چیز جس کو بخات میں دخل ہے، سوائے
لکھی ہوئی چیز کے نہیں ہے، اور اسی کتاب کے صفحہ ۳۲، ۳۴ میں کہتا
ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ پوس وغیرہ حواریوں کو کہ انہوں نے جس طرح احادیث
کو ہم تک بذریعہ تحریر پہنچایا ہے اسی طرح زبانی روایات کے ذریعے بھی
پہنچایا ہے، تو ان لوگوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے جو دونوں کو محفوظ نہ رکھیں
اور احادیث ہیسویہ ایمان کے باب میں لکھی ہوئی کے ماتحت معتبر ہیں اور لشیپ
مون ٹیک کہتا ہے کہ حواریین کی احادیث ایسی ہی معتبر ہیں جیسے ان کے خطوط
اور تحریریں پروٹستنٹ رادیوں میں سے کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا
کہ حواریین کی زبانی تقریریں ان کی تحریرات سے بڑھی ہوئی ہیں، جنگ و رتح
کہتا ہے کہ : کہ یہ جھگڑا کہ کوئی انجیل قانونی ہے اور کوئی قانونی نہیں ہے
زبانی روایت سے ختم ہو سکتا ہے جو پر جھگڑے کے لئے الصاف کا قاعدہ ہے۔

پادری تھامس سگل کتبیوں کا فیصلہ

پادری تھامس اپنی کتاب مرآۃ الصدق مطبوعہ ۱۸۵۱ء کے صفحہ ۱۸۰ و
۱۸۱ پر کہتا ہے :

«اسقف مانی سیک جو پروٹستنٹ کے علماء میں سے ہے، اس بات

کی شہادت دیتا ہے کہچھ سوا حکام ایسے ہیں جن کو اللہ نے دین میں خر کیا ہے، اور کلیسا ان کا حکم کرتا ہے، لیکن ان کے باسے میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ کتاب مقدس نے نہ ان کو کسی مقام پر بیان کیا ہے نہ تعلیم دی ہے۔“

اس فاضل کے اعتراف کے مطابق چھ سوا حکام زبانی روایت سے ثابت ہوئے ہیں اور فرقہ پر ولست کے نزدیک واجب التسلیم ہیں

دوسرافائدہ: اہم بائیس یاد رہتی ہیں

یہ بات صحیح تجربے سے ثابت ہے کہ جو چیز عجیب اور ہم تم بالشان ہوتی ہے وہ اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، اور جو معمولی اور سرسری ہوتی ہے وہ عموماً اہم نہ ہونے کی وجہ سے محفوظ نہیں رہتی، یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں سے جو کسی مخصوص کھانوں کے عادی نہ ہوں یہ سوال کریں کہ آپ نے گذشتہ کل یا پرسوں کو نساکھا یا ستخا؟ تو یہ بات ان کو اس لئے یاد نہیں ہوگی کہ نہ تو ان کو اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے، نہ ان کی نگاہ میں کھانا کوئی عجیب اور اہم معاملہ ہے کہ وہ ہر کھانے کو یاد رکھیں، یہی صورت تمام عمومی افعال و اقوال کی ہے، لیکن اگر آپ ان سے اُس دُمدار ستارے کے متعلق دریافت کریں جو صفر ۱۲۵۹ھ مطابق مارچ ۱۸۷۳ء میں نمودار ہوا ستخا، اور پورے ایک مہینے تک فضائی آسمانی پر چکنا رہا، اور کافی لمبا تھا، تو یہ واقعہ اکثر دیکھنے والوں کو محفوظ ہو گا، بہ دوسرا بات ہے کہ اس کے نمودار ہونے کا مہینہ اور سال ان کو یاد نہ رہا ہو، حالانکہ اس دلائل کو اکسیں سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، یہی کیفیت بڑے بڑے زلزلوں اور بڑی بڑی لٹائیوں اور نادر و اقعادت کی ہوتی ہے،

چونکہ مسلمانوں کو ہر زمانے میں حفظ قرآن کا اہتمام رہا ہے، اس لئے ان

میں قرآن کے حافظ اس زمانے میں بھی اسلامی ممالک میں ایک لاکھ سے زیادہ موجود ہیں، حالانکہ اکثر ملکوں سے اسلامی سلطنت مت گئی، اور ان ممالک میں دینی امور میں شستی بھی پیدا ہو گئی، اگر کسی عیسائی کو ہمارے اس دعوے میں کوئی شک ہو تو وہ تجربہ کر لے، اور صرف جامع از پر میں جاگر دیکھ لے، جہاں اُس کو ہر وقت ایک ہزار سے زائد حافظ قرآن میں گئے، جنہوں نے کامل تجوید کے ساتھ قرآن کو یاد کیا ہے، اور اگر مصر کے دیہات میں تلاش کیا جائے تو مسلمانوں کا کوئی بھی گاؤں قرآن کے حافظوں سے خالی نہیں ملے گا، مصر کے بہت سے خجراں، ٹھواں اور گدھے ہانکھے والے حافظ قرآن میں گئے، پھر اگر وہ منصف مزاج ہو گا تو ضرور اقمار کرے گا کہ یہ گدھے اور ٹھواں ہانکھے والے یعنی اس معاملے میں ان پایاؤں، بشپوں، اور پادریوں سے فائق ہیں جو اس زمانے میں مشرق سے مغرب تک پھیلے پڑے ہیں، حالانکہ یہ زمانہ عیسائی دنیا کی علمی ترقی اور عروج کا ہے، چہر جائیں کہ وہ غذشہ عیسائی دور حسین کی ابتداء سال تویں صدی سے پندرہویں صدی تک ہے، جس میں علماء پر دلستہ کے اعتراف کے مطابق جماعت علماء کا شعار تھا، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تمام یورپیں ممالک میں مجموعی طور پر بھی قوریت یا انجیل کے یادوں کتابوں کے دشمن حافظ بھی ایسے نہیں میں گئے جن کوئی ایک کتاب یادوں کتابیں لانگر ہے اور خچر ہانکھے والے حافظوں کے برابر یاد ہوں،

فائدہ ما میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ار بیوس نے کہا ہے کہ:
 "میں نے اثر کے فضل سے یہ صدیشیں بڑے غور و تدبیر سے سنی ہیں، اور میں نے
 ان کو پہنچنے میں لکھا ہے، نہ کہ کاغذ میں، اور میرا معمول عرصہ دران سے یہ ہے
 کہ میں ان کو دیانت کے ساتھ دُھرا تارہا ہوں" اور یہ بھی کہا تھا کہ:

"قوموں کی زبانیں اگر چیز مختلف ہوں، یعنی زبانی روایت کی حقیقت ایک ہی
 رہتی ہے، اس لئے کہ جرمنی کلیسا تعلیم اور عقائد کے معلمے میں فرانس، اسپین،

مشرق و مصر، یہیا کے کلباؤں کے مخالف نہیں ہیں ؟

ولیم میور تاریخ کلیسا مطبوعہ ۱۸۲۸ء کے باب سیں کہتا ہے کہ :

”متقدیں عیسائیوں کے بیہاء ایمانی عقیدوں میں جو عقیدے ایسے ہیں کہ ان کا عقائد
نجات کے لئے ضروری ہے، ان میں سے ایک بھی ان کے پاس لکھا ہوا نہیں ہے، حالانکہ
وہ بچوں کو ادن اشخاص کو جو ندہب عیسیٰ میں داخل ہوتے ہیں زبانی ملور
پرسکھا ہے جاتے ہیں، اور یہ عقیدے ہر قریب و دور مقامات پر یکسان ہی
چلے آتے نہیں، پھر جب ان کو کتابت کے ذریعے ضبط کیا گیا اور مقابلہ کیا گیا تو
تیک اور مطابق پایا گیا، اور سوائے معمولی لفظی اختلاف کے نفس مطلب اور اصل
مقدس بین کوئی فرق نہیں پایا گی۔“

معلوم ہوا کہ جو بات اہم اور مهم تم بالشان ہوتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، اس سے
زمانہ دراز گزرنے کی وجہ سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، یہ وصف اور خصوصیت قرآن
کریم میں نہیاں ہیں، حالانکہ بارہ سو سال کا طویل عرصہ گذر چکا ہے، مگر وہ جس طرح
ہر زمانے میں تحریم کے ذریعے محفوظ رہا، اسی طرح ہر دوسریں ہزاروں لاکھوں سینوں کے
ذریعے محفوظ چلا آتا ہے، پھر اس زمانے میں عیسائیوں کے بہت سے فرقے ایسے ہیں کہ اگر
ہم ان کے خواص اور بڑے بڑے مالوں کی جانب نگاہ ڈالیں، اور عوام اور جہلاء کو نظر ان
کو بیس تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کبھی اپنی کتاب مقدس کی تلا دست کرنا نصیب
نہیں ہوتا،

معلم میکائیل معلم میکائیل مشاہدہ جو علماء پر دشمنت میں ہے اپنی
کتاب الدلیل الی طاعة الانجیل مطبوعہ ۱۸۲۹ء کے صفحہ ۳۶

پر کہتا ہے :

”میں نے ایک روز فرقہ کیتوں کے ایک کامن سے پوچھا کہ کتاب مقدس کے
مطالعہ کی نسبت مجھ کو پسح پسح بتاؤ کہ تم نے اپنی زندگی میں اس کو کتنی مرتبہ
پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ پہلے تو میں کبھی کبھی پڑھ لیا کرتا تھا، اور بسا اوتھا

تہام کتا ہیں، لیکن اب ۱۲ سال سے رعیت کی خدمت میں منہمک ہونے کی وجہ سے مجھے کتاب مقدس کے مطالعہ کی کچھی فرصت نہیں ملی، تعجب کی بات یہ ہے کہ اکثر خوام کلیسا کے ان ناخداوؤں کی جیسا تھا اس سے واقف ہیں، پھر بھی جب یہ لوگ انھیں ہدایت بخشنے والی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے روکتے ہیں تو خوام مان جاتے ہیں۔“

تبیہ رفائلہ: مددوین حدیث کی مختصر تاریخ

صحيح حدیث مسلمانوں کے بیہاں بھی اس طریقے اور شرائع کے مطابق، جو عقرب بہم تفصیل سے بیان کریں گے معتبر ہے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ رگرامی:

اَتَقُولُ الْحَدِيثَ عَنِ الْأَمَا
عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَىٰ
مَتَعَمِّدًا فَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعِدًا
مِنَ النَّارِ،^۱
تُهْكَمَانَا دُوْزَخَ مِنْ بَنَاءِ
جَهَنَّمَ

حدیث متواتر ہے، جس کو ۶۴ صاحبہ نے جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں روایت کیا ہے، اس بناء پر قرآن اول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اہتمام رہا ہے، ان کا یہ اہتمام عیسائیوں کے اہتمام سے بہت زیادہ ہے، جیسا کہ ان کو ہر زمانے میں حفظ قرآن کا اہتمام عیسائیوں کے کتب مقدار کے حفظ کرنے کے اہتمام سے زیادہ رہا ہے، مگرچہ گرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے زمانے میں بعض مجبوروں کی بناء پر ان روایتوں کو کتابی شہی حدیث معنیٰ متواتر ہے: لَمَّا جَدَ هَذَا الْلَفْظُ الَّذِي ذُكِرَهُ الْمُصْنَفُ وَالرِّوَايَةُ طَرَقَ حَكِيمَةً أَخْرَجَهَا الشِّيخُ عَادَ وَالشِّرْمَذِنِي وَالبَتَّارُعُونَ عَلَىٰ وَالْمَغْيَثَةِ دَابِنَ مُسْعُودَ رَهْبَانِي رَاجِعًّا جَمِيعَ الْفَوَائِدِ، ص ۲۷ ج ۱۰ (۱)،

شكل میں جمع نہیں کیا، جس کی ایک بڑی مصلحت یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرآن کریم کے ساتھ مخلوط اور مشتبہ نہ ہو جائے، البته تابعین میں سے امام زہری رضی اللہ عنہ صیحہ "سعید وغیرہ رحمہم اللہ جیسے بزرگوں نے اس کی تدوین اور جمع کی ابتدا کی، مگر انہوں نے فہقی ابواب کی ترتیب کے مطابق ان کو ترتیب نہیں دیا، لیکن چونکہ یہ ترتیب عمدہ اور بہترین تھی، اس لئے طبع تابعین نے اسی ترتیب کو اختیار کیا، چنانچہ امام مالک نے جن کی پیدائش ۹۵ھ میں پے مدینہ میں مؤٹا تصنیف کی، اور مکہ میں بال محمد عبد المالک بن عبید العزیز بن جرجیج رحمنے، شام میں عبد الرحمن بن اوزاعی رحمنے، کوفہ میں سفیان ثوری رحمنے، بصرہ میں حماد بن سلمہ نے حدیث میں کتابیں جمع کیں، پھر سخاری اور مسلم نے اپنی صحیحین تصنیف کیں، اور ان میں صرف صحیح حدیثوں کے ذکر پر اتفاقاً کیا اور دوسری کمزور اور ضعیف روایتوں کو ترک کر دیا۔

اعلامہ محمد ثین نے احادیث کے معاملے میں انہماً جانفشاںی اور محنت کی، چنانچہ "اماء الرجال" کا ایک عظیم الشان فن قائم کیا، جس کے ذریعے ہر ایک ناقل حدیث کا پورا حال اور کچھا چٹھا معلوم ہو سکے، کہ اسکی دیانت اور یادداشت کا کا حال ہے؟ اور صحاح کے مصنفوں میں سے ہر ایک نے ہر روایت کی سند پانے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے ہوئے روایت کی اور سخاری کی بعض حدیثیں ثلاثی ہیں، ملے اس کے باوجود بعض صحابہؓ کے پاس احادیث کے لکھنے ہوئے مجموعے موجود تھے، جنھیں انہوں نے کامل احتیاط کے ساتھ قرآن کریم سے الگ رکھا ہوا تھا، چنانچہ عبد اللہ بن عمر و بن عاصٰ کے بارے میں البرادر کی روایت میں تصریح ہے کہ انہوں نے آنحضرت کے حکم سے احادیث لکھی ہیں (جمع الفوائد)، ص ۲۷۶ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے پانے مجموعے کا نام "الصیحۃ الصادقة" رکھا تھا، اس کے علاوہ حال ہی میں ہمام بن منبهؓ کا جمع کیا ہوا ایک مجموعہ حدیث دریافت ہوا ہے، جو انہیں حضرت ابو ہریرہؓ نے املا کرایا تھا، جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس وقت ہی سے کتابت حدیث کی ابتدا ہو چکی تھی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، اس مسئلے کی مسیل اور محققانہ بحث حضرت مولانا ناظر الحسن صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تدوین حدیث مطبوعہ مجلس علمی، کراچی میں ملے گی، ۱۲ تھی،

یعنی صرف تین داسطوں سے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہیں،
حدیث کی تین قسمیں پھر صحیح حدیث کی تین قسمیں قرار دی گئی ہیں:

۱، متواتر ۲، مشہور۔ ۳، خبر واحد۔

حدیث متواتر دہ کہلاتی ہیں جس کو ایسی جماعت دوسری جماعت سے نقل کرتی ہے کہ جن سب کا کسی جھوٹی بات پر متفق ہو جانا عقل کے نزدیک محال ہو، اس کی مثال نماز کی رکعتوں والی روایت یا زکوٰۃ کی مقداروں والی روایت دغیرہ، خبر مشہور وہ ہے کہ جو صحا پڑھ کے دور میں تو «اخبار آحاد» کی طرح تھی، پھر تابعین کے زمانے میں یا بیان تابعین کے دور میں مشہور ہو گئی، ان دونوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں تمام امت نے اس کو قبول کر دیا، اور اب وہ متواتر کے درجے کی ہو گئی، مثلاً سنگاری کا حکم زنا کے سلسلے میں،

خبر واحد ہے کہ جس کو ایک راوی نے دوسرے ایک راوی سے یا ایک جماعت سے یا ایک جماعت نے ایک شخص سے روایت کیا ہو،

متواتر حدیث علم یقینی کو مستلزم ہے، اور اس کا انکار کفر ہے، حدیث مشہور ہلک طابت کی موجب ہے، اس کا انکار بیدعت اور فسق ہے، خبر واحد دلوں قسم کے علم کی موجب نہیں مگر واجب العمل ہونے کی حد تک معتبر ہے، نہ اس سے عقائد کلاشیات ممکن ہے اور نہ اصول دین کا، اور اگر دلیل قطعی کے خلاف ہو تو اہد عقلي ہو یا نقلی تو اگر تاویل ممکن ہے تو اس میں تاویل کی جادے گی در نہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور اس کی جگہ دلیل قطعی پر عمل ضروری ہو گا،

حدیث صحیح اور قرآن میں فرق

یہ فرق تین طرح سے ہے: اول یہ کہ قرآن پورا کا پورا متواتر کے طریقے پر منقول ہے، لہ علم ہمایت حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات خبر مشہور سے ثابت ہو اس کے بارے میں کچھ متواتر کی طرح یقین تو نہیں ہوتا مگر اس کے صحیح ہونے کا غالب گمان اور اطمینان ہو جاتا ہے،

بالکل اسی طرح جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نازل ہوا تھا، اس کے نقل کرنے والوں نے اس کے کسی لفظ کو کسی دوسرے لفظ سے نہیں بدلا، خواہ وہ اسکے ہم معنی ہی کیوں نہ ہو، اس کے بر عکس صحیح حدیث کا روایت بالمعنی کے طور پر نقل کرنا ایسے ناقل کے لئے جائز تھا جو لغت عرب کا ماہر اور ان کے طرز کلام سے واقف ہو، دوسرافریق یہ ہے کہ قرآن چونکہ سارا متوatz سے، اس لئے اس کے کسی جملے کا انکا بھی مستلزم کفر ہے، برخلاف حدیث صحیح کے کہ اس کی ایک قسم یعنی متوatz کے عالیو اور کسی کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا ۲

تبیر افریق یہ ہے کہ بہت سے احکام کا تعلق خالی قرآن کے الفاظ سے بھی ہے جیسے نماز کا صحیح ہونا اور اس کی عبارت کا معجز ہونا بخلاف حدیث کے کہ اس کے الفاظ سے احکام کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب یہیں بیان کردہ فوائد کے بعد آپ کے خوب ذہن نشین ہو گیا ہو گا کہ اس خاص طریقے پر صحیح حدیث کا غتیار کرنے سے مسلمانوں پر کسی قسم کی مجازی یا اعتراض لازم نہیں آ سکتا ۳



لہ روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ارشاد فرمائے تھے رادی یعنی ان الفاظ کو تو نقل نہیں کرنا مگر ان کا مفہوم پوری طرح ادا کر دیتا ہے، تدقیق یہ یعنی کوئی شخص کسی مخصوص حدیث مشبوہ یا جو واحد کے انکار کرنے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن یہ واضح ہے کہ جو شخص احادیث کا اصولی طور پر ہی جنت تسلیم نہ کرتا ہو وہ تمام مسلمان مسکاتی ذکر کے زدیک کافر ہے، اسکی مثال تقریباً یہی ہے جیسے کہ نصائری کے یہاں اگر کوئی شخص باشبل کی کسی آیت کو احراقی قرار دیدے تو وہ ان کے زدیک عیاشیت سے خارج نہیں ہوتا، چنانچہ بہت سے علماء نے باشبل کی بہت سی عبارتوں کو احراقی تسلیم کیا ہے، لیکن جو شخص باشبل کو اصولی طور پر تسلیم نہ کرے اُسے وہ عیاشیت سے خارج قرار دیتے ہیں ۱۲ تدقیق

تصانیف

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی

﴿ تقلید کی شرعی حیثیت ﴾	﴿ اسلام اور جدید معاشرت و تجارت ﴾
﴿ جہاں دیدہ ﴾	﴿ اندرس میں چند روز ﴾
﴿ حضرت معاویہؓ و تاریخی حقائق ﴾	﴿ اسلام اور سیاست حاضرہ ﴾
﴿ جمیت حدیث ﴾	﴿ اسلام اور جدت پسندی ﴾
﴿ حضور ﷺ نے فرمایا ﴾	﴿ اصلاح معاشرہ ﴾
﴿ حکیم الامتؐ کے سیاسی افکار ﴾	﴿ اصلاحی خطباب (۱۶ جلد) ﴾
﴿ درس ترمذی کامل ۳ جلد ﴾	﴿ اصلاحی مواعظ ۳ جلد ﴾
﴿ دنیا مرے آگے ﴾	﴿ اصلاحی مجالس ۳ جلد ﴾
﴿ دینی مدارس کا نصاب و نظام ﴾	﴿ احکام اعتکاف ﴾
﴿ ذکر و فکر ﴾	﴿ اکابر علمائے دیوبند کیا تھے؟ ﴾
﴿ ضبط ولادت ﴾	﴿ آسان نیکیاں ﴾
﴿ عیسائیت کیا ہے؟ ﴾	﴿ بابل سے قرآن تک کامل ۳ جلد ﴾
﴿ علوم القرآن ﴾	﴿ بابل کیا ہے؟ ﴾
﴿ عدالتی فیصلے ۲ جلد ﴾	﴿ پر نور دعائیں ﴾
﴿ فرد کی اصلاح ﴾	﴿ تراشے ﴾
﴿ فقہی مقالات ۲ جلد ﴾	﴿ سو پر تاریخی فیصلہ ﴾

﴿ ﴾ ہمارا تعلیمی نظام	قاد نی فتنہ اور ملت اسلامیہ کا موقف
﴿ ﴾ ہمارا معاشری نظام	ملکیت زمین اور اس کی تحدید
﴿ ﴾ تمذیل فتح الہامیں کامل ۶ جلد	ماہر حضرت عارفی
﴿ ﴾ بحوث فی قضایا فقیرہ معاصرۃ ۲ جلد	میرے والد میرے شیخ
﴿ ﴾ احکام الذبائح	نقوش رفتگان
﴿ ﴾ نظرۃ عابرة	نشری تقریریں
﴿ ﴾ ماہی النصرانیہ	نقوش و تاثرات
﴿ ﴾ فتاویٰ عثمانی ۲ جلد	نخاذ شرایع اور اس کے مسائل
﴿ ﴾ انعام الباری	نمازیں سنت کے مطابق پڑھیں
﴿ ﴾ تذکرے	ہمارے عالمی مسائل
﴿ ﴾ البلاع حضرت عارفی نمبر ۲ جلد	البلاغ حضرت مفتی عظیم نمبر ۲ جلد

ENGLISH BOOKS

The Noble Quran 2 Volume	﴿ ﴾ Islam and Mderism
An Introduction to Islamic Finance	﴿ ﴾ Saying of Muhammad
The Historic Judgment on Interest	﴿ ﴾ Spiritual Discourses
Contemporary Fatawa	﴿ ﴾ Islamic Months
The Language of the Friday Khutbah	﴿ ﴾ What is Christianity
Discourses on the Islamic way of life	﴿ ﴾ Redinat Prayers
The Legal Sistes of Following a madhab	﴿ ﴾ Qur'anic Science
Legal Rulling Slaughtered Animals	﴿ ﴾ The Authority or Sunnah
Perform Salah Correctly	﴿ ﴾ Easy Good Deeds

تصانیف

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفع عثمانی صاحب مدظلہم العالی

- ✿ حیات مفتی اعظم
- ✿ نوادر الفقہ ۲ جلد
- ✿ اللہ کا ذکر
- ✿ درس مسلم ۲ جلد
- ✿ علمائے دین بند کے تین فرانچ منصبوں
- ✿ جہاد اشیعہ اور ہماری فرماداری
- ✿ دینی جماعتیں اور موجودہ سیاست
- ✿ حج کے بعد زندگی کیسے گزاریں
- ✿ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤ
- ✿ علامات قیامت اور زوال مسیح
- ✿ مسئلہ تقدیر کا آسان حل
- ✿ دوسرا جہاد افغانستان
- ✿ علم الصیغہ
- ✿ شرح عقود رسم المفتی
- ✿ دینی تعلیم اور حصیقت
- ✿ عورت کی سربراہی کی شرعی دلیلیت
- ✿ مکاتب الاجماع و صحیۃ
- ✿ محبت رسول اور ائمۃ ائمۃ
- ✿ فقہ اور تصوف ایک تعارف
- ✿ المقالات الفقہیہ
- ✿ ملت اسلام اور دین اللہ
- ✿ کتابت حدیث عبد رسالت
- ✿ ضایطہ المنظرات فی مجال اللہ اوی
- ✿ مستحب کام اور ان کی ایمیٹ
- ✿ دعید صحابہ میں

- ✿ میرے مرشد حضرت عارفی
- ✿ (رسائل)
- ✿ پورپ کے تین معاشی نظام
- ✿ دینی مدارس اور نفاذ شریعت
- ✿ خدمت خلق
- ✿ احکامہ زکوۃ
- ✿ یہ تیرے ... پراسرار بندے
- ✿ حب جاہ ایک باطنی بیکاری
- ✿ طلباءِ دین سے خطاب
- ✿ گلگت کے پہاڑوں میں
- ✿ یادگار آپ بیتی (سفرنامہ)
- ✿ انبیاء کی سرز میں (سفرنامہ)